

حَمْدُهُمْ وَلَبَّيْتُ حَضْرَةَ مَوْلَانَا شَرْفِ عَلَى تَعَاوِي

لَفْظَاتٍ حَكْمُ الْأَمَّةِ

اداره تاليفات اشرفیہ

پوک فوارہ نستان پاکستان
(061-4540513-4519240)

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

جلد ۲۲



مجالس حکیم الامت

حکیم الامت مفتی مولانا اشرف علی تھانوی

کی مجالس اور اسفار، نشست و برخاست میں بیان فرمودہ انبیاء کرام، اولیاء عظام کے تذکروں، عاشقان الہی ذوالا احترام کی حکایات و روایات، دین برحق مدھب اسلام کے احکام و مسائل جن کا ہر فقرہ حقائق و معانی کے عطر سے معطر، ہر لفظ صبغۃ اللہ سے رنگا ہوا، ہر کلمہ شرابِ عشقِ حقیقی میں ڈوبا ہوا، ہر جملہ اصلاح نفس و اخلاق، نکات تصوف اور مختلف علمی و عملی، عقلی و نقلي، معلومات و تجربات کے پیش بہا خزان کا دفینہ ہے اور جن کا مطالعہ آپ کی پڑ بھار مجلس کا نقشہ آج بھی پیش کر دیتا ہے۔

جمع فرمودہ

مفتی عظم مولانا مفتی محمد شفیع صاحب خلیفہ حضرت حکیم الامت تھانوی

اشرفیہ منزل چوک فوارہ بیرون بورہ گیٹ

ملان - پاکستان فون: 540513

ادارہٗ ایقاٰتِ اشرفیہ

اظہار مسروت تحسین

از حضرت اقدس مرشدی و مری

مولانا الحاج محمد شریف صاحب خلیفہ ارشد علیہ السلام تحسیر مولانا اشرف علی تھانوی

بسم اللہ الرحمن الرحیم

جسے دلی ذہنی ہے کہ عزیز الغور حافظ نہ سعاق حب بجد دامت
 حیثی الدامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تائیفہ سے شائع ہر نے
 کے دریں ہیں۔ انہیں حضرت رح سے حرف بہت ہی نہیں بنت کانٹہ
 ہے۔ حضرت کے میک ادراخ اُق کی تبلیغ کے بہت خوبیشمنہ
 ہیں اور زدگی کے حضرت کی بہت بیس جو نیاب ہیں چھپو ہتے
 رہتے ہیں۔ اس تعالیٰ ان کی سماں کو فیصل فرماسکرنا لیں کے لئے تائیفہ
 اور ہر ایسے اور اُن کے لئے سرماں ہی آخوت بنیں۔

دعا اگو اختر محمد شریف عفی عنہ



نام کتاب مجلس حکیم الامت

اشاعت: ربیع المرجب ۱۴۲۲ھ

باہتمام: محمد اسحاق عفی

سلامت اقبال پرنٹنگ پرنس چوک فوارہ ملتان

فہرست مضمون

| | صفحہ | مضمون |
|----|------|---|
| 47 | 21 | تحانہ بھوں کی سب سے پہلی حاضری دوسری حاضری |
| 47 | 24 | تمسی حاضری تحانہ بھوں |
| 47 | 29 | تحانہ بھوں کی چوتھی حاضری ۱۳۲۵ھ میں |
| 48 | 32 | مجاہس حکیم الامت کے متعلق حضرت مولا ناظر احمد عثمانی مدظلہ العالی کا مکتوب |
| 48 | 35 | رمضان المبارک ۱۳۲۴ھ |
| 48 | 37 | نظم و ضبط دین اور دنیا کے ہر کام میں مفید اور ضروری ہے الیعنی اور افضل بخشیں انسان کو بڑے گناہوں میں جتنا کر دیتی ہیں بزرگوں نے اس سے پہ بیز کا بڑا اہتمام کیا ہے |
| 49 | 38 | معاملات میں احتیاط کی تعلیم |
| 50 | 38 | ہر چیز اپنی حد کے اندر ہی نافع ہوتی ہے |
| 51 | 39 | اکابر علماء دینی بند کی خداتری اور اپنے مناخشین ساتھ معاملہ |
| 53 | 40 | جنت الاسلام حضرت مولا ناصحہ قادر |
| 53 | 41 | ترک ملازمت مدرسہ کانپور کا قاضی |
| 53 | 42 | قرخ سے پریشانی اور حضرت گنگوہی کا مشورہ |
| 53 | 42 | تحتوی اور توضیع کی خاص شان مشورہ اکابر کی پابندی |
| 54 | 43 | تعلیم جدید سے پیدا ہونے والے شبہات کی اصل بنیاد |
| 54 | 44 | اشراف فرش کی حقیقت |
| 54 | 44 | بزرگوں کے تاویذات عام عالموں کی طرح نہیں ہوتے |
| 56 | 45 | حضرت کی تفسیر اور تصوف سے مناسبت حضرت |
| 56 | 46 | حاجی ساہب کی پیشگوئی |
| 59 | 46 | جنت میں تفاضل درجات کے باوجود باہمی سند نہ ہوگا |
| 59 | 46 | لوگوں سے جھگڑے کے واسطے علماء سے فتوی لینا |
| 60 | 46 | حضرت مولا ناصحہ قادر محبوب صاحب کی حکیمانہ نصیحت |

| | | | |
|----|---|----|---|
| 72 | تفویض ہو کل کا صحیح غبہم جو بہت سے شبہات کا حل ہے عبدات میں جی لگانا مطلوب ہے جی لگنا چونکہ اختیاری نہیں اس کا حکم بھی نہیں | 60 | نور عز کوں سے اختیاط میں احتیاط لازم ہے اصلاح خلق میں حسن مدیر کے چند واقعات جگہ مراد آبادی شاعر مرحوم کی شراب سے توبہ کا واقعہ |
| 72 | | 60 | کالج کے ایک طالب علم کا واقعہ |
| 73 | اموال میں حقوق کی رعایت کا شدید اہتمام | 63 | ایک دوسرے طالب علم کا ایسا ہی واقعہ |
| 74 | کسی کے ذمہ نابالغ کا کوئی حق ہو تو کسی طرح ادا کرے نابالغ کی ملکیت میں ماں باپ کو بھی یہ اختیار نہیں کر دوسرے کو دے دیں | 64 | تینکی کی طرف جو قدم بھی اٹھنے نقش سے خالی نہیں |
| 74 | ترجمہ قرآن میں محاورہ اور اردو ادب کی زیادہ رعایت کرنا کلامِ الہی کی شان کے خلاف ہے | 65 | دارالعلوم دیوبند کے متعلقین کے لئے حضرت مولانا محمد یعقوبؒ کی دعا |
| 75 | ایک مکالمہ | 66 | کسی کو چھپے سے پکارنا آداب معاشرت کے خلاف ہے |
| 75 | خواجہ عزیز احسان مجدوب | 66 | معاشی پریشانی کا علاج آمدی بڑھانے کے بجائے خرج کم کرتا ہے |
| 76 | اشغال بحوزہ صوفیہ اور ذکر جہری قبول بدیہی کے متعلق امام غزالی کی تحقیق پر اشکال | 66 | ضابطہ کی پابندی کا ایک عجیب نمونہ |
| 76 | اور جواب | 67 | تلاوت میں تو اعد تجوید کی رعایت کی حدود اصطلاحات فنون کی تسلیم کا ارادہ |
| 77 | حضرت مولانا محمد یعقوبؒ | | انجیا، علیهم السلام سے زلات کا صدور عین رحمت، حکمت ہے |
| 77 | علامہ شبی نعمانی کا قول کہ قوم کی اصلاح صرف مقدس اور بزرگ ہستیوں سے ہو سکتی ہے | 67 | سفرجؒ کے لئے شرائط و آداب |
| 78 | مہمان کافر کا اکرام اور دینی مضرت سے احتیاط سیاسی مذاہیر جو خلاف شرع ہوں مسلمانوں کے لئے مفید نہیں ہوتیں کفار کے لئے مفید ہوں تو اس | 68 | حضرت حاجی صاحب قدس سرہ کا ایک ماقوظہ |
| 78 | سے دھوکہ نہ کھائیں | 68 | حضرت مولینا محمد قاسم ناٹوی ریاست رامپور میں جنات تابع کرنے کا عمل |
| 79 | نظم و انتظام ہر چیز میں مطلوب و محمود ہے | 69 | جہر آمین اور رفع یہ دین کے مسئلہ میں حضرت شاہ عبد القادر اور شاہ اسماعیلؒ کا مکالمہ، احیاء سنت کی صحیح تفسیر |
| 79 | کسی بزرگ پر اعتقاد کا معیار | 69 | |
| 80 | ایک آیت کی تفسیر سے شبہ کا ازالہ | | خاص رشتہ داروں کو بیعت کرنا عام حالات میں خلاف مصلحت ہے |
| 80 | دعویٰ بھی عملی بھی ہوتا ہے | 71 | |

| صفحہ | مضمون | صفحہ | مضمون |
|------|--|------|---|
| 92 | بزرگوں کی صحبت سے اصل مقصود کیا چیز ہے | 81 | عوام کے اعتقاد قابل التفات نہیں |
| 92 | قبل از بھرت جہاد اور مقابلہ کفار کی اجازت ہونے پر ایک اشکال و جواب | 81 | لباس میں تکلف کی پابندی نکالتا اور پست حوصلہ ہونے کی علامت ہے |
| | حصول علم کے لئے کثرت مطالعہ سے زیادہ ادب | 81 | رحمت حق تعالیٰ کا ایک عجیب واقعہ |
| 93 | مشائخ ضروری ہے | 83 | حضرت قرشی مجدد کی ایک کرامت |
| 93 | شبہات سمجھنا آسان اور جواب سمجھنا مشکل کیوں ہے | 84 | حضرت گنگوہیؒ کے تفہق پر حضرت نانو تویؒ کی شہادت |
| 94 | حضرت کے اجلال بس رکھنے پر بعض لوگوں کا اعتراض | 84 | بیماری میں حضرت نانو تویؒ کا تسمم نہ کرنا اور حضرت |
| 94 | حضرت کے ماموں صاحب کا ایک پسندیدہ شعر | 84 | مولانا محمد یعقوبؒ کی تنبیہ |
| 94 | عورتوں کے مہر میں افراط و تفریط | 84 | اہل علم کے لئے انتظامی کاموں سے الگ ہٹنای ہبھر ہے |
| 95 | زمانہ فتنہ کے متعلق ایک حدیث | 85 | ذکر جہر اور اشغال صوفیہ اور بدعت کی حقیقت |
| 95 | شرعی حیلہ | | حضرت سید احمد شہید بریلویؒ اور منشی الہی بخش |
| 96 | تعویز گندے | 86 | کاندھلویؒ |
| | اہل اللہ پر جوش تقریروں کے خادی نہیں ہوتے، | 86 | بچوں کے معلم ایک مقی بزرگ |
| 97 | اس کی وجہ | | بعض اوقات عمل غلط ہوتا ہے مگر اس کا داعیہ صحیح اور |
| 98 | دین کے معاملے میں ہر شخص کی خود رائی عجیب ہے | 87 | قابلِ قدر ہوتا ہے حضرت جنیدؒ کی حکایت |
| 98 | بزرگوں کے تبرکات کا اثر | | حضرت فاروق عظیمؒ کے سامنے عراق کے خزان |
| 99 | مسلمانوں کی مالی خوشحالی بھی نعمت ہے | 87 | اور فاروق عظیمؒ کی دعاء |
| 99 | بآہمی اتفاق تو اضع سے پیدا ہوتا ہے | 88 | ایک رومنی بزرگ خلیل پاشا |
| | ایک حدیث پر اشکال اور اس کا جواب از | 89 | ایک آیت کی تفسیر پر شبہ اور اس کا جواب |
| 100 | حضرت گنگوہیؒ | 90 | ۷۸۵ء کی ایک فتحت آمیر حکایت |
| | حضرت گنگوہیؒ کا اپنے اوپر تنقید کرنے والوں کے | 91 | نفس کی اصلاح |
| 100 | ساتھ معاملہ | 91 | ملفوظات رمضان ۱۳۲۸ھ |
| 101 | مثنوی رومنی کا خلاصہ و چیزیں جیسیں توحید اور ضرورت شیخ | | حجاج بن یوسف ظالم پر بھی کوئی گوناہ اڑام لگائے گا |
| 101 | حضرت حکیم الامت کی کتب میں | 91 | تو سزا پائے گا |
| 102 | صحابہ کرامؐ کی خاص شان | 91 | اختلاف مسلمک کی صورت میں ضابطہ تعلقات بآہمی |

| صفحہ | صفحہ مضمون | مضمار |
|------|--|---|
| | شعر شاعری میں بزرگانِ دیوبند کی احتیاط اور | نیت صحیح ہو تو مملی کوتا ہیاں اکثر معاف ہو جاتی ہیں |
| 115 | اعتدال پسندی | مدارس و دینیہ عربیہ کی خاص اہمیت |
| 115 | تعویز گندا | عبادت کے اظہار اور اخفاء میں اعتدال |
| 116 | انگریزوں کی دوستی بھی فتنہ ہے دشمنی بھی | خواب اور تفسیرِ خواب |
| | بڑھاپے میں غیر محروم عورتوں اور امرد لڑکوں سے | کسی کوتبلہ و کعبہ کہنا |
| 116 | علیحدہ رہنے کا اہتمام پورا کرنا چاہیے | سنن نبوی پر عملِ بلا نیت و ارادہ بھی ہو تو برکت سے |
| | اہل بدعت اور خلاف مسلک لوگ جو عبادت گزار | خالی نہیں |
| 117 | ہوں انکی شخصیات کے معاملہ میں احتیاط | دل سے متعلق چند اشعار |
| 118 | مجاہس رمضان المبارک ۱۳۸۵ھ | روشنی کی تعریف |
| | جن کو کوئی کرنا ہوتا ہے انکو شبہات بہت کم ہوتے | طریق صوفیا، کی اصل |
| | ہیں اور بہت جلد رفع ہو جاتے ہیں زیادہ تدقیق | سماجِ جائز کے شرائط از سلطان نظام الدین اولیاء |
| 120 | میں وہ پڑتے ہیں جکلو کام کرتا نہیں ہوتا | اہل ممال کے پیچانے کا حکیمانہ معیار |
| | کسی مسلمان کی تکفیر یا تفسیر کے معاملہ میں بڑی | جب خواب میں آنحضرت ﷺ کی زیارت حلیہ |
| 121 | احتیاط لازم ہے | شریفہ کے خلاف ہو |
| 122 | تکبر کی حقیقت اور ایک اشکال کا جواب | شجاعت اور حرم عموماً متذراً زم ہوتے ہیں |
| 123 | حاضراتِ شخص خیالی چیز اور سکریزم کی قسم ہے | جس شخص کی بیوی بے پرده ہو، اس کی امامت |
| 123 | علم کلام کا صحیح مقام | سرسیدہ اور حضرت مولا ناجد یعقوب |
| 124 | عمل میں احتیاط اور بدگمانی میں فرق | جن طکوں میں عشاء کا وقت نہیں آتا صحیح ہو جاتی ہے |
| 125 | طریقِ تصوف میں ترک تعلقات اور ترک عزائم | ان میں نماز کا مسئلہ |
| | کسی شخص میں کوئی عیب دیکھو تو اسکے درسے | صحیح ہے |
| 125 | کمالات سے قطع نظر نہ کرو | جو کشفِ تلہیس سے خالی ہو وہ بھی شرعی بجت نہیں |
| 125 | بیوی کو واجبِ نفقہ سے کچھ زائد دینے کا مشورہ | مشنوی کے ایک شعر کی شرح و تقریر |
| 126 | امراء دنیا کے ساتھ بزرگوں کا معاملہ | تفکیل کلام کے متعلق ایک حدیث کی شرح |
| 127 | دیناتِ ملت تھدہ ہے کہ ہر قدم ہر معاملہ میں اسکی فکر ہے | طاہرین کے لئے ایک حکیمانہ نصیحت |
| | مسئلہ تقدیر کی حقیقت اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی | خطراتِ انسانیہ اور شیطانیہ میں فرق |

| صفحہ | مضمون | صفحہ | مضمون |
|------|--|------|--|
| 136 | خط کا جواب اسی کا غند پر لکھنا | 128 | حقیقت معلوم ہونے پر متوقف ہے وہ کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی |
| 136 | مدارسِ اسلامیہ کے چندہ کے متعلق اہم مشورہ | | جو کام لائیں (بے فائدہ) ہو وہ اگرچہ گناہ نہ ہو مگر مضر پھر بھی ہے |
| 136 | مسئلہ جبر و اختیار مختصر الفاظ میں | | دین کے معاملے میں شبہات کا اصل عبہ اللہ کی محبت و عظمت کی کمی ہے |
| 136 | انابت الی اللہ کی برکت علوم و فنون میں | 128 | مدارسِ اسلامیہ کے لئے ایک مفید مشورہ |
| 137 | حکیمانہ جواب | | حقیقی تصوف کے احکام و مسائل درحقیقت شرعی احکام میں مگر کتب فقہ میں انکی تدوین ایک خاص وجہ سے نہیں ہوتی |
| 137 | دلائل الحیرات اور ما ثورہ درود و سلام | 128 | شیخ کی مجلس میں بیٹھنے والوں کو کیا کرنا چاہیے نماز میں خشوع اور حضور قلب کا آسان نسخہ |
| 137 | ملفوظات حضرت شاہ ولی اللہ | 129 | علماء کو صوفیاء پر ترجیح |
| 137 | ہندستان کے مشہور بزرگوں کی تاریخ ایک گردیز کے قلم سے بعض اولیاء اللہ کی سادگی | | اہل طریقت کے لئے ہدایت |
| 137 | اپنے کمالات کے اخفاء اظہار میں معتدل فصلہ | 130 | جس کسی کو کوئی کام بتاؤ آسان کر کے بتاؤ خواہ وہ اپنانو کریں ہو |
| 138 | علماء کے درمیان اختلافی مسائل میں توسع | 131 | کشف و الہام کے ذریعہ جو علم حاصل ہو قابل اطمینان نہیں اطمینان صرف اس علم سے ہو سکتا ہے |
| 138 | خلق خدا کو فائدہ نزی علمی تحقیق سے نہیں بلکہ عملی تقدیس سے پہنچتا ہے | 131 | جذبہ سلوک کے معاملے میں رتبہ حس کا ایک خاص مظہر |
| 139 | عمر رفتہ پر چند آنسو در ۱۳۹ | 132 | آئندہ مجتہدین سب کے سب صاحب مقامات اولیاء اللہ تعالیٰ کے ملائیں |
| 141 | اولیاء اللہ سے خلق خدا کو بلا ارادہ بھی فائدہ پہنچتا ہے | | اللہ تعالیٰ |
| 141 | صحبۃ شیخ کا ایک خاص ادب | 132 | تقلید شخصی |
| 141 | اہل معصیت سے بعض بھی ضروری ہے اور اپنے کو سب سے کمتر بھینا بھی ہدفونوں کو س طرح جمع کیا جائے | | عورتوں میں علم دین |
| 142 | کسی کی آزادی میں خلل نہذالو | 133 | |
| 143 | کسی کی تعظیم کے لئے کھڑا ہونا | 133 | |
| 144 | حُنفی اور محمدی | 134 | |
| 144 | جہاد ۱۸۵ء | | |
| 145 | نزی اور رخنی | 134 | |
| 145 | حفل میلاد | 135 | |
| 147 | رذائل کی اصلاح کا ایک خاص طریقہ | 135 | |

| صفحہ | مضمون | صفحہ | مضمون |
|------|--|------|--|
| 158 | ایک دیوانے کا کہر حکمت ۲۱ رمضان ۱۳۲۸ھ بعد الجمود | 147 | خوف صرف اللہ سے اور اپنے نفس سے چاہیے |
| 158 | مجد و ب اور عام دیوانے میں فرق | 148 | مطاعد کتب کے لئے ایک ہدایت قواعد فہمیہ اور اختلاف علماء |
| 159 | عقائد سلف اور علم کلام میں سلامتی کا راستہ | 149 | حضرت معاویہؓ |
| 160 | وحی اور الہام میں فرق | 149 | الغاظا اور ناموں میں بھی اللہ تعالیٰ نے تأشیر کی ہے |
| 160 | ایک صوفیانہ شعر کی تحقیق | 149 | حضرت شاہ عبدالعزیزؒ کی انتہائی زکاوت |
| 161 | لوگوں پر سب و شتم کرنے والا برکات باطنیہ سے محروم رہتا ہے | 150 | غیر اللہ کے لئے نذر اور منت کے ایک مسئلہ کی تحقیق حضرت صوفیہ کے مجاہدات اصل مقصود نہیں بلکہ ذریعہ مقصود ہیں ان کی کمی یا کمی اور تبدیلی مزاج کے مناسب کی جانی چاہیے |
| 161 | خلوت میں خوف و گری اور جلوت میں انبساط چاہیے | 151 | دو بزرگوں کا ایک مسئلہ میں مکالمہ رخصت اور عزیمت سے متعلق ایک مقالہ |
| 161 | حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب کیرانوی مصنف اظہار الحق رذ عیسائیت | 152 | عورت کو غیر محرم سے چہرہ کا پردہ بھی واجب ہے |
| 162 | علم میں برکت بزرگان سلف کے ادب سے ہوتی ہے | 153 | استغنا کا بڑا اکمال |
| 162 | دین کے معاملہ میں جرأت بے جا | 153 | ایک لطیفہ |
| 163 | ایک عامی آدمی کا کہر حکمت | 153 | مرید کے شبہات کا علاج |
| 163 | بزرگوں کی تواضع | 154 | حضرت کا طبعی اعتماد اور انصاف اور معاشرت کے آداب خاص |
| 163 | اصلاح اعمال کے لئے ایک مراثیہ | 154 | ساف گوئی کے درجات |
| 163 | اللہ والوں کی شان میں گستاخی بے ادبی سخت | 155 | بزرگان دین کے تہذیب کی حقیقت |
| 163 | بے اثرات رکھتی ہے | 155 | عمل میں کوشش اور خدا پر بھروسہ |
| 164 | خدمتِ خلق میں بھی مشاہدہ حق ہو سکتا ہے | 156 | خود تقویٰ پر عمل اور دوسروں کے لئے سہولت دینے |
| 165 | توحید کی حقیقت عملی | 156 | کا اہتمام اور ہر کام میں آداب معاشرت کی رعایت |
| 165 | مروجہ شبینہ | 156 | اللہ والوں کا جن بھی ادب کرتے ہیں |
| 165 | وقت میں برکت | 157 | علماء میں جو بدل بھی ہوں عوام میں ان کو روا کرنا اچھا نہیں |
| 166 | حضرت مرزامظہر جان جاناں شہید | 157 | |
| 166 | مدرسہ کے بارے میں | 158 | |
| 167 | تعريف کرنے والے کو جواب | 158 | |

| صفحہ | مضمون | صفحہ | مضمون |
|------|---|------|---|
| 183 | ایک اہم فائدہ | 167 | ایک حدیث کی تشریع |
| 184 | کرامت کا درجہ | 167 | حضرت گنگوہی کا ایک کلمہ حکمت |
| 185 | کشف کے متعلق ایک تحقیق | 168 | تعویذات و نقوش |
| 185 | بعض بزرگوں کے ایسے کلمات جو بظاہر ادب کے خلاف ہیں | 168 | قابل مذاہب |
| 185 | غلبہ تو اضع کا ایک واقعہ | 169 | افضل اور اکمل میں فرق |
| 186 | سماں کے متعلق تحقیق | | صوفیائے کرام کے مجوزہ طریقے اور تعلیمات اکثر |
| | انگریزوں کے متعلق مولانا محمد یعقوب صاحب کا | 169 | انتظامی تدبیریں ہیں احکام نہیں اس لئے ان کا |
| | حکیمانہ مقولہ | | ثبت نصوص سے ضروری نہیں |
| 186 | تنبیہ | | کسی سے بیعت ہونے کے لئے اس کا انتیاد |
| 186 | حضرت حاجی امداد اللہؒ ایک اہم وصیت | 171 | ضروری ہے اور انتیاد بغیر محبت کے نہیں ہوتا۔ اسی |
| 187 | تصوف علوم طبیعیہ میں سے ہے | 172 | لئے طریق سلوک میں حب شیخ کی بڑی اہمیت ہے |
| 187 | سو اور اعظم کی تفسیر | 174 | وعظ دلیل کے ہم آداب حسن کا سورہ ہونا تجربہ سے ثابت ہے |
| 187 | اصول تصوف | 176 | ایک اور واقعہ |
| 188 | خشوع کی حقیقت | | اصل مقصود تصوف کا نہایت سہل الوصول ہے |
| 188 | کشف اور کرامت میں فرق | | مجلس جمادی الثانیہ ۱۳۵۷ھ |
| 189 | ۳۰ رجبان ۱۳۵۵ھ جمع | 177 | الشعبان ۱۳۵۲ھ |
| 189 | احساس کا تیز ہونا ایک کمال ہے مگر جب اس سے اذیت ہونے لگے تو مرض ہے | 177 | ماہنامہ الحفی دیوبند کے متعلق ارشاد |
| 190 | اہل جنت کو کسی حال میں حسرت نہ ہوگی | 178 | رسی عالم ہونا ولی کامل ہونے کی شرط نہیں، بقدر ضرورت علم کے بعد اصل چیز عمل ہے |
| 190 | بزرگوں کے خطوط میں اشعار لکھنا | 178 | اختلاف علماء کے وقت عوام کو کیا کرنا چاہیے |
| | فتولی نویسی میں مختصر اور مفصل لکھنے پر حضرت مولانا محمد یعقوب کا ارشاد | 180 | ایک آیت کی تفسیر اور تحقیق |
| 190 | ابن منصور کے متعلق تحقیق و ارشاد | 181 | ابن اہل دنیا سے اہل اللہؒ کی ملاقات اور اس کا ادب |
| 191 | مسجد وقت اور قطب ارشاد کی بعض علامات | 181 | صغیرہ اور کبیرہ گناہ! |
| 191 | حافظت خداوندی | 183 | نبیاء علیہم السلام سے صغیرہ گناہ بھی سرزنشیں ہوتا |

| صفحہ | صفحہ مضمون | مضمون |
|------|---|--|
| 200 | ایک دیوانے کی ہوشیاری | انبیاء علیہم السلام سے کسی طرح معصیت کا صد و نہیں |
| 200 | ربط حادث بالقدیم اور مسئلہ وحدۃ الوجود | ہوتا |
| 200 | ایک لطیفہ | ایک عالم ایک عارف |
| 200 | بزرگوں کا مقولہ | قدیم و جدید طلباء مدارس اسلامیہ کا فرق |
| 201 | مسک معتدل | کرامات و خوارق متأخرین میں زیادہ کیوں |
| 201 | قیامِ میلاد | ہوئے؟ |
| 201 | اویاء اللہ کی اہانت دین و دنیا کا خطرہ ہے | ایک اہم ہدایت |
| 202 | تعویز گند اخلاق خدا کو فرع پہنچانے کے لئے اچھا ہے | شعبان و رمضان ۱۴۲۹ھ |
| 202 | اخلاص عمل | صفات الہیہ میں اعین و لا غیر کی تشریع |
| 203 | اپنے نفس کا محاسبہ | آیت مراعج کی ایک تحقیق |
| 203 | نام کا اثر انسان پر | ایک اہم نصیحت |
| 203 | نسبت و ولایت | ایک انگریز مورخ |
| 204 | مدارس عربیہ اور ان کے طلباء کے لئے خاص نصیحت | اجمیر شریف |
| 204 | ذیوۃ المسلمین کی خصوصیت | علماء کا باہمی اختلاف رائے |
| 205 | مولانا مظفر حسین صاحب کا ندھلوی | حضرت شاہ ولی اللہ کا ارشاد |
| 205 | مال اور رجاه کے صحیح منافع | مخالف سے انتقام یا صبر میں عارفین کا خابطہ |
| 206 | اکبر شاہ | وقت میں برکت |
| 206 | سرید بانی علی گڑھ کی نظر میں علماء دیوبند | بزرگوں کی بے تکلف مہمانی |
| 206 | بچوں کی ذہانت، ایک خاص مثال | حضرت گنگوہی |
| 207 | غیر مسلم کا اکرم بقدیر ضرورت | ایک اہم نصیحت |
| 208 | عوام کا دین و ایمان علماء سے رابطہ اور اعتقاد پر موقوف ہے | لوگوں کو تشویش سے بچانے کا اہتمام |
| 208 | غیر مسلم حکام کے ساتھ تعلقات | ارشاد |
| 208 | غیر محروم عورتوں کی طرف نظر | علوم مکاشفہ کی تحقیق سے مخالفت |
| | خطوط میں لکھے ہوئے سلام کا جواب بھی واجب | بزرگوں کے ملفوظات یاد کرنے سے زیادہ اپنے اندر استعداد پیدا کرنے کی فکر چاہیے |

| صفحہ | مضمون | صفحہ | مضمون |
|------|---|------|---|
| 245 | تفسیر قرآن کے متعلق ایک اہم ارشاد حضرت مولانا محمد قاسمؒ کی عمر اور حضرت مولانا محمد یعقوب صاحبؒ کا کشف | 232 | عام حیاتیں اور انسان میں فرق کی ایک خاص وجہ |
| 246 | دارالعلوم دیوبند کی سہ پرستی سے استغصی | 233 | حضرت حاجی صاحبؒ کی ایک وصیت |
| 247 | باہمی رواداری اور رعایت رفقاء | 234 | ایک آیت کی تفسیر اور شبہ کا ازالہ |
| 248 | حضرت مولانا گنگوہیؒ اور حضرت نانوتوؒ | 235 | اہل باطل کے کلام کا مطالعہ سخت مضر ہے |
| 248 | عوام کو مغالطہ سے بچانے کا اہتمام | 236 | وقف کا منہد ایک فقہی اشکال اور جواب |
| 249 | عمل میں احتمال ریاء کے سبب عمل کو نہ چھوڑے | 237 | حضرت مولانا محمد یعقوب صاحبؒ دارالعلوم دیوبند |
| 249 | سالکین کے لئے ایک اہم فیصلہ | 238 | کے پہلے صدر مدرس |
| 249 | تعلیم میں سہولت | 238 | حضرت علی کرم اللہ وجہہ |
| 250 | ضیاء القلوب میں ذکر و مرائقہ وغیرہ کی شرائط کا درجہ | 239 | زندگی مکی اور موت مدینہ کی |
| 250 | مقصود اصلی اعمال نہیں بلکہ رضائی حق ہے | 239 | صلحاء کے اجتماع کی برکات |
| 250 | صوفی کی تعریف | 239 | بخل اور اسراف |
| 251 | میرزا اپد | 240 | ایک واعظی کی دلیری |
| 251 | حق پینے کا حکم | 241 | حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوؒ اور امام رازی |
| | حضرت شاہ عبدالعزیزؒ صاحبؒ کی علامت اور ایک | 241 | حضرت شاہ عبدالرحیم دہلوی والدماجد حضرت شاہ ولی اللہ |
| 251 | ناؤاقف حکیم سے سابقہ | 241 | کرامت مؤثر فی القریب نہیں |
| 252 | رسکی مناظرہ سے نفرت | 241 | ذکر قلبی |
| 252 | حضرت حاجی صاحبؒ کا ارشاد | 242 | نیند سے انبیاء علیہم السلام کا وضو نہیں ثوڑتا |
| 253 | مرزا قادیانی اور اکابر دیوبند | 242 | ورع و تقویٰ میں نفس کا کوئی حظ نہیں اور عبادات |
| 253 | نیک گمانی اور بد گمانی میں اعتدال | 243 | میں کچھ ٹھنڈی نفس بھی ہے |
| | حضرت مولانا دیوبندی (شیخ البہنڈ) کے متعلق | 244 | ایک لطیفہ |
| 253 | حضرت حاجی صاحبؒ کا ارشاد | 244 | نیک فال اور بد فالی |
| 254 | رمضان المبارک ۱۴۵۰ھ | 245 | نابالغ کے پیچھے نماز تراویح |
| | حضرت مولانا فضل الرحمن صاحبؒ گنج مراد آبادی | 245 | تین کتابیں انہیں ہیں |
| | | | ایک غیر مقلد کی دعوت اور حضرت کی حکیمانہ تعلیم |
| | | | ایک بد گمانی دوسرے بذریعی |

| صفحہ | | صفحہ مضمون | مضمون |
|------|--|------------|---|
| 263 | عارف و غیر عارف کی عبادت میں تفاوت | 254 | کے بعض ملفوظات |
| 263 | معمولات کی پابندی کا حجت انجمن اہتمام | 254 | ایک اہم بدائلیت |
| 264 | عصر کے بعد کی سیر میں پند نامہ کا درس | 255 | غیر مسلموں کے ساتھ معاملہ |
| | جس عورت کا کوئی محرم حج میں ساتھ نہ ہو کسی باحرم | | حضرت خوبیہ بہاء الدین نقشبند کا اتباع سنت اور حسن |
| 264 | عورت کے ساتھ اس کا سفر | 255 | اوہ |
| | حضرت نظام الدین اولیاء کے خلیفہ حضرت حسن | 256 | تبیہ |
| 265 | کے شعر پر تضمین | 256 | مولانا فیض الحسن سہار پوری |
| 265 | حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوبؒ کا ایک شعر | | عمل تحریر کے متعلق حضرت مولانا محمد یعقوبؒ |
| 266 | مجالس حکیم الامت | 256 | کا ارشاد |
| 266 | کرامہ ذات اللہ اللہ! | 257 | مولوی غوث علی شاہ پانی پٹی |
| | اپنی تواضع کے ساتھ مریدوں کی تربیت کا خاص | 257 | ایک اہم عمل |
| 267 | اهتمام | 257 | ازدواج مطہرات کے لئے سال بھر کا نفقہ |
| | محقق صوفیہ کرام سے نفع عظیم اور گمراہ صوفیوں سے | 257 | ارشاد |
| 267 | امت کا ضرر عظیم | 257 | معمولاتِ سلف |
| 267 | عراتی اور مس تبریز | | مجالس حکیم الامت |
| 268 | حرروف و کلمات کا ادب | | مجالس رمضان المبارک ۱۳۵۲ھ |
| 269 | ملادو پیازے | 258 | اختلافی مسائل میں عدل و اعتدال |
| 269 | خوش پوشک ہونا حدود کے اندر ہو تو کوئی عیب نہیں | 258 | سالک کو جو حال پیش آئے اس پر راضی رہنا چاہیے |
| 269 | بزرگوں کے درجات قائم کرنا | 258 | حقیقی خواب میں ایک نور ہوتا ہے |
| 270 | ایک شاعرانہ طفیل | 259 | ایک اہم فتح |
| | بعض اوقات مرید سے شیخ کو اور شاگرد سے استاد کو | 259 | تکب کی نگرانی |
| 271 | فیض پنچتا ہے | 259 | حضرت کی ایک بیماری اور خالق عظیم اور رحمائی حقوق و حدود |
| | میرے والد ماجد کی ایک حکایت از مولانا محمد | 260 | مسڑ جناح قائد اعظم کا ایک خط حضرت کے نام |
| 272 | یعقوب صاحبؒ | 261 | حضرت کے محمرہ فتاویٰ کا نام حضرت کی طرف سے |
| 273 | حضرت مولانا محمد یعقوب صاحبؒ سائیک آیت کی تفسیر | 262 | حضرت کی کرامت بالصرف |

| صفحہ | مضمون | صفحہ | مضمون |
|------|---|------|-------|
| | مولانا جامی کے ایک شعر کا صحیح مفہوم | | |
| | دفع آسیب کے لئے حاضرات کا مسئلہ | | |
| | دنیا میں کسی کے تعلق پر بحث و سندادانی ہے | | |
| 286 | ایک عبادت کے ایصال ثواب میں چند آدمیوں کو شریک کیا جائے تو ثواب تقسیم ہو گا یا سب کو برابر ملے گا | 273 | |
| 286 | شیطان کو معلم املکو۔۔۔ کہنے کی شہرت | 274 | |
| 286 | خلوق کی ناراضی میں بعض اوقات حکمت ہوتی ہے | 274 | |
| 286 | دنیا کی فکر سے آخرت کی فکر مقدم ہونا چاہیے | 275 | |
| 287 | بعض اوقات مہر بصورت قهر ہوتی ہے | 276 | |
| 287 | ایک آیت پر منطقی اشکال اور اس کا جواب | 276 | |
| 288 | حکیمانہ جواب | 277 | |
| 289 | عقیدہ تقدیر کی حکمت | 277 | |
| 22 | مدارس اسلامیہ کے لئے چندہ جمع کرنے کا طریقہ | 278 | |
| 290 | بقول حضرت شیخ البہذ | 279 | |
| 290 | مامون رشید کا ایک عبرت آموز واقعہ | 279 | |
| | حضرت شاہ الحسن صاحب محدث دہلوی کے جامع اعلوم | 280 | |
| 291 | ہونے کا عجیب و اعجہ | 280 | |
| 291 | فتے سب فنون سے زیادہ مشکل ہے | 281 | |
| | ملا خالد نقشبندی ترکی کا تقویٰ اور بزرگان دہلوی پر | 281 | |
| 291 | تفقید | 282 | |
| | 19 ربیع الثانی ۱۳۵۸ھ | 282 | |
| 292 | اکابر و یوبند کا اعدل و اعتدال | 283 | |
| | لکھنؤ میں مدح صحابہ کی مجالس کے متعلق حضرت کا | 283 | |
| 293 | ارشاد | 283 | |
| | آیت یفسد فیها و یسفک الدماء پر شہرہ اور | 283 | |
| 295 | اس کا جواب از مولانا ناصر محمد یعقوب صاحب | 284 | |
| 295 | حضرت کی خاص تواضع | 285 | |

| صفحہ | مضمون | صفحہ | مضمون |
|------|---|------|--|
| 307 | اصطلاح | 296 | حضرت فاروق اعظم کے کرتے میں اکیس پوند |
| 308 | حالات اور مقامات میں فرق | 296 | بڑوں اور بزرگوں کی رضا جوئی کا اہتمام |
| | حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب کی تربیت میں | 297 | ایک تجربہ |
| 308 | مارپیٹ کی سزا | 297 | حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے دو شعر |
| 309 | اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا انعام | 297 | حرف ضاد کی ادائیگی کا مسئلہ |
| 309 | شیخ عبدالحق محدث دہلوی | 298 | مناظرہ |
| 309 | ایک اہم نصیحت | 298 | حضرت مولانا شیخ محمد صاحب کا مناظرہ |
| 309 | مولانا شاہ اللہ امیر ترسی اہل حدیث کا منصغناہ مشورہ | 299 | علماء ربانی کا حلم و کرم |
| 310 | اہل طریق کے لئے ایک مجرب اکسیری نسخہ | 299 | طریق جذب و سلوک |
| 310 | نجات کی دوہی صورتیں | 300 | ایک شخص کا خواب اور حضرت کی اسکوہدایت |
| 310 | حضرت گنگوہی کی ایک حکیمانہ نصیحت | 301 | حضرت کو قتل کی دھمکی اور حضرت کا رد عمل |
| 311 | ایک نہایت اہم ارشاد | 302 | تجوید قرآن کے معاملے میں افراد و تفاسیر |
| 312 | حضرت خضریلیہ السلام کی حیات و خدمات میں اختلاف | 302 | پانی پی اور مصری ابھج |
| 312 | لباس میں تکلف بیکاری اور پست ہمتی کی علامت ہے | 302 | قرآن میں وقف اور صلح کا حکم |
| 312 | بزرگان دیوبند کا احتیازی وصف | 303 | اخبار اور اخبار کا لطیفہ |
| 312 | گنگوہ کے ایک حافظ معلم قرآن | 303 | ہر کام میں حفظ حدود کی اہمیت |
| 313 | حضرت جنید بغدادی اور ایک چور | 303 | ایک تجربہ کی بات |
| 313 | انشاء شاعر کا ایک شعر حضرت بہت پسند فرماتے تھے | 303 | علمی انحرافات |
| | فتحات عراق کے وقت حضرت فاروق اعظم کی | 304 | دین پر پچھلی کے ساتھ اسکی فکر کے لوگوں کی دلخانی نہ ہو |
| 314 | دعائے عارفانہ | | تفویی میں رعایت حدود کے ساتھ رعایت قلوب بھی |
| 314 | شاہ شجاع کرمائی کی لڑکی کا بے مثال زہد | 304 | چاہیے |
| 316 | مصلح اور معانی کو حقیقت شناس ہونا چاہیے | 305 | مولانا مظفر حسین کی عقیدت حضرت حلی صاحب کے ساتھ |
| 316 | ایک ترکی درویش غلیل پاشا | 306 | ایک نہایت اہم مختصر جامع ارشاد |
| 317 | جنگ آزادی ۷۵ء کی ایک حکایت | 306 | حقیقت دنیا |
| | جو کسی بڑے ظالم پر بھی ظلم کرے گا اس سے بھی اللہ | | حالات روحانی و نفسانی اور مقامات تصوف کی |

| صفحہ | مضامون | صفحہ | مضامون |
|------|--|------|---|
| 328 | حضرت مولانا محمد یعقوب کا ارشاد متفرق انتظامی کام کا ملین کی جمیعت خاطر کو بربانہیں کر سکتے یا محمد یار رسول کی نداء پر ایک ارشاد ایک عجیب حکایت | 318 | انقام لے گا بزرگان دیوبند کا اصل امتیاز امام غزالی کے ایک مقولہ کی تشریع اور جواب شبه اہل کمال کی تعداد ہر زمانے میں تھوڑی رہی ہے علم پر عمل اور تقدیس کے بغیر لوگوں پر تعلیم کا اثر نہیں ہوتا مولانا عبداللہ حق صاحب واعظ دیوبند یہ ضروری نہیں کہ جو مد ایم کفار کی ترقی کا ذریعہ ہوں مسلمانوں کے لئے بھی ایسی ہی ہوں اللہ کی نعمتوں کو شکر کے ساتھ استعمال کرنا یعنی معرفت ہے حزن و غم کو تزکیہ باطن میں بڑا دخل ہے حضرت کا اپنا ایک شعر شکر اور ناشکری کی بنیاد بماری سے کراہنا صبر کے منافی نہیں انتخاب شیخ کا معیار اللہ تعالیٰ کی غیبی احمد اکسی مانوس انسان کی شکل میں مشقت اعمل مقصودہ میں ہر فرد یاد تلویح کا سبب ہے ہر کام میں طریق مسنون سلم ہے جس میں مشقت نہ یعنی نہیں اللہ کی نعمتوں سے استغناہ بڑی بے ادبی ہے شوق اور انس میں فرق جنت اور انس ہو گا شوق نہیں فضول والیعی تحقیقات طالب حق کا کام نہیں علماء و صلحاء کا مالداروں سے مستغنى رہنا اعزاز دین ہے اگر ریاء بھی ہو تو ثواب سے خالی نہیں حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب کی ایک حکیمانہ وصیت مدارس عربیہ اسلامیہ میں معاشی فنون کی تعلیم پر |
| 329 | | 319 | |
| 329 | | 319 | |
| 330 | | 320 | |
| 330 | | 320 | |
| 332 | طلب جاہ کی نہ ملت | | |
| 333 | کشف کوئی کمال انسانی نہیں | 320 | |
| 333 | ترک لذات کو تقریب الی اللہ میں کوئی دخل نہیں | 321 | |
| 334 | حضرت کی تربیت و اصلاح کا خاص رنگ | 322 | |
| 334 | حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب کے مکاشفات | 322 | |
| 336 | حضرت کی اپنے اساتذہ واکابر سے محبت و عقیدت | 322 | |
| 336 | حضرت نانو توئی کا ایک ارشاد | 322 | |
| | حضرت مولانا مدنی کے تعلق ایک خواب اور حضرت کا جواب | 323 | |
| 337 | | 323 | |
| 338 | اللہ کی نعمتوں کی قدر شناسی ہر چھوٹی بڑی نعمتوں کی حفاظت | 324 | |
| 338 | ایک خواب اور تعبیر | 325 | |
| 339 | ظالم حکام کے ساتھ عدل و اعتدال کا معاملہ | 325 | |
| 340 | بد گوئی کرنے والوں کا علاج | 325 | |
| 340 | حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب اور فن موسيقی | 326 | |
| 341 | حضرت مولانا محمد قاسم و مولانا محمد یعقوب | 326 | |
| | | 327 | |

داستانِ فصل گل را از نظری می شنو!
عند لیب آشفته ترمی گوید ایں افسانہ را

مجالس حکیم الامت

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد لله و كفى و سلام على عباده الذين اصطفى سيمما على سيدنا
المصطفى ومن بهديه اهتدى
يارب كجاست محروم رازے کے یک زمان!
دل شرح آن دہد کے چہ دید و چہا شید!

اسلام کے قرن اول سے لے کر آج تک ہر زمانے میں خالق اللہ کی تعلیم و تربیت اور اصلاح
اعمال و اخلاق کے لئے علماء اور اولیاء اللہ کی مجلسیں نسخہ اکیر ثابت ہوئی ہیں۔ احقر ناکارہ کو حق
تعالیٰ نے ایک ایسے ماحول میں پیدا فرمایا جہاں شروع ہی سے ان مجالس کے تذکرے سنے۔ والد
ماجد حضرت مولانا محمد لیں صاحب رحمۃ اللہ علیہ قطب عالم حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی قدس سرہ
کے مرید خاص حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب ؒ کے شاگرد اور بھی اکابر دیوبند کی خدمت سے
فیض یافتہ اور ان بزرگوں کا زندہ تذکرہ تھے۔

اسی ماحول میں آنکھ کھولی حضرت گنگوہی قدس سرہ کے تذکرے سنے اور بچپن کے لاشعوری
دور کی باتیں بھی یاد ہیں کہ جب گھر میں کون فکرو پریشانی کی بات ہوئی تو گنگوہ کو دعا کے لئے خط
لکھا جا رہا ہے۔ حضرت کے دعائیہ کلمات جواب میں آئے تو سنائے جا رہے ہیں۔ یہ بھی سنتا تھا
کہ میرانام محمد شفیع بھی حضرت ہی کا تجویز فرمایا ہوا نام ہے اور جب قرآن مجید پڑھنے کے لیے

مجھے کتب میں بٹھایا گیا تو حضرت ”کو دعاء کے لئے خط لکھا گیا۔ اس وقت حضرت گنگوہی قدس سرہ کی مجالس مرجع خلائق تھیں مگر ان میں حاضری کا کوئی موقع ہی نہیں تھا میری عمر آٹھ نو سال کی ہو گی جب ۱۳۲۳ھ میں حضرت گنگوہی قدس سرہ کی وفات ہو گئی۔

بچپن دارالعلوم دیوبند کے ماحول میں گزر اجہاں ہر چھوٹے بڑے کی زبان پر سے ”بڑے مولوی صاحب“ کا نام سناتا تھا۔ قصہ میں بھی اسی نام سے لوگ ایک مکان کا پتہ دیا کرتے تھے جو سب میں معروف و مشہور تھا۔ والد صاحب سے سنائے ہوئے مولوی صاحب ان کے استاد بھی ہیں اور بہت بزرگ ہیں۔ جب تعلیم کچھ آگے بڑھی، لکھنے پڑھنے میں لگا تو معلوم ہوا کہ یہی بڑے مولوی صاحب اس وقت دارالعلوم کے صدر مدزس ہیں۔ حدیث پڑھاتے ہیں اور دارالعلوم کے سب مدزسین اور منتظمین انکے شاگرد ہیں یا معتقد۔ اس وقت حضرت مولانا کے پڑتکلف الفاظ کا کہیں رواج نہ تھا۔ بزرگوں کی عظمت و محبت جاں ثاری کی حد تک پہنچی ہوئی تھی مگر شیخ الحدیث شیخ الكل حضرت شیخ وغیرہ القاب کا زبانی جمع خرچ جو بزرگوں کی عظمت و محبت کم ہونے کے زمانے میں شروع ہوا۔ اس وقت اس کا کہیں نام نہ تھا۔ بس ساری عقیدتمندی کے صدھیں ان کو ”بڑے مولوی صاحب“ کہا جاتا تھا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ ان کا اسم گرامی حضرت مولانا محمود حسن ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے کچھ عرصہ کے بعد شیخ الہند کا لقب معروف ہو گیا۔

ایک روز سنائے آج بڑے مولوی صاحب کے ہاں بخاری شریف کا درس شروع ہو رہا ہے۔

تیر کا سب علماء و طلباء اس میں شرکت کے لئے جا رہے ہیں ہم بھی ساتھ لگ لئے اور بخاری شریف کا باب بداؤالوجی اور پہلی حدیث کا بیان سنائے۔ اسی طرح ختم بخاری پر اجتماع ہوا تو آخری حدیث کا بیان سنائے اور اب یہ چکا لگ گیا کہ ہر سال بخاری شریف کے شروع اور ختم پر درس میں حاضری نصیب ہوتی۔ بچپن کا حافظہ تھا، آج تک بعض بعض کلمات یاد ہیں۔ حالانکہ اس وقت حدیث تو کیا سی بھی فن کا شعور نہیں تھا۔ فارسی اردو حساب ریاضی کی کتابیں پڑھا کرتا تھا۔

رنۃ رفتہ ان بڑے مولوی صاحب کی مجلس میں جو بعد عصر اپنے مکان پر ہوا کرتی تھی، کبھی

کبھی حضرت والد صاحب کے ساتھ حاضری ہونے لگی۔ اکابر علماء و صلحاء کا عجیب و غریب مجمع ہوتا تھا۔ ان کی باتیں تو کچھ پلے نہیں پڑتی تھیں مگر اس مجلس میں بینہنے کا ایک شوق بلا کسی سبب کے دل میں پیدا ہو گیا۔ اور اب والد صاحب کی معیت اور بعد عصر کی قید بھی رخصت ہو گئی جب منہ اٹھا وقت بے وقت حاضر ہو گیا۔ اکابر کی شفقت جو بچوں پر ہوا کرتی ہے مجھے بھی نصیب ہونے لگی۔ اور طالب علمی کے ابتدائی دور میں فارغ اوقات کھیل اور تفریح کے بجائے حضرت کی مجلس میں گزرنے لگے۔ رمضان المبارک میں حضرت کا یہ معمول تھا کہ تمام رات نوافل یا تراویح میں قرآن شریف سنتے تھے دو سال حق تعالیٰ نے اس میں بھی حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ میری عربی تعلیم کا ابتدائی دور جو ۱۳۲۶ھ میں شروع ہوا اس وقت دارالعلوم کے ناظم تعلیمات بھی حضرت ہی تھے۔ اس نے تعلیمی معاملات میں بھی آپ سے ہی مراجعت کی نوبت آنے لگی۔ اور حضرت کی شفقت و توجہ اور بڑھ گئی۔ ۱۳۲۷ھ میں میری تعلیم متوسط درجہ تک پہنچی تھی۔ ہدایہ وغیرہ کے اس باق تھے۔ پورے ملک میں ترکی کی خلافت پر اہل یورپ کی یورش کے قصے ہر وقت زبانوں پر تھے۔ اور روزانہ اخباروں کی طرف توجہ تھی۔ حضرت کی مجلس کارنگ اب کچھ بدلا ہوا نظر آنے لگا۔ پیشتر تذکرے انہی واقعات کے رہنے لگے اور اصلاح حال کی فکروں میں وقت صرف ہونے لگا۔ ملک میں سیاسی تحریکات نے زور پکڑا حضرت کی توجہ دارالعلوم کی تعلیمی خدمات سے زیادہ ہندوستان کو انگریزی تسلط سے آزاد کر اسلامی حکومت قائم کرنے کے لئے جہاد پر لگ گئی۔ اور پھر جو کچھ ہوا اس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں۔ مگر ان تمام حالات میں بھی دارالعلوم میں درس بخاری شریف کا سلسلہ برابر ۱۳۲۸ھ تک جاری رہا۔ ۱۳۲۹ھ میں میں نے کوشش کر کے مشکوٰۃ و جلالیں وغیرہ کے اس باق پورے کر لئے۔ بن کے بعد دورہ حدیث کا نمبر آتا ہے تمنا یہ تھی اگلے سال حضرت شیخ کی خدمت میں صحیح بخاری پڑھنے کا موقع مل جائے گا۔ مگر اسی سال رمضان سے یہ خبر سنی جانے لگی کہ حضرت کا ارادہ سفرِ حج کا ہے۔ رفتہ رفتہ اس کی تیاریاں سامنے آگئیں کوئی کہتا تھا کہ بھرت کر کے جا رہے ہیں کسی کا خیال تھا کہ ترکی حکومت کی امداد کے لئے سفر ہے۔ ہم بڑی

حضرت کے ساتھ یہ مناظر دیکھتے رہے۔ بالآخر حضرت حج کے لئے روانہ ہوئے اور عالمگیر جگہ عظیم چھڑگنی۔ ۱۳۲۳ھ پورا حضرت کا جواز میں صرف ہوا۔ احقر نے اس سال اپنا دورہ حدیث اس امید پر ملتوی کیا کہ حضرت واپس آ جائیں گے تو دورہ حدیث ان کے سامنے ہو گا اس سال میں فنون کی بقیہ کتابیں لے لیں۔ مگر حکم قضاء و قدر وہ ۱۳۲۵ھ میں اسیہ ہو کر ماٹھ جیل بھیج دیئے گئے اور ساری امیدوں پر پانی پھر گیا۔ ۱۳۲۵ھ احقر کا دورہ حدیث جمۃ الاسلام حضرت مولانا سید محمد انور شاہ صاحبؒ کے سامنے ہوا۔ ۱۳۲۶ھ میں احقر کا دورہ حدیث ہو کر تقریباً درس نظامی پورا ہو گیا۔ چند فنون کی کتابیں باقی تھیں جو ۱۳۲۶ھ میں پوری ہوئیں۔

دورہ حدیث سے فراغت کے بعد تعلیم و تدریس، علمی تحقیقات کا شوق، کتب بنی سی دلچسپی، بحث و مباحثہ سب کچھ تھے مگر نظریں اس مجلس کو ڈھونڈتی تھیں جہاں دل کو سکون و اطمینان ملتا ہے جس کا ذوق حضرت شیخ الہندؒ کی خدمت میں چند روز حاضری سے پیدا ہو گیا تھا۔ اس وقت تھا نہ بھومن میں حکیم الامم مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس مرجع خلائق ہو گئی تھی۔ حضرتؒ کے علمی کمالات تصانیف کے ذریعہ اپنے علمی حوصلے کے مطابق کچھ معلوم تھے۔ ہمارے گھر بہشتی زیور سب لڑکیاں پڑھتی تھیں۔ خانقاہ تھا نہ بھومن اور وہاں کی مجالس کا حال والد محترم سے سنا کرتا تھا حضرتؒ کے دیوبند تشریف لانے کے وقت مجالس و عزاء میں بھی بڑی رغبت و اعتقاد سے شریک ہوتا تھا۔ والد صاحبؒ نے ایک مرتبہ ہمارے گھر میں آپؒ کا وعظ کرایا تھا جس کے بعض کلمات ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ والد صاحبؒ اگرچہ حضرتؒ کے ہمعصر اور ہمسبق تھے مگر آپؒ کی بزرگی اور تقدس و تقویٰ کے بہت معتقد تھے۔

تھا نہ بھومن کی سب سے پہلی حاضری

والد ماجدار العلوم میں مدرس تھے شعبان کے آخر میں آٹھ دن کی تعطیل ہوتی تھی آپؒ کا معمول یہ تھا کہ یہ تعطیل حضرت گنگوہیؒ کی خدمت میں گزارتے تھے ۱۳۲۳ھ میں ان کی وفات کے بعد بھی یہ معمول رہا کہ گنگوہ میں مزار پر حاضری اور پھر زندہ بزرگوں کی زیارت کے

لئے رائے پور تھانہ بھون وغیرہ کا سفر کرتے تھے ایک مرتبہ مجھے بھی رائے پور اپنے ساتھ لے گئے۔ رائے پور میں حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب رائے پوری قدس سرہ کی پہلی زیارت حضرت والد صاحب ہی کی معیت میں ہوئی۔ اس طرح ایک مرتبہ تھانہ بھون کی پہلی حاضری اسی لاشعوری دور میں والد صاحب کی معیت میں ہوئی۔ اس حاضری میں حضرت کی زیارت اور بچوں پر شفقت کا دھندا سانقشہ نظروں میں ہے مگر اس وقت کی نہ کوئی بات یاد ہے نہ سنہ اور تاریخ۔

دوسری حاضری

۱۳۳۲ھ جب احقر کی تعلیم میں یونانی فلسفہ کی کتاب مینڈی کا نمبر آیا تو مجھے والد محترم سے سئی ہوئی یہ بات یاد آئی کہ حضرت مولانا گنگوہی کی رائے مدارس عربیہ میں یونانی فلسفہ کی تعلیم کے خلاف تھی اور غالباً کسی وقت اس کے درس کو دارالعلوم کے نصاب سے خارج کرنے کا مشورہ بھی دیا تھا اس وقت مجھے بھی تردد ہوا کہ یہ ان پڑھوں یا نہیں۔

والد محترم حالانکہ حضرت گنگوہی سے والہانہ عقیدت رکھنے والے تھے مگر اس وقت ایک دانشمندانہ فیصلہ یہ فرمایا کہ حضرت گنگوہی تو اس وقت دنیا میں نہیں۔ ان کے بعد حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ کو آپ کا قائم مقام سمجھتا ہوں اس لئے مناسب یہ ہے کہ تمہارے بارے میں ان کے مشورہ پر عمل کیا جائے۔ اسی مقصد سے مجھے ساتھ لے کر تھانہ بھون کا سفر کیا۔

میں اس طالب علمی کے دور میں حضرت حکیم الامۃؒ سے مکمل اعتقاد کے باوجود وہاں کی حاضری سے اس لئے ڈرتا تھا کہ ذور ذور سے یہ سنا کرتا تھا کہ حضرت کے حضرت کے یہاں بڑے قواعد و ضوابط میں۔ خلاف ورزی پر ناراضی کا بھی خطرہ رہتا ہے والد صاحب کے حکم کی بناء پر ساتھ جانے کی ہمت کر لی۔ گاڑی دوپہر کو اشیشن پہنچی۔ اس وقت اشیشن قصبه تھانہ میں نہیں تھا۔ قصبه سے تین میل دور کے اشیشن پر اتر کر تھانہ بھون جانا ہوتا تھا۔ پختہ سڑکوں اور موڑوں گاڑیوں کا زمانہ نہ تھا۔ پاپیادہ تین میل طے کر کے تھانہ بھون پہنچے۔ ظہر کی اذان میں کچھ دیر تھی مہماں خانہ میں جا کر لیتے گئے۔

ظہر کی اذان پر حضرت حکیم الامۃ قدس سرہ وضو کے لئے حوض پر تشریف لائے تو والد صاحب نے وہاں ملاقات کی چونکہ والد صاحب حضرت کے ہم سبق تھے بے تکلف ملاقات دیکھنے کے قابل تھی والد صاحب نے پہلی ہی ملاقات میں فرمادیا کہ اس وقت میرے آنے کا سبب یہ لڑکا ہے میں آگے بڑھا حضرت نے نہایت شفقت سے مجھے سینے سے لگا کر سر پر ہاتھ رکھا۔ والد صاحب نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہاں آتا ہوا اسلئے ڈرتا تھا کہ یہاں بہت قواعد و خصوصیات ہیں ان کی پابندی کیسے ہوگی۔

حضرت نے نہایت شفقت سے فرمایا کہ بھائی مجھے تو خوانخواہ لوگوں نے بدنام کیا ہے میں از خود کوئی قاعدہ ضابطہ نہیں بناتا۔ لوگوں کی غلط روشن نے مجھے مجبور کر دیا کہ آنے والوں کو کسی وقت اور قاعدہ کا پابند کراؤں ورنہ یہ تو مجھے کسی وقت ایک دفعہ اللہ کا نام بھی نہ لینے دیں دوسرے کام اور آرام کا توذکر کیا۔

پھر فرمایا کہ تم تو میری اولاد کی جگہ ہو تمھیں کیا فکر ہے جب چاہوآیا کرو اور میرے یہاں جو قواعد و خصوصیات اتنے ہیں کہ مستثنیٰ منہ سے بڑھ جاتے ہیں تم بے فکر ہو۔

حضرت کی اس شفقت اور لطف و کرم نے پہلی مرتبہ میرے دل میں ایسا گھر کر لیا کہ وہاں سے لوٹنے کو دل نہ چاہتا تھا۔ اس وقت تو نماز کا وقت تھا اور نماز ظہر کے بعد عام مجلس کا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے شرکت نصیب فرمائی شام کو حضرت والا نے خصوصی ملاقات کا موقع عنایت فرمایا تو والد صاحب نے میرے آنے کی غرض کا ذکر کیا۔

حضرت نے فرمایا ہاں مجھے معلوم ہے کہ اس معاملہ میں حضرت نانو توی اور حضرت گنگوہی کی رائے میں اختلاف تھا حضرت نانو توی یونانی فلسفہ پڑھنے کے اس لئے حامی تھے کہ اسلامی عقائد سے دفاع انہی اصول و قواعد کی رو سے کیا جاسکے جو یہ فلسفہ پیش کرتا ہے۔ اور حضرت گنگوہی کی نظر اس پر تھی کہ اس فلسفے کے بہت سے نظریات اسلامی عقائد کے خلاف ہیں ان کو دینی مدارس میں درس کے طور پر پڑھانا دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کا سبب ہو سکتا ہے۔

پھر فرمایا کہ دونوں بزرگ ہمارے مقتداء اور پیشواء ہیں۔ ان میں سے جس کی رائے پر بھی کوئی عمل کرے خیر ہی خیر ہے۔ لیکن تمہارے متعلق میرا مشورہ یہ ہے کہ تم ضرور اس فن کو پڑھواد و محنت سے پڑھوتا کہ اس کا بطلان تم پر خود واضح ہو جائے۔ مجھے امید ہے کہ انشاء اللہ تھیس وہ نہ رہے ہو گا جس کا خطہ حضرت گنگوہی کے پیش نظر تھا۔

پھر فرمایا کہ ایک مصلحت یہ بھی ہے کہ اس وقت تمام مدارز اسلامیہ میں اس فن کی تعلیم کا سلسلہ جاری ہے اگر تم نے یہ فن نہ پڑھا فلسفہ جانے والے علماء کے سامنے ایک مرعوبیت کا اثر تم پر رہے گا۔ اور سمجھ کر پڑھ لیا تو یہ مرعوبیت بھی نہ رہے گی، اور انشاء اللہ تعالیٰ اس کے غلط نظریات کا بطلان تھیس پوری طرح معلوم ہو جائے گا۔

عمر کی یہ پہلی تعلیم تھی جو حضرتؐ سے حاصل کی اور واپس آ کر مینڈی کا سبق شروع کیا پھر صدر امام بازغہ وغیرہ فلسفہ کی تمام دری کتابیں پڑھیں۔

پھر قدرت نے یہ موقع بھی نصیب فرمایا کہ ہمارے استاذ محترم حضرت مولانا سید محمد انور شاہ صاحبؒ نے کچھ طلباء کو فلسفہ جدید پڑھانے کا وعدہ کر لیا تو احقر اس کے درس میں بھی شریک ہوا، اور یہ واقعہ ہے کہ مجھے فلسفے کے کسی مسئلے میں بھی کوئی اشکال پیش نہیں آیا اور حضرتؐ کی پیش گوئی کے مطابق اس کے غلط نظریات کا بطلان روز روشن کی طرح واضح ہوتا چلا گیا۔

۱۳۲۵ھ میں احقر کا دورہ حدیث ہوا کچھ فنون کی کتابیں باقی تھیں جو ۱۳۲۶ھ میں پوری کیں۔ اسی سال حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحبؒ ہمہ تم دارالعلوم نے چند اسماق پڑھانے کیلئے بھی مجھے سپرد فرمادیئے۔

حضرت والد ماجدؒ کی رائے اول سے یہ تھی کہ علوم عربیہ کے نصاب سے فراغت کے بعد کسی بزرگ کی خدمت و صحبت میں رہ کر تزکیہ باطن اور ذکر اللہ کے بغیر علوم ظاہرہ بے روح رہتے ہیں یہ ضروری ہے۔ اس وقت حضرت شیخ الہند تومالہ جیل میں اسی رہتے ہے۔ حضرت مولانا خلیل احمد صاحبؒ سہار پوری بھی ہندوستان میں تشریف نہ رکھتے تھے۔ دو بزرگوں پر نظر پڑتی تھی ایک حضرت مولانا

شاہ عبدالریحیم رائے پوریٰ دوسرے حضرت تھانوی قدس سرہ۔

والد صاحب کی رائے میں ترجیح اس کو ہوئی کہ حضرت تھانویٰ کی طرف رجوع کیا جائے کیونکہ سابقہ حاضری اور تعلیم سے ایک مناسبت قائم ہو چکی ہے۔

تیسری حاضری تھانہ بھون : غالباً ۱۳۲۷ھ تھا جس میں حضرت والد صاحب نے مجھے ساتھ لے کر پھر تھانہ بھون کا سفر اس لیے کیا کہ اب مجھے حضرت کے حوالے کریں۔ سلوک و طریقت کی تعلیم دلائیں اس تیسری حاضری میں حضرت کی پہلی شفقت و عنایت کی بناء پر کچھ حوصلہ بات کرنے کا بھی ہو گیا۔ جب والد صاحب نے میری حاضری کی غرض بتلائی تو حضرت والا نے مجھ سے کچھ حالات دریافت فرمائے۔ مجھے یہ معلوم تھا کہ حضرت حکیم الامۃ قدس سرہ صاف اور سچی بات کو بہت پسند کرتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ مجھے حق تعالیٰ نے کچھ عرصہ حضرت شیخ الہند کی خدمت میں حاضری کی توفیق بخشی ہے۔ دل کی خواہش یہ تھی کہ ان سے بیعت ہوں مگر حضرت اس وقت اسی رہیں اور معلوم نہیں کہب رہائی ہو۔ اب میں حضرت ہی سے مشورہ کا طالب ہوں مجھے کیا کرنا چاہیئے۔

حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی مسٹر کا اظہار فرماتے ہوئے فرمایا کہ اس میں اشکال کیا ہے۔ تصوف و سلوک اعمال باطنی کی اصلاح کا نام ہے جو ایسا ہی فرض ہے جیسے اعمال ظاہرہ کی اصلاح۔ اس کو مذخر کرنا تو میرے نزدیک درست نہیں۔ لیکن اس کے لئے بیعت ہونا کوئی شرط نہیں۔ بیعت کے لیے حضرت مولانا کا انتظار کرو اور حضرت کے واپس تشریف لانے تک میں خدمت کیلئے حاضر ہوں۔ میرے مشورہ کے مطابق اصلاح کا کام شروع کر دو۔ میرے نزدیک یہ بڑا مرحلہ تھا جو آسانی سے طے ہو گیا۔

اب دوسری بات اسی سادگی سے میں نے یہ عرض کر دی کہ حضرت میری تھنا تو بہت ہے کہ تصوف و سلوک کے مراحل طے کروں مگر سنتا ہوں کہ بڑے مجاہدوں اور ریاضتوں اور محنت اور فرصت کا کام ہے۔ میں خلقۃ ضعیف بھی ہوں زیادہ محنت برداشت کرنے کے قابل نہیں اور

فرصت بھی کم ہے۔ اور وقت تمام درس و مدرس اور مطالعہ کے کاموں میں گزرتا ہے۔ کیا ان حالات میں بھی مجھے کوئی حصہ نصیب ہو سکتا ہے؟ حضرت نے بڑی شفقت سے فرمایا "یتم نے کیا کہا کیا اللہ کا راستہ صرف اقویاء کے لیے ہے ضعفاء کے لئے نہیں؟ فارغ الیال لوگوں کے لئے ہے کم فرصت لوگوں کیلئے نہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ راستہ سب کیلئے کھلا ہوا ہے۔ ہاں ہر ایک کیلئے عمل کا طریقہ مختلف ہے۔ بزرگوں نے فرمایا ہے:

طرق الوصول الى الله بعد دانفس الخلات

یعنی اللہ تک پہنچنے کے راستے اتنے ہی ان گنت ہیں جتنے انسان۔

یہاں کوئی عطاٹی کی دکان نہیں کہ سب کو ایک ہی گولی دی جائے، ہم آپ کو ایسا طریقہ بتائیں گے جس میں نہ وقت کی ضرورت نہ فرصت کی۔

پھر فرمایا کہ فرائض و واجبات اور سفن وغیرہ جو سب مسلمان ادا کرتے ہیں وہ تو اپنی جگہ ہیں۔ آپ صرف تین چیزوں کی پابندی کر لیں انشاء اللہ سار اسلوک اسی سے طے ہو جائے گا۔

۱۔ تقویٰ اختیار کریں اس کا مفہوم آپ کو بتلانے کی ضرورت نہیں۔ البتہ تقویٰ صرف نمازوں وہ اور ظاہری معاملات کا نہیں بلکہ باطنی اعمال میں بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا ظاہری میں ہے۔

۲۔ دوسرے ہر لام (بے فائدہ) کام، کلام، مجلس، ملاقات سے پرہیز کریں اور فرمایا لا یعنی سے میری مراد وہ کام ہے جس میں نہ دین کا کوئی فائدہ ہونہ دنیا کا۔ غور کرو گے تو معلوم ہو گا کہ ہمارے اعمال، اقوال مجالس میں بہت سا وقت ایسا گزرتا ہے کہ کام کی بات تھوڑی سی اور بے فائدہ وزاندہ یادہ۔ لیکن سے پرہیز کرنا ہے۔

۳۔ تیسرا بقدر ہمت و فرصة کچھ تلاوت قرآن روزانہ کیا کریں۔

پھر ارشاد فرمایا کہ اب بتلا و اس نسخہ میں کوئی چیز محنت یا فرصة کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اگر غور کرو گے تو اس میں قوت اور زیادہ محفوظ رہے گی کیونکہ تقویٰ ایسی چیز ہے کہ بہت سے ایسے کاموں سے روکتا ہے جو انسان کی قوت خالع کرتے ہیں اور جب لا یعنی کاموں، ملاقاتوں، مجلسوں سے

پر ہیز کرو گے تو تمہاری فرصت علمی مشاغل کے لئے اور بڑھ جائے گی۔

آخر میں فرمایا کہ نسخہ تو آپ کے لئے اتنا ہی ہے اگر دل چاہے اور فرصت بھی ہو تو صبح شام سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، سو سو مرتبہ اور استغفار و درود شریف سو سو مرتبہ پڑھ لیا کرو اور نمازوں کے بعد تسبیح فاطمہ کا الترا م کرو۔

مجلس ختم ہوئی اور والد صاحب کے ساتھ ایک روز مزید قیام کر کے حضرت سے رخصت لی۔ حضرت کی یہ مجلس اور تعلیم تو قلب میں اتر گئی مگر واپس آ کر دارالعلوم کے تعلیمی مشاغل میں لگ گیا۔ اس کے ساتھ ہی یہ زمانہ وہ تھا جس میں ۱۹۱۳ء کی جنگ عظیم نے پورے عالم کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ اہل یورپ کی متحده سازیوں اور کوششوں سے آل عثمان کی ترکی خلافت پارہ پارہ ہو چکی تھی۔ حضرت شیخ البند اسی سلسلہ کے الزامات کی بناء پر مالکہ جیل میں نظر بندی کی زندگی گزار رہے تھے اور چونکہ خلافت کو پارہ کرنے میں انگریزوں کا بڑا ہاتھ تھا اس لئے ہندوستان کے مسلمانوں میں انگریزی حکومت کے خلاف جذبات بھڑک اٹھے۔ ملک میں خلافت کمیٹی قائم ہوئی اور چند ہی روز میں پورے ملک میں پھیل گئی۔ ہندوستان کو انگریزی تسلط سے آزاد کرانے کی کوششیں تیز ہو گئیں۔ حضرت شیخ البند کو جیل سے رہا کرانے کی تحریک نے زور پکڑ لیا۔ ہندوستان کے تمام مسلمان اور خصوصاً علماء، صلحاء، مدارس دینیہ بھی اس تحریک سے متاثر ہوئے۔ ان دنوں میں مدارس عربیہ میں تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری رکھنا بھی آسان نہ رہا۔ پورے ملک میں ہنگامے تھے۔

بالآخر ۲۰ رمضان ۱۳۲۸ھ مارچ ۱۹۲۰ء میں حضرت شیخ البند قدس سرہ مالکہ سے رہا ہو کر پانچ سال کے بعد یونیورسٹی شریف لائے تو تحریک خلافت اور آزادی ہند کی قوت کہیں سے کہیں پہنچ گئی۔ حضرت کی زیارت و ملاقات کے لئے اطرافِ ملک سے انسانوں کا سیلا ب امداد آیا۔ حضرت شیخ البند اپنے ضعف و علالت کے باوجود انہیں ہنگاموں میں مشغول و مصروف رہے اس جگہ ان کے حالات کی تفصیل کا موقع نہیں۔ ذکر اتنا کرنا ہے کہ حضرت شیخ البند ۲۰ رمضان ۱۳۲۸ھ کو مالک سے واپس تشریف لائے اور ۱۸ ربیع الاول ۱۳۲۹ھ اکتوبر ۱۹۲۱ء کو دہلی میں وفات ہو گئی کل ایک

سال چھ ماہ ملے وہ بھی انتہائی مشغول و مصروف اسی حال میں ایک روز موقع پا کر احرار اور انی فی اللہ مولا نا محمد طیب صاحب مہتمم دار العلوم دیوبند اور چند حضرات نے حضرت کے ساتھ پر بیعت طریقت کی۔ چند تسبیحات کی تلقین حضرت نے فرمائی۔ اس سے زائد اس طریق میں استفادہ کا موقع ہی نہ تھا۔ ہمارے لئے یہ بھی کچھ کم نعمت نہ تھی کہ بیعت کی دیرینہ تمنا پوری ہو گئی۔

حضرت شیخ الہندؒ کی وفات کے بعد ملک کے ہنہ میں اور روز روز کے نئے انقلابوں اور فتنوں کا ایک سلسلہ چل پڑا۔ دوسری طرف عیال بڑھا، ان کے مشاغل و ذوالل نے غفلت کے کچھ ایسے پردے ڈال دیئے کہ یہ سبق ہی گویا ذہن سے نکل گیا۔ اس عرصہ میں تعلیم کے ساتھ کچھ تصنیفی مشاغل بھی رہے مگر بزرگوں کی خدمت سے اکتساب فیض کا وہ پچھلا داعیہ بہت ہی مضمض محل ہو کر رہ گیا۔ ۱۳۲۵ھ سے ۱۳۴۹ھ تک یہی صورت حال رہی۔ اس وقت حضرت مولانا شاہ عبدالرحیم رائے پوریؒ کی بھی وفات ہو چکی تھی۔ اب تھانہ بھون کے سوا اس مقصد کے لئے کوئی جائے پناہ نہ تھی۔ مگر اس میں ایک مشکل یہ پیش آئی کہ حضرت شیخ الہندؒ کی واپسی اور ان سے بیعت کے بعد تمام ترقیتی تعلق اور اقتداء و اتباع کا محور حضرتؒ کی ذات گرامی بن گئی تھی انہیں کے ایماء پر یہ ناکارہ بھی اپنی بساط کے مطابق آزادی ہند کی تحریکات میں مشغول رہا۔

حضرت سیدی حکیم الامۃ قدس سرہ اگرچہ حضرت شیخ الہندؒ کے شاگرد اور نہایت معتقد اور ان کے مقصد جہاد سے بالکل متفق تھے۔ مگر اس وقت کی سیاسی تحریکات نے ہندوؤں کے اشتراک اور شرعی حدود سے ناواقف اور بے پرواہیوں کی شمولیت سے کچھ ایسا رنگ اختیار کر لیا تھا کہ جلوسوں میں خلاف شرع امور بے پرواہی کے ساتھ کئے جاتے تھے۔ ہندوؤں کے ساتھ اشتراک عمل میں اسلامی شعائر اور شرعی حدود کی کوئی پرواہ نہیں رہی تھی۔ اس لئے ان تحریکات میں آپ نے شرکت نہیں فرمائی۔

حضرت شیخ الہندؒ جو اس وقت تحریک کے امام تھے ان کو بھی اس احساس ہی نے ایک جماعت بنام جمعیۃ علماء ہند قائم کرنے پر مجبور کیا تھا کہ اس تحریک کے ساتھ علماء کی رہنمائی کی وجہ

سے ان منکرات اور خلاف شرع امور سے نجات ملے جس کا پہلا جلسہ دہلی میں حضرت ہی کی صدارت میں ہوا اور اس کے خطبہ صدارت میں اس طرح کے منکرات پر کھل کر نکیر بھی کیا گیا۔ لیکن حضرت حکیم الامۃ قدس سرہ کی نظر میں اس وقت تحریک پر قبضہ ایسے لیڈروں کا ہو چکا تھا جن کی اکثریت سے علماء کے اتباع اور حدود شرعیہ کی رعایت کی امید نہ تھی۔ خصوصاً ہندوؤں کے ساتھ جن بنیادوں پر اشتراک ہو رہا تھا ان سے کسی حال یہ امید نہ تھی کہ اس کے نتیجہ میں کوئی اسلامی حکومت بن سکے اس لئے ان تحریکات سے یکسor ہے۔ دونوں بزرگوں کا یہ اختلاف رائے دینی اور شرعی وجہ ہی کی بناء پر تھا اور اختلاف کے اصلی حدود کے اندر تھا حضرت حکیم الامۃ تو شاگرد ہونے کی بناء پر حضرت شیخ البندگی انتہائی ادب و احترام رکھتے ہی تھے خود حضرت استاد کا بھی یہ حال تھا کہ تھانہ بھون میں جلسہ خلافت کی صدارت کے لئے قبہ کے لوگوں نے آپ کو دعوت دی اور اس زمانے میں حضرت اکثر اس طرح کے جلوں کے لئے سفر کر رہے تھے مگر اہل تھانہ بھون کی درخواست پر فرمایا کہ اور جہاں کہیں آپ جلسہ کرو اسی میں شریک ہوں گا مگر تھانہ بھون جا کر جلسہ کرنا مجھے پسند نہیں۔ کیونکہ مولانا تھانویؒ کو میری رائے سے جو اختلاف ہے وہ بھی دینی اور شرعی وجہ پر ہے اگر میں وہاں جلسہ میں گیا تو وہ اپنی فقہی اور شرعی رائے کی بناء پر شرکت نہ کر سکیں گے اور عدم شرکت سے ان کو سخت ضيق اور تنگی پیش آئے گی میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔

بہر حال دونوں بزرگوں کی رائے میں خالص دینی وجہ کی بناء پر مختلف تھیں، ہم اس وقت تو کیا آج بھی اس حیثیت میں نہیں کہ ان کی رائے میں محاکمہ کریں یہی ہو سکتا تھا کہ جس کی طرف قلب کامیلان زیادہ ہواں کی اتباع کریں۔ اسی کے نتیجہ میں حضرت شیخ البندگی تحریکات میں حصہ لیا۔ اور حضرت حکیم الامۃ قدس سرہ سے بھی اگر چہ الحمد للہ عقیدت میں کوئی فرق نہیں آیا مگر ان کی رائے کی اتباع نہ کرنے کے سبب ایک قسم کا حجاب درمیان میں آگیا اور تقریباً آٹھ سال تک تھانہ بھون کی حاضری سے محرومی اور سلسلہ خط و کتابت بند رہنے کی ایک شرمندگی دامتکر تھی جواب تھانہ بھون

جانے کی راہ میں حائل بنی ہوئی تھی۔

حضرت والد ماجدؑ نے یہ مشورہ دیا کہ یہ شرمندگی اس راہ میں حائل نہ ہونی چاہیے تم ضرور تھانہ بھون جاؤ اور اپنے سب حالات صاف عرض کرو۔ تم پہلے دیکھے چکے ہو کہ حضرت صاف بات کہنے والوں سے بڑی عنایت و شفقت کا معاملہ فرماتے ہیں۔

تھانہ بھون کی چوتھی حاضری ۱۳۲۵ھ میں

حضرت والد صاحب کے اس حکم نے عزم قوی کر دیا۔ ۱۳۲۵ھ میں آٹھ سال کے بعد پھر تھانہ بھون حاضر ہوا اس وقت یہ معلوم نہیں کہ اس سفر میں بھی حضرت والد صاحب ساتھ تھے یا تھا گیا تھا مگر اتنا یاد ہے کہ جب حاضر ہوا اور اتنے عرصہ تک عدم حاضری اور بے تعلقی کا غدر پیش کیا تو حضرتؐ نے اسی شفقت و عنایت کا معاملہ فرمایا جس کا مشاہدہ پہلے ہو چکا تھا اتنے زمانے کی غیر حاضری اور بے تعلقی کا کوئی اثر معاملہ میں نہیں رہا۔

اس کے بعد سے تھانہ بھون کی حاضری مسلسل شروع ہو گئی۔ سترہ سال بعد ۱۳۶۲ھ میں حضرت سیدی حکیم الامۃ قدس سرہ کی وفات پر منشمی ہوئی۔ اور ۱۳۶۳ھ سے پورے رمضان المبارک کی تعطیل تھانہ بھون میں رہنے کا سلسلہ بھی تقریباً ۱۳۶۰ھ تک رہا۔ اور ۱۳۶۴ھ میں جب حضرتؐ ہی کے مشورہ اور اجازت سے دارالعلوم دیوبند کی ملازمت سے خابطہ کا استفادہ دے کر آزاد ہوا تو حضرتؐ نے احکام القرآن کی تصنیف کے لئے مجھے مستقل طور پر تھانہ بھون بلا لیا تھا۔ مگر افسوس کہ یہ آخری حاضری سے چند ماہ بعد ہی ۱۶ ارجسب ۱۳۶۴ھ میں حضرتؐ کی وفات نے ایسا خستہ اور شکستہ خاطر کر دیا کہ اب کسی کام کی بہت ہی اپنے میں نظر نہ آتی تھی۔

اس آخر دور میں حق تعالیٰ نے حضرت سیدی حکیم الامۃ قدس سرہ کو دینی تربیت اور اصلاح خلق کے لئے چن لیا تھا آپ کی بجائی علم و معرفت کے ساتھ اصلاح ظاہر و باطن میں جو تاثیر رکھتی ہیں اس کو تو وہی جان سکتے ہیں جن کو اس دربار کی بھی حاضری نصیب ہوئی ہے اس کو کسی بیان و تعبیر سے نہیں سمجھایا جا سکتا۔

حاضرین مجلس میں بہت سے حضرات ملفوظات لکھنے کا اہتمام فرماتے تھے جو حضرت کے ملاحظہ کے بعد شائع بھی ہوتے رہتے تھے اس ناکارہ کو اس کی بہت کم ہوتی تھی کہ مجلس میں بیٹھ کر لکھنے کی طرف توجہ دے اس نے اس کا اہتمام تو نہیں تھا مگر خاص خاص اہم باتیں اپنی یادداشت کے لئے لکھ بھی لیتا تھا اس طرح لکھا ہوا بھی ایک اچھا خاصہ ذخیرہ جمع ہو گیا تھا۔

حضرتؐ کی ہدایت یہ تھی کہ آپ کے ملفوظات جمع کرنے والے جب تک لکھ کر آپ کے ملاحظہ میں لا کر اجازت حاصل نہ کر لیں ان کی اشاعت منوع تھی اور وصیت نامہ میں ایک وصیت یہ بھی تحریر تھی کہ میرے بعد اگر میرا کوئی وعظ یا ملفوظات کسی کے پاس غیر مطبوعہ ہوں جو میری نظر سے نہیں گزرے تو ان کی اشاعت کے لئے اپنے مخصوص خلفاء کے نام درج فرمائے کہ یہ ہدایت کی تھی کہ ان کا نظر کر کے اجازت دینا کافی ہو گا۔

اس وقت کے مشاغل نے اپنے لکھنے ہوئے ملفوظات کو صاف کر کے پیش کرنے کی فرصت نہ دی۔ اور اس کے بعد ان کی اشاعت کا خیال ہی دل سے نکل گیا۔ حال میں خود اپنی خواہش اور بعض احباب کے تقاضا سے جب احتقر نے یہ ارادہ کیا کہ دارالعلوم کے ماہنامہ "البلاغ" میں "مجالس حکیم الامت" کا ایک خاص عنوان پابندی سے رکھا جائے جس میں حضرتؐ کی مخصوص تعلیمات، ملفوظات ہوا کریں تو اسی وقت بعض احباب نے اپنے منضبط کئے ہوئے اور منتخب ملفوظات کی طرف توجہ دلائی لیکن اب ۔

آن قدح بشکست و آن ساقی نماند

کا معاملہ تھا۔ جن خلفاء کے اسماء گرامی وصیت نامہ میں تجویز فرمائے تھے وہ بھی اکثر رخصت ہو چکے ہیں۔ مگر پھر بھی غیمت جانا کہ ابھی کچھ حضرات باقی ہیں ان کے ملاحظہ سے گزار دیا جائے تو حضرت کی شرط کے مطابق قابل اشاعت ہو جائیں گے۔ اور یہ لکھا ہوا ذخیرہ کار آمد ہو جائے گا۔ ممکن ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کو کوئی فائدہ پہنچ تو میرے لئے بھی راذ آثرت ہو جائے گا۔

حضرتؐ کی وصیت کو پورا کرنے کے لئے احتقر نے مجالس حکیم الامت کا مسودہ حضرت مولانا

حاضرین مجلس میں بہت سے حضرات ملفوظات لکھنے کا اہتمام فرماتے تھے جو حضرت کے ملاحظہ کے بعد شائع بھی ہوتے رہتے تھے اس ناکارہ کو اس کی بہت کم ہوتی تھی کہ مجلس میں بیٹھ کر لکھنے کی طرف توجہ دے اس نے اس کا اہتمام تو نہیں تھا مگر خاص خاص اہم باتیں اپنی یادداشت کے لئے لکھ بھی لیتا تھا اس طرح لکھا ہوا بھی ایک اچھا خاصہ ذخیرہ جمع ہو گیا تھا۔

حضرتؐ کی ہدایت یہ تھی کہ آپ کے ملفوظات جمع کرنے والے جب تک لکھ کر آپ کے ملاحظہ میں لا کر اجازت حاصل نہ کر لیں ان کی اشاعت منوع تھی اور وصیت نامہ میں ایک وصیت یہ بھی تحریر تھی کہ میرے بعد اگر میرا کوئی وعظ یا ملفوظات کسی کے پاس غیر مطبوعہ ہوں جو میری نظر سے نہیں گزرے تو ان کی اشاعت کے لئے اپنے مخصوص خلفاء کے نام درج فرمائے کہ یہ ہدایت کی تھی کہ ان کا نظر کر کے اجازت دینا کافی ہو گا۔

اس وقت کے مشاغل نے اپنے لکھنے ہوئے ملفوظات کو صاف کر کے پیش کرنے کی فرصت نہ دی۔ اور اس کے بعد ان کی اشاعت کا خیال ہی دل سے نکل گیا۔ حال میں خود اپنی خواہش اور بعض احباب کے تقاضا سے جب احتقر نے یہ ارادہ کیا کہ دارالعلوم کے ماہنامہ ”البلاغ“ میں ”مجالس حکیم الامت“ کا ایک خاص عنوان پابندی سے رکھا جائے جس میں حضرتؐ کی مخصوص تعلیمات، ملفوظات ہوا کریں تو اسی وقت بعض احباب نے اپنے منضبط کئے ہوئے اور منتخب ملفوظات کی طرف توجہ دلائی لیکن اب ۔

آن قدح بشکست و آن ساقی نماند

کا معاملہ تھا۔ جن خلفاء کے اسماء گرامی وصیت نامہ میں تجویز فرمائے تھے وہ بھی اکثر رخصت ہو چکے ہیں۔ مگر پھر بھی غیمت جانا کہ ابھی کچھ حضرات باقی ہیں ان کے ملاحظہ سے گزار دیا جائے تو حضرت کی شرط کے مطابق قابل اشاعت ہو جائیں گے۔ اور یہ لکھا ہوا ذخیرہ کار آمد ہو جائے گا۔ ممکن ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کو کوئی فائدہ پہنچ تو میرے لئے بھی راذ آئڑت ہو جائے گا۔

حضرتؐ کی وصیت کو پورا کرنے کے لئے احتقر نے مجالس حکیم الامت کا مسودہ حضرت مولانا

ظفر احمد صاحب عثمانی دام بر کاتبهم شیخ الحدیث دارالعلوم الاسلامیہ ندوالله یار سندھ کی خدمت میں پیش کرنے کی درخواست کی تو اولاد مولانا نے جواب میں تحریر فرمایا:

”حضرت نے اپنے مواعظ و مفہومات کی اشاعت کے لئے اپنے بعد جن حضرات کے دیکھنے کی شرط بیان فرمائی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ضبط کرنے والا ان حضرات سے علم و معرفت میں کم ہو جن کا نام شرط میں ہے۔ اگر ضابط ان حضرات سے علم و معرفت میں زیادہ ہو تو ظاہر ہے وہ اس شرط سے مستثنی ہو گا۔ میں آپ کے ضبط کردہ مجالس حکیم الامت پر کسی کی نظر کی ضرورت نہیں (والسلام) سمجھتا۔

ڈعا کا تھاج۔ ظفر احمد عثمانی۔ ۱۵ محرم ۱۳۹۳ھ

لیکن مولانا کے اس ارشاد کے باوجود احقر نے یہ ارادہ کیا کہ جب صراحةً حضرت کے حکم کی تعییل بذریعہ حضرت مولانا ظفر احمد صاحب ہو سکتی ہے تو اس تاویل پر کیوں عمل کیا جائے اس لئے پورا مسودہ حضرت مولانا عثمانی کی خدمت میں بحیثیج دیا جس کے جواب میں حضرت موصوف نے تحریر فرمایا:

مکرم الحتر مفتی محمد شفیع صاحب صاحب دامت بر کاتب
السلام علیکم رحمۃ اللہ! آپ نے مجالس حکیم الامت کا مسودہ بحیثیج دیا ہے۔ تو میں نے کسی قدر بالاستیغاب اور باقی سرسری نظر سے دیکھ لیا ہے ماشاء اللہ خوب ضبط فرمایا ہے۔ بعض مقامات پر روابط کا کوئی میں سے رہ گیا ہے اس کو درست کر دیا جائے بعض جگہ عبارت مغلق ہے اس کو واضح کر دیا جائے۔ آپ کے حکم کی تعییل کر دی ہے ورنہ آپ کے ضبط کردہ مفہومات کیلئے کسی کے دیکھنے کی ضرورت نہیں۔

میرے لئے خاص طور سے دعائے عافیت ظاہری و باطنی و حسن خاتمه فرماتے رہیں۔

والسلام

ظفر احمد عثمانی

۲۲ محرم ۱۳۹۳ھ

مجلس حکیم الامّت

رمضان المبارک ۱۴۲۳ھ کا عشرہ اخیرہ : رمضان المبارک میں حاضری کا اس سال بمعیت مولینا محمد طیب صاحب مفتیم دارالعلوم پہلے پہل اتفاق ہوا۔ یوں تو اطراف ملک سے آنے والے طالبین کا بارہ مہینے ہی تانتا بندھا رہتا تھا مگر حضرتؐ کے متولین بکثرت علماء اور طلباء مدارس اسلامیہ تھے ان کی تعطیل اور فرصت کا زمانہ رمضان المبارک ہوتا تھا اور ویسے بھی عبادت کے لئے ماه مبارک مخصوص ہے۔ اس لئے اس مہینے میں بہت سے حضرات پورے مہینہ کے لئے آتے تھے۔

اگرچہ حضرتؐ کو طبعی طور پر رمضان المبارک میں اس طرح کے اجتماعی کام پسند نہ تھے۔ خلوت مرغوب طبع تھی مگر فرمایا کرتے تھے کہ اہل علم دوستوں کو دوسرے ایام میں فرصت نہیں ہوتی اس لئے اس صورت کو گوارا کر لیا ہے اور رمضان میں حاضر ہونے والوں کا جموم ہر سال بڑھتا ہی جاتا۔ وفات سے چند سال پہلے تو نوبت اس کی آگئی تھی کہ خانقاہ کے تمام مکانات اور جگرات کافی نہ ہوتے تھے۔ صحن میں شامیانہ لگانا پڑتا تھا اور ایک سال تو خانقاہ سے باہر بھی شامیانے لگا کر گزارا کرنا پڑا۔

احقر کی حاضری اس مبارک مہینے میں پہلے پہل رمضان ۱۴۲۳ھ کی میں تاریخ کو بمعیت مولانا محمد طیب صاحب ہوئی۔ مولانا محمد طیب صاحب عالم ہونے کے ساتھ ماشاء اللہ قاری بھی بہت اچھے تھے۔ دیوبند میں ۱۹ تاریخ کو اپنا قرآن ختم کر کے یہاں پہنچے تھے دیوبند میں بھی ان کی تلاوت سننے کے مشائق دور دور سے مدرسہ کی مسجد میں تراویح کے لئے آجاتے تھے۔

ہم تھانے بھون پہنچے تو یہ وہ زمانہ تھا کہ حضرتؐ کو اپنی ضعف کی بناء پر خانقاہ میں امامت تراویح اور اس میں ختم قرآن سے عذر ہو گیا تھا۔ اس لئے فرض عشاء جماعت کے ساتھ خانقاہ میں ادا کرنے کے بعد مکان پر تشریف لے جاتے اور وہاں تراویح میں پورا قرآن پڑھتے تھے۔ گھر کی عورتیں اور دوسرے متعلقین کی عورتیں بھی پردہ کے پیچھے حضرتؐ کی اقتداء میں تراویح ادا کرتی تھیں

خانقاہ میں ایک اور قاری صاحب پورے مہینے میں قرآن مجید ختم کرتے تھے۔

مولانا قاری محمد طیب صاحب کے پہنچنے پر اہل خانقاہ کی خواہش ہوئی کہ رمضان کے دس روز باتی ہیں ان میں ایک قرآن مجید قاری محمد طیب صاحب کے پہنچنے پورا کر لیں۔ حضرتؐ کے سامنے اجازت کی درخواست اس طرح پیش ہوئی کہ خانقاہ کی تراویح ختم ہونے کے بعد قاری محمد طیب صاحب تین پارے روزانہ پڑھ لیا کریں۔ حضرتؐ کے مزاج میں حقوق اور حدود کی رعایت بد رجہ کمال تھی اپنی ذوقی عبادت کے جوش میں دوسروں کی آزادی میں خلل ڈالنا نہایت ناپسند تھا۔ اور سب کو اس کی بڑی تاکید بھی فرماتے تھے۔ اگر خانقاہ میں یہ سلسلہ بعد تراویح شروع ہوتا تو ممکن تھا کہ بعض لوگوں کو عذر ہو اور اس میں شرکت پسند نہ کریں تو ان کی نیند میں فرق آئے گا اور بار خاطر ہو گایا پھر بادل ناخواستہ اس میں شرکت کے لئے مجبور ہونگے۔ اس لئے خانقاہ میں اس کی اجازت نہیں دی مگر دوسری طرف درخواست دینے والوں کی نیک خواہش کو پورا کرنے اور ان کی دلجموئی کا داعیہ بھی تھا اس لئے خانقاہ کے قریب ایک دوسری چھوٹی مسجد اس کام کے لئے تجویز ہوئی جہاں لوگ اپنی تراویح پڑھ کر چلے جاتے اور مسجد خالی رہ جاتی تھی اس طرح ایک قرآن مجید وہاں ختم کیا گیا۔

آج کل بہت سے حفاظ اور قراء رمضان المبارک کی راتوں میں شبینہ کرتے ہیں اور اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے کہ ضعیف دینکار اور وہ لوگ جو دن بھر اپنی مزدوری یا دفتری کاموں میں گزار کر رات کو آرام کرنے پر مجبور ہیں ان کو ان کے اس عمل سے کتنی تکلیف ہوگی۔ بعض مساجد میں اس پر مزید یہ کیا جاتا ہے کہ لا ڈسکلر لگادیتے ہیں جس سے محلہ والوں کی نیند دو بھر ہو جاتی ہے یہ سب چیزیں صرف صورت میں عبادت اور نیکی ضرور ہیں مگر دوسروں کی ایذا کی وجہ سے ثواب سے زیادہ عذاب کا سبب بنتی ہیں۔

حضرت قدس سرہ فرمایا کرتے تھے کہ اس طرح کی عبادت کا درجہ ظاہر ہے کہ نوافل کا ہے اور ایذا مسلم سے پہیز واجب اور اس کے خلاف کرنا گناہ کبیرہ ہے۔

دیوبند میں ہماری عادت یہ تھی کہ تراویح کے بعد کچھ احباب کا اجتماع ہو جاتا۔ چائے نوشی کی دوستانہ مجلس کچھ دیر رہتی تھی تھانہ بھون میں جب ہم دوسرا قرآن سننے کے بعد واپس آتے تو خانقاہ میں اپنے جگہ میں جس میں احقر اور مولا نا محمد طیب صاحب مقیم تھے کچھ دیر اسی قسم کی مجلس رہتی۔ خانقاہ میں قانون یہ تھا کہ عشاء کے بعد سے رات کے تین بجے تک کسی کوڈ کر جہر یا بلند آواز سے تلاوت کی بھی اجازت نہیں تھی تاکہ آخر رات میں بیدار ہونے والوں کو تکلیف نہ ہو۔ احباب کی مجلس آرائی کا تو وہاں کوئی تصور ہی نہ تھا۔ اسی لئے عشاء کے بعد سے خانقاہ میں ایک نانا ہو جاتا تھا اس میں ہماری یہ آپس کی گفتگو بھی کافی دور تک پہنچ جاتی تھی چونکہ منتظمین خانقاہ کو یہ معلوم تھا کہ حضرت قدس سرہ ہم دونوں کی خاص رعایت فرماتے ہیں اس لئے ایک دو روز تو ہماری اس حرکت پر صبر کیا مگر تیرے روز خادم خانقاہ نے کچھ فاصلہ پر کھڑے ہو کر آواز سے کہا کہ عشاء کے بعد آواز سے با تین کرنا خانقاہ میں منوع ہیں۔ اس وقت ہمیں اپنی غلطی پر تنبہ ہوا۔ اور نماز سے فراغت کے بعد خاموش لیٹ جانے کی عادت ڈالنا پڑی۔ خانقاہ تھانہ بھون میں یہ دستور دیکھا اور بردا۔ اس کے بعد حضرت فاروق عظیم اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما سے یہ روایات نظر سے گزریں کہ فاروق عظیم عشاء کے بعد جانے والوں اور بے ضرورت با تین کرنے والوں کو فرمایا کرتے تھے کہ جاؤ سو جاؤ ”لعلکم ترز قون صلوة“ یعنی سوریے سونے کے نتیجہ میں شاید تمھیں آخر شب کی نماز تجد نصیب ہو جائے۔ اس طرح کا قول حضرت عائشہ صدیقہ سے بھی منقول ہے۔

اب اس معمولی سی بات کے دور رس اثرات پر غور کیجئے جو شخص اس ماحول میں رہے گا وہ تجد کا کیسے پابند نہ ہو جائیگا۔ اور صحیح کی نمازو جماعت کی پابندی تو ایسی ہو جائے گی کہ اس کے خلاف کا احتمال ہی نہ رہے گا۔

آج کل ہم جس ماحول میں رہتے ہیں اس میں آدھی رات تک یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابھی اس نہ نہیں ہوئی۔ ایک دوست کہتے ہیں کہ کراچی میں جب رات کے بارہ بجتے ہیں تو معلوم ہوتا

ہے کہ کچھ بجا ہے۔

اس ماحول سے ننانجی ہر جگہ یہ نظر آتے ہیں کہ صبح کی جماعت تو کیا اور وقت کی نماز پڑھنا بھی نماز کے پابند لوگوں کو مشکل ہوتا ہے اور آزاد منش بے نمازوں کا ذکر ہی کیا ہے مجید لاہوری مرحوم نے اس ماحول کا سابق دینی ماحول سے مقابلہ دو مصروعوں میں کیا تھا۔ سابق ماحول نماز فخر ادا کرتے ہیں پھر قرآن پڑھتے ہیں! اور موجودہ ماحول۔

یہ سوکنوبجے الٹتے ہیں اٹھ کر ڈان پڑھتے ہیں

جن لوگوں کو دین اور آخرت کی فکر ہے ان کے لئے ضروری ہے کہ اپنی مجلس اور اپنے گھروں کے ماحول میں تبدیلی پیدا کریں تاکہ خود بھی پابند ہو سکیں اور اپنے متعلقین کو بھی پابند صوم و صلوٰۃ بناسکیں۔

واللہ الموفق والمعین ط
باقی ۱۳۲۷ھ کی مجلسوں کے مفہومات لکھے ہوئے محفوظ نہیں ہیں۔

رمضان المبارک ۱۳۲۷ھ

یہ پہلا رمضان تھا جس میں پورا مہینہ تھا نہ بھون میں رہنے کے قصد کی حضرتؐ کو اطلاع دی۔ ساتھ ہی یہ قصہ پیش آیا کہ اہلیہ کا تقاضا ہوا کہ بزرگوں کے فیوض و برکات سے ہم محروم رہتے ہیں میں ساتھ چلوں تو اپنے حوصلہ کے مطابق ہمیں بھی کچھ حصہ ملے۔ مجھے یہ اشکال تھا کہ وہاں بھی اہل و عیال ساتھ ہوئے تو فراغ باالی نصیب نہ ہوگی۔ اس مسئلہ کا فیصلہ بھی حضرتؐ کی رائے پر رکھا۔ جواب یہ آیا کہ ساتھ لے آؤ۔ اس میں جمیعت خاطر کی زیادہ امید ہے اور اس طریق میں جمیعت خاطر کی بڑی اہمیت ہے ہم جس کچیز کو جمیعت کے منافی سمجھتے تھے حضرتؐ نے اس کو جمیعت خاطر کا معین قرار دیا۔ بعد میں اس کی عملی تصدیق اس طرح ہوتی رہی کہ بچوں میں یہاری کا سلسلہ تو چلتا ہی رہتا ہے ساتھ ہوتے ہوئے اس کی طرف توجہ اور مناسب تدبیر میں وہ پریشانی نہیں ہوتی جو باہر

سے خبر آنے پر ہوتی ہے کہ جمعیت اور سکون بر باد ہو جاتا ہے۔

اس طرح رمضان المبارک سے ایک دن پہلے مع اہل و عیال تھانہ بھون میں حاضری ہوئی۔ حضرت نے میرے قیام کے لئے اپنے مکان سے متصل ایک مکان کرایہ پر لینا متعین فرمادیا تھا مگر معاملہ کی تکمیل میری حاضری اور مکان کے دیکھنے پر موقوف تھی۔ حاضر ہو کر مجھے جو چیز زیادہ دیکھنے کی تھی وہ اس مکان کا خانقاہ اور حضرت کے مکان سے بالکل ملحق ہوتا تھا۔ بڑی خوشی و سرت کے ساتھ اپنا سفر انہ سامان اس مکان میں ڈال دیا۔ شب و روز حضرت کی صحبت و معیت میں ہر شب شب قدر ہر روز روزِ عید کا مصداق ہو گیا۔

مئے ناب و کنار آب دیار مہربان ساقی

والائکنے شود کارت اگر اکنون خنوں اہد شد

میں اپنی جگہ اس مکان میں مکن تھا مگر اس کے صحن میں کچھ بیری کے درخت اور جھاڑیاں جیسی تھیں کچھ صاف سترانہ تھا۔ حضرت کی چھوٹی اہلیہ محترمہ وہاں تشریف لا میں تو محسوس کیا کہ عورتوں بچوں کو شاید یہاں وحشت ہو۔ دو تین روز کے بعد حضرت والا نے ارشاد فرمایا کہ اب ہمارا ارادہ اپنا مکان بدلتے کا ہے موجودہ مکان جس میں چھوٹی اہلیہ محترمہ کا قیام ہے وہ خالی ہو رہا ہے اب آپ مع اہل عیال اس میں آ جاؤ۔ اس کا اظہار مجھ پر اس طرح فرمایا کہ جیسے اپنی کسی ضرورت سے مکان کی تبدیلی فرمار ہے ہیں اس لئے کچھ عذر مذہر ت بھی نہ کر سکا حضرت اقدس ہی کے چھوٹے مکان میں بقیہ ایام رمضان المبارک پورے ہوئے۔

حضرت کا معمول کچھ زمانے سے یہ ہو گیا تھا کہ نمازِ ظہر کے بعد عصر تک مجلسِ عام ہوتی تھی جس میں کسی پر کوئی پابندی نہ تھی۔ اور صبح کو اپنی ضروریات اور معمولات سے فارغ ہو کر تقریباً دس بجے ایک مجلسِ خاص مخصوص حاضرین کے لئے ہوتی تھی۔ اس میں صرف وہ لوگ ہوتے تھے جن کو حضرت کی طرف سے اطلاع دے دی جاتی تھی۔ اطلاع کا مضمون اور اس کے الفاظ خود حضرت کی تجویز سے بیشہ یہ ہوتے تھے کہ فلاں وقت حضرت کی مجلس ہو گی اگر آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں مقصد

یہ تھا کہ بلا نے کا عنوان نہ ہو جس سے حاضرین کی آزادی میں خلل آئے کسی کو کوئی کام یا عذر ہو تو اسے ^{تینگی} نہ ہو۔

ان مجلس کے مفروضات مجلس سے بہت سے حضرات لکھا کرتے تھے مجھے حضرت کے خطاب کے وقت لکھنے کی طرف توجہ صرف کرنا بھاری معلوم ہوتا تھا اس لئے بہت کم اور بعض اشارے اپنی یادداشت کے لئے لکھ لیتا تھا۔ اسی یادداشت کے بعض اجزاء یہ ہیں:

: ۱: شعبان ۱۳۲ھ ارشاد فرمایا کہ حدیث میں ہے

من جلس مجلسِ مالم یذکر اللہ فیہ کان علیہ ترہ یوم القيمة۔ یعنی جو شخص کسی مجلس میں بیٹھے اور پوری مجلس گزر جائے اس میں ایک مرتبہ بھی اللہ کا ذکر نہ کرے تو قیامت کے دن یہ مجلس اس کے لئے حضرت و افسوس کا سبب ہوگی۔

اس کا ہمیشہ خیال رکھو اور اپنی کسی مجلس کی حرکت و سکون کو اللہ کے ذکر سے خالی نہ رہنے دو۔

نظم و ضبط دین اور دنیا کے ہر کام میں مفید اور ضروری ہے

: ۲: ارشاد فرمایا کہ دنیوی کاموں میں بد نظمی اور بے سلیقه پن کہ کہیں کی چیز کہیں ڈال دی کھانے پینے میں تناسب کا خیال نہ رکھا، یہ جیسے دنیوی امور میں نقصان وہ ہیں ایسے ہی باطنی امور کے لئے بھی مضر ہے۔

ایک بزرگ کی حکایت ہے کہ جب کوئی شخص ان سے مرید ہونے کے لئے آتا تو فوراً ملنے کے بجائے اتنی تاخیر کرتے تھے کہ کھانے کا وقت آجائے۔ اور حکم یہ تھا کہ نئے مهمان کے پاس جب کھانا لے جائیں تو شیخ کو دکھلا کر لے جائیں اور جب واپس لا جائیں تو پھر دکھائیں۔ وہ پچھے ہوئے کھانے سے یہ اندازہ لگاتے تھے کہ اس شخص کے مزاج میں انتظام اور انضباط ہے یا نہیں مثلاً بتتی روئی خرچ ہوئی اس کے مناسب سالن خرچ ہوا تو صحیح المزاج ہونے کی علامت ہے اور کمی بیشی ہوئی تو بد نظمی کی علامت۔

جس شخص میں یہ بد نظمی اور بے سلیقه ہونے کا مشاہدہ ہوتا اس سے عذر کر دیتے کہ ہمارے یہاں

تصحیح نفع نہیں ہو گا تمہارے مزاج میں بدلنے کی طرف رجوع کرو۔
لائینی اور فضول بحثیں انسان کو بڑے گناہوں میں مبتلا کر دیتی ہیں
بزرگوں نے اس سے پرہیز کا بڑا اہتمام کیا ہے

۳: حضرت نظام الدین اولیاء قدس سرہ کی خدمت میں دو صاحب بیعت کے لئے حاضر ہوئے۔ مسجد کے حوض پر آ کر وضو کے لئے بیٹھے تو آپس میں گفتگو کرنے لگے ایک صاحب نے کہا کہ ہمارے یہاں کا حوض یہاں کے حوض سے بہت بڑا ہے، اتفاقاً حضرت شیخ نے یہ کلام سن لیا۔ جب وہ حاضر خدمت ہوئے اور بیعت کے لئے عرض کیا تو شیخ نے سوال کیا کہ آپ کے یہاں حوض یہاں کے حوض سے کتنا بڑا ہے؟ اس نے عرض کیا کہ یہ تو معلوم نہیں۔ فرمایا کہ جاؤ پیمائش کر کے آؤ۔ اسکو جانا پڑا اور سفر طے کر کے وطن پہنچا۔ حوض کی پیمائش کی تو معلوم ہوا کہ وہ ایک بالشت بڑا ہے واپس آیا اور عرض کیا کہ حضرت میں نے پیمائش کر لی ہے وہ حوض ایک بالشت بڑا ہے پھر حضرت شیخ نے فرمایا کہ تم نے تو بہت بڑا کہا تھا ایک بالشت تو بہت بڑا نہیں ہوتا۔
تمہارے اس عمل سے معلوم ہوا کہ تمہارے مزاج میں جھوٹ پچ کے معاملہ میں احتیاط نہیں تو اس طریق میں کیا چل سکو گے، انہی۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اکابر مشائخ کا طریق یہ تھا کہ مریدین کو وظائف و نوافل وغیرہ بتانے اور سلوک کی تعلیم شروع کرنے سے پہلے ان کے اعمال ظاہرہ کی اصلاح کرتے اور رذائل سے اجتناب کی عادت ڈالتے تھے۔ آج کل بہت سے مشائخ اس کی رعایت نہیں کرتے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اوراد و وظائف میں تو مریدین خوب مشائق ہو جاتے ہیں مگر رذائل جوں کے توں موجود رہتے ہیں حلال و حرام کا امتیاز جھوٹ پچ کا اہتمام نہیں ہوتا جو طریق کی پدناہی کا سبب بنتا ہے (جامع)

معاملات میں احتیاط کی تعلیم

۴: ایک شخص نے خط لکھا کہ میں فلاں بزرگ سے بیعت ہوں مگر میں نے خواب میں رسول

اللہ ﷺ کی زیارت کی آپ ﷺ نے فرمایا کہ جن بزرگ سے تم بیعت ہوئے ان سے تمحاری بے تکلفی زیادہ ہے اس لئے تمھیں ان سے نفع نہیں ہوگا۔ تم مولانا اشرف علی صاحب سے اپنی تربیت تعلیم حاصل کرو۔ حضرت حکیم الامۃ نے جواب میں لکھا کہ اپنے موجودہ شیخ سے یہ لکھوا کر بھیجو کہ یہ آدمی معتبر ہے اس کی روایت قابل اعتبار ہے۔ (انٹی)

تجربہ شاہد ہے کہ بہت سے لوگ بزرگوں کے نزدیک تقرب حاصل کرنے کے لئے غلط سلط روایات بیان کر دیا کرتے ہیں جو ان کے لئے موجب فتنہ اور دوسروں کے لئے موجب رنجش ہوتا ہے حضرتؓ نے اس طرز عمل سے سب خرایوں کی جڑکاث دی اور سابق شیخ کے قلب کو مکدر کرنے سے بھی بچا لیا۔

ہر چیز اپنی حد کے اندر ہی نافع ہوتی ہے حد سے بڑھے تو کتنی ہی اچھی چیز ہو
مضر ہو جاتی ہے

۵: فرمایا ناشیۃ اللہ (خدا کا خوف) تمام حنات و خیرات کا سرچشمہ اور بڑی فضیلت ہے مگر وہ بھی اگر حد سے بڑھ جائے تو انسان کو معطل اور بیکار بنادے اس لئے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا ناشیۃ اللہ کے لئے فرمائی اس میں یہ فرمایا:

اللهم اقسم لی من خشیتک ما یعنی یا اللہ مجھے اپنے خوف و خشیت کا اتنا حصہ عطا فرمادے جو میرے اور گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے۔ تحول به بینی و بین معاصیک۔

اس قید سے مفہوم ہوتا ہے کہ اگر خوف زیادہ بڑھ جائے تو وہ انسان کے لئے قابل برداشت نہیں رہتا اور تعطل کا سبب ہو جاتا ہے اس کے بال مقابل اللہ تعالیٰ کی ملاقات و زیارت کا شوق بھی بہت بڑی نعمت ہے مگر اس کی دعاء میں بھی حدیث شریف کے الفاظ یہ ہیں:

یا اللہ مجھے اپنی زیارت و ملاقات کا شوق و شوقا الی لقاء ک فی غیر ضراء مضره

ولا فتنۃ مضلة۔

عطافر ما بغیر اس کے کہ کسی سخت یا ماری یا
سخت مصیبت و فتنہ کی وجہ سے موت کا طلب
گار بنوں۔

اللہ تعالیٰ کی ملاقات و زیارت کا راستہ ظاہر ہے کہ موت کے سوائے نہیں۔ اس لئے موت کا محبوب ہونا
اللہ تعالیٰ کی ملاقات و زیارت کے لئے بڑی نعمت ہے لیکن بعض اوقات انسان کسی ناقابل
برداشت تکلیف و مصیبت سے موت مانگنے پر مجبور ہو جاتا ہے وہ مصیبت اور ندموم ہے اس لئے
لقاء اللہ کے شوق کو بھی اس قید سے مقید فرمادیا۔

اکابر علماء دیوبند کی خداتری اور اپنے مخالفین کے ساتھ معاملہ

۶: سید الطائفہ حضرت مولانا شیداحمد گنگوہی قدس سرہ نے جب رذبد عات پر کچھ رسائل لکھے
تو اہل بدعت کی طرف سے سب و شتم کی بوچھاڑ ہوئی۔ بعض مشہور اہل بدعت کی طرف سے بہت
سے رسائل ان کے خلاف سب و شتم سے بھرے ہوئے یکے بعد دیگرے شائع ہوتے تھے۔
حضرت گنگوہی کی بینائی اس وقت نہیں رہی تھی۔ مولانا محمد سعیجی صاحب کاندھلوی (والد ماجد
حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب مدظلہ) حضرت کے خادم خاص اور معتمد تھے۔ آنے والی
ڈاک کو پڑھکر سناتے اور پھر جواب لکھنے کی خدمت ان کے پر تھی۔ ان میں وہ رسائل بھی ہوتے
تھے جو ان حضرات کی طرف سے آتے تھے۔ کچھ دن ایسے گزرے کہ مولانا محمد سعیجی صاحب نے
ایسا کوئی رسالہ نہیں سنایا۔ تو حضرت گنگوہی نے پوچھا کہ مولوی سعیجی کیا ہمارے دوست نے ہمیں
یاد کرنا چھوڑ دیا ہے؟ بہت دنوں سے ان کا رسالہ نہیں آیا۔ مولانا محمد سعیجی صاحب نے عرض کیا کہ
رسائل تو کئی آئے ہیں مگر وہ مجھ سے پڑھنے نہیں جاتے۔ حضرت نے فرمایا کیوں؟ عرض کیا کہ ان
میں تو گالیاں بھری ہیں۔ آپ نے اول تو فرمایا اور میاں کہیں دور کی گالی بھی لگا کرتی ہے؟ پھر
فرمایا کہ وہ ضرور سناؤ۔ ہم تو اس نیت سے سنتے ہیں کہ ان کی کوئی بات قابل قبول ہو تو قبول کریں۔
ہماری کسی غلطی پر صحیح تنبیہ کی گئی ہو تو اپنی اصلاح کریں (انھی) یہ ہیں وہ حق پرست خداتری علماء

جن کا کسی سے اختلاف بھی ہوتا ہے تو خالص حق تعالیٰ کی رضا جوئی کے لئے اور جو مخالفین کی سب و شتم کے وقت بھی جذبہ انتقام اور اپنے نفس سے مدافعت اور تاویلات ڈھونڈنے کے بجائے اپنی اصلاح اور حق طلبی کی راہ نکال لیتے ہیں کیسے ظالم ہیں وہ لوگ جنہوں نے ان بزرگوں پر اتهامات لگا کر بد نام کیا اور عوام کو ان کی تصانیف پڑھنے سے ان کے پاس جانے سے روکا اور یہ حقیقت ہے کہ جو دور دوسرے بدگمانی قائم کر کے نہیں بیٹھ گیا۔ انصاف کے ساتھ ان حضرات کی کتابوں کو پڑھا ان کی صحبت سے مستفیض ہوا۔ اس کو اشکالات کا جواب خود بخوبی مل گیا۔

اختلافی معاملات میں اگر یہ روش اختیار کر لی جائے تو مسلمانوں کے باہمی جنگ و جدل کے فتنے ختم ہو جائیں۔ اختلاف اختلاف کی حد میں رہے۔ مگر اس کے لئے خدا تری اور بے نفسی کی ضرورت ہے جس کا آج کل قحط ہے (جامع)

حجۃ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم

ؒ: حضرت مددوح کے علمی اور عملی کمالات سے شاید ہی کوئی باخبر مسلمان ناواقف ہو۔ ان کی بے نفسی کا یہ عالم تھا کہ معاشی ضرورت کا احساس ہوا تو مطبع مجتبی دہلی میں کتابوں کی تصحیح کے لئے ملازمت اختیار کر لی۔ کل دس روپیہ ماہوار تنخواہ تھی ایک مرتبہ اس سے بھی جی گھبرا یا تو اپنے شیخ حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے مشورہ کیا کہ یہ تنخواہ بھی لینا چھوڑ دیں اور جو کام کریں وہ اوجہ اللہ بالانخواہ کریں۔

حضرت حاجی صاحب قدس سرہ امام وقت تھے انہوں نے فرمایا کہ آپ ترک مشاہرہ کے لئے مجھ سے مشورہ طلب کرتے ہیں مشورہ دلیل تردد ہے اور تردد کی حالت میں ترک اسباب موجب پریشان ہوتا ہے۔ ترک اسباب تو اس وقت روا ہوتا ہے جب آدمی مغلوب الحال ہو جائے۔ فرمایا کہ حضرت حاجی صاحب خود متوكل تھے فقر و فاقہ کے سخت مراحل سے گزرے ہوئے تھے مگر اپنے مریدین کے لئے اس کا اہتمام فرماتے تھے کہ وہ کسی پریشانی میں بتلانہ ہوں۔

ترکِ ملازمت مدرسہ کانپور کا قضیہ

۸: فرمایا کہ جب میں مدرسہ جامع العلوم کانپور میں تجوہ اے کر درس تدریس کی خدمت انجام دیتا تھا حضرت کی دلی خواہش یہ تھی کہ میں یہ ملازمت چھوڑ دوں مگر میری پریشانی کے خیال سے چھوڑنے کا حکم نہ دیتے تھے۔ صرف یہ فرمایا کہ اگر کسی وقت کانپور کی ملازمت ترک کرو تو پھر کوئی دوسری ملازمت اختیار نہ کرنا۔ میں اس وقت کہتا تھا کہ یہ ملازمت میں کیوں چھوڑ دوں گا دین کی خدمت ہے تجوہ لینا کوئی ناجائز کام نہیں ہے مگر کچھ ہی عرصہ گزر اتھا کہ شیخ کی دلی خواہش رنگ لائی اور یکسوئی اور خلوت کا ذوق اس قدر غالب آیا کہ ملازمت کی پابندی کٹھن ہو گئی بالآخر استغفار ہے پر مجبور ہو گیا۔ اہل مدرسہ نے وفاد بھیجے خطوط لکھے کہ یہاں کوئی تکلیف ہو تو اس کا ازالہ کیا جائے۔ ان سے مجبور ہو کر مجھے بات کھولنا پڑی اور ان کے جواب میں یہ شعر لکھ کر بھیج دیا۔

از قل و قال مدرسہ حالے دلم گرفت

یک چند نیز خدمت معشوق دے کنم

قرض سے پریشانی اور حضرت گنگوہی کا مشورہ

۹: ترکِ ملازمت کانپور کے بعد خانقاہ تھانہ بھون میں متوكانہ قیام فرمایا تھا اس وقت ضروریات خانگی کے لئے ڈیڑھ سور و پیہ قرض ہو گیا۔ حضرت حاجی صاحبؒ کی وفات ہو چکی تھی۔ ان کے بعد حضرت حکیم الامۃ قدس سرہ حضرت گنگوہی کو اپنے شیخ کا قائم مقام سمجھ کر مشکلات میں ان کی طرف رجوع فرماتے تھے۔ عرض حال اور ادائے قرض کی دعا کے لئے گنگوہ کو خط لکھا۔ جواب آیا کہ مدرسہ دیوبند میں ایک جگہ ملازمت کی خالی ہے اگر رائے ہو تو میں ان کو لکھ دوں۔ حضرتؒ نے فرمایا کہ اس جواب سے میں کچھ کشکش میں پڑ گیا کہ اس ملازمت کو اختیار کرتا ہوں تو حضرت حاجی صاحبؒ کے ارشاد کی مخالفت ہوتی ہے اور نہیں کرتا تو حضرت گنگوہیؒ کے اس ارشاد کے باوجود قبول نہ کرنا ایک گونہ بے ادبی ہے مگر اللہ تعالیٰ نے صحیح جواب دل میں ڈال دیا میں نے لکھا کہ حضرت میری غرض تو اس خط سے صرف دعا تھی کسی ملازمت یا ذریعہ معاش کی طلب

مقصود نہ تھی۔ کیونکہ حضرت حاجی صاحب قدس سرہ نے مجھے یہ وصیت فرمائی تھی کہ کانپور کی ملازمت چھوڑ و تو پھر کوئی دوسری ملازمت اختیار نہ کرنا۔

اب میں حضرت کو بھی حضرت حاجی صاحب کے قائمِ قام سمجھتا ہوں اگر اس پر بھی ملازمت اختیار کرنے کا حکم ہو تو میں اس کو بھی حضرت حاجی صاحب ہی کا حکم سمجھوں گا اور پہلے حکم کا ناخ قرار دے کر ملازمت اختیار کروں گا۔ اس پر حضرت گنگوہیؒ کا جواب آیا کہ اب آپ کوئی ملازمت نہ کرو ان شاء اللہ تعالیٰ پر یشانی نہیں ہوگی۔

تقویٰ اور تواضع کی خاص شان مشورہ اکابر کی پابندی

۱۰: حضرت کے والد ماجد خان دانی رئیس اور صاحبِ ثروت تھے۔ ذرائع آمد فی بھی کوئی ناجائز نہ تھے مگر حضرت کی نظر میں کچھ مشتبہ تھے۔ والد ماجد کی وفات کے بعد ترکہ میں اپنے حصہ میراث کا معاملہ سامنے آیا تو لینے میں تردد ہوا۔ از خود کوئی فیصلہ کرنے کی عادت نہ تھی۔ حضرت گنگوہیؒ کو خط لکھ کر سوال کیا کہ حصہ لینے میں مال مشتبہ ہونے کی وجہ سے تردد ہے اور چھوڑنے میں اس لئے تردد ہے کہ کہیں بعد میں پر یشانی نہ ہو۔

جواب آیا:

”اگر یہ حصہ لے لو تو تقویٰ ہے نہ لو تو تقویٰ ہے اور پر یشانی ان شاء اللہ عز بھر نہ ہوگی۔“

حضرتؒ نے تقویٰ کا پہلو اختیار کیا اور اپنا حصہ میراث جو بڑا سرمایہ تھا بھائیوں کے لئے چھوڑ دیا۔ احقر نے اپنے والد سے سنا کہ حضرت گنگوہیؒ فرمایا کرتے تھے کہ مولانا اشرف علیؒ کا ادنیٰ تقویٰ یہ ہے کہ والد کی میراث کا حصہ نہیں لیا۔

یہاں تقویٰ کے ساتھ صرف اپنی رائے پر اعتماد نہ کرنا بزرگوں کے مشورہ پر عمل کرنا ایک بہت بڑا حکیمانہ اصول ہے جس کی پابندی حضرتؒ خود بھی بھیش کرتے تھے اور سب کو تاکید فرماتے تھے کہ

”انسان کو چاہیے کہ بھی خود رائی سے کام نہ کرے جب تک ضابطہ کے بڑے موجود

ہیں ان کے مشورہ پر عمل کرے جب ضابطہ کے بڑے نہ رہیں تو اپنے برابروں کے مشورہ کا پابند رہے جب وہ بھی نہ رہیں تو چھوٹوں کے مشورہ کی پابندی کرے۔ اور فرمایا کہ ضابطہ کے بڑے اس لئے کہہ رہا ہوں کہ حقیقت میں کون بڑا ہے اس کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔

تعلیمِ جدید سے پیدا ہونے والے شبہات کی اصل بنیاد

۱۱: فرمایا کہ نو تعلیم یافتہ حضرات کے جتنے شبہات اسلامی تعلیمات کے متعلق ہوتے ہیں ان میں غور کرنے سے سب کی بنیاد یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس تعلیم کے اثر سے اللہ جل شانہ اور اس کے رسول ﷺ کی عظمت و محبت قلوب سے اٹھ جاتی ہے اور جب وہ نہ رہی تو ہر حکم میں سینکڑوں سوال کھڑے ہو جاتے ہیں جب کسی کی عظمت دل میں ہوتی ہے تو اس کے اقوال و احکام پر سوالات ہی پیدا نہیں ہوتے۔ دیکھو موجودہ حکومت کی عظمت جبری طور پر لوگوں کے قلوب پر چھائی ہوتی ہے اس لئے اس کے مقرر کردہ قوانین کی لمحہ اور حکمت پوچھنے کی طرف کسی کو توجہ نہیں ہوتی کہ ڈاکخانہ میں ڈھانی تو لہ تک دو پیسے اور اس کے اوپر پانچ تولہ پر ایک آنے لفافہ کا محسول ہے اس پر سب عالم جاہل خواندہ ناخواندہ عمل کرتے جاتے ہیں کسی کو یہ پوچھنے کی جرأت ہی نہیں ہوتی کہ اس قانون میں حکمت کیا ہے اور اگر کوئی کسی سے پوچھنے بھی تو جواب دینے والا یہ جواب کافی سمجھتا ہے کہ بھی قاعدہ قانون ہی ہے مگر اسلام کی تعلیمات و قوانین کے لئے یہ جواب کافی نہیں سمجھا جاتا کہ اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول ﷺ کا یہی حکم ہے یہ سب پھل پھول اسی کے ہیں کہ اللہ و رسول ﷺ کی عظمت دلوں میں کم ہو گئی۔

اشرافِ نفس کی حقیقت

۱۲: ایک حدیث میں رسول کریم ﷺ کا ارشاد ہے کہ ”جوہد یہ بلا کسی طمع اور اشرافِ نفس کے ملنے میں برکت ہوتی ہے اور اشرافِ نفس ہونے کی صورت میں برکت نہیں ہوتی۔“

اشراف کے معنی انتظار کے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ اگر پہلے سے کوئی ہدیہ یہ ملنے کی توقع ہو اور نفس

کو انتظار ہو کہ فلاں شخص سے یہ ہدیہ ملے گا تو یہ اشرافِ نفس ہے جس کے ساتھ ہدیہ قبول کرنا اہل باطن کے لئے ایسا ہے جیسے کسی سے سوال کر کے کوئی چیز لی جائے۔ اشرافِ نفس کے معاملہ میں حضرتؒ نے ایک واقعہ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہانپوری مہاجر مدینی کا نقل فرمایا کہ ”ریاست بہاولپور کے ایک رئیس دیندار آدمی تھے اکثر کچھ علماء، صلحاء کو دعوت دیتے رہتے تھے اور والپسی کے وقت کچھ ہدیہ بھی پیش کیا کرتے تھے۔

ایک مرتبہ دیوبند سہارپور کے بزرگ اور حضرتؒ وہاں مدعو تھے حضرت مولانا خلیل احمد صاحب قدس سرہ اپنے وقت کے فقیہ اور بڑے بزرگ تھے ان کو خیال آیا کہ اس رئیس کی عادت معلوم ہے کہ کچھ ہدیہ پیش کیا کرتے ہیں اس لئے یہاں آتے ہی یہ خطرہ ہوتا ہے یہ کچھ دیں گے تو یہ اشرافِ نفس ہو گیا۔ اس کے ساتھ قبول بد مناسب نہیں۔ حضرتؒ نے فرمایا کہ میں نے عرض کیا کہ میرے نزدیک اشرافِ نفس وہ ہے جس کے خلاف ہونے میں کلفت اور شکایت ہو۔ اور جب کلفت و شکایت نہ ہوتا وہ محض ایک وسم ہے اشراف نہیں۔

حضرت مولانا خلیل احمد صاحبؒ نے میرے جواب میں ایسا کہا کہ ”ایسا اور تصدیق فرمائی۔“

بزرگوں کے تعویذات عام عاملوں کی طرح نہیں ہوتے

۱۳: فرمایا کہ عمليات اور تعویذات کے جانے والے بہت سی قیود شرعاً کے ساتھ تعویذات لکھتے ہیں وہ ایک فن ہے مگر حضرات اکابر کے نزدیک اصل چیز توجہ الی اللہ اور دعا ہوتی ہے اس کو جس عنوان سے چاہیں لکھ بھی دیتے ہیں اور لوگوں کو فائدہ بھی ہوتا ہے میں نے حضرت حاجی صاحب قدس سرہ سے سنا ہے کہ حضرت مولانا سید احمد صاحب بریلویؒ سے لوگ مختلف امراض اور حاجات کے تعویذ مانگا کرتے تھے وہ ہر ضرورت و حاجت کے لئے یہ الفاظ لکھ کر دے دیتے اور اللہ کے فضل و کرم سے فائدہ ہوتا تھا وہ الفاظ یہ ہیں؛

”خداوند اگر منظور داری حاجقش را برداری“

فرمایا کہ اسی طرح حضرت گنگوہیؒ سے کسی نے کسی خاص کام کے لئے تعویذ مانگا حضرت

نے فرمایا کہ مجھے اس کا تعویذ نہیں آتا اس شخص نے اصرار کیا کہ پچھہ لکھ دیجئے حضرتؐ نے یہ کلمات لکھ دیئے:

”یا اللہ میں جانتا نہیں یہ مانتا نہیں آپ کے قبضہ میں سب کچھ ہے اس کی مراد پوری فرمادیجئے۔“

اللہ تعالیٰ نے اس کی ضرورت پوری فرمادی۔

حضرتؐ کی تفسیر اور تصوف سے مناسبت حضرت حاجی صاحبؒ کی پیشگوئی
۱۴: فرمایا کہ حضرت حاجی صاحبؒ نے میرے بارہ میں یہ پیشگوئی فرمائی تھی کہ تمہیں تفسیر قرآن اور تصوف سے خاص مناسبت ہوگی۔ اسی کا اثر ہے کہ محمد اللہ ان دونوں چیزوں میں مجھے بہت کم شبہات رہتے ہیں اللہ تعالیٰ حل ہی فرمادیتے ہیں۔

جنت میں تقاضل درجات کے باوجود باہمی حسد نہ ہوگا

۱۵: فرمایا کہ یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ اہل جنت کے درجات متفاوت ہوں گے۔ ایک درجہ اور دوسرے درجہ میں بڑا فرق ہوگا۔ انسانی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ چھوٹے درجہ والے کو بڑے درجہ والے پر اگر حسد بھی نہ ہو تو کم از کم غبطة اور اس کے نتیجہ میں ایک قسم کی حرمت ہوتی ہے جنت میں حسد تو نہیں ہوگا کیونکہ وہ حرام ہے مگر یہ سوال ہوتا ہے کہ غبطة بھی ہوا تو ایک قسم کی حرمت اور کلفت تو ہوگی۔ اور جنت سب کفتوں سے پاک جگہ ہے وہاں کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ فرمایا کہ جنت کے حالات کو دنیا پر قیاس نہیں کیا جا سکتا وہاں حق تعالیٰ سب کو ایک وصف قناعت عطا فرمائیں گے کہ ہر شخص اپنے مقام پر خوش اور مگن رہے گا بڑے درجہ کے لوگوں کو دیکھ کر اس کے دل میں کوئی حرمت و بے چینی پیدا نہ ہوگی۔

لوگوں سے جھگڑے کے واسطے علماء سے فتویٰ لینا

۱۶: فرمایا کہ بہت سے لوگ اپنی تو خبر نہیں لیتے حال حرام ایک کرتے رہتے ہیں اور دوسرے

لوگوں کے جھگڑا کرنے کے لئے علماء سے فتویٰ لیتے پھرتے ہیں۔ جب کسی شخص کے متعلق مجھے یہ محسوس ہوتا ہے تو میں اس سے پوچھ لیتا ہوں کہ یہ معاملہ تحسیں پیش آیا ہے اور اپنے عمل کے لئے پوچھتے ہو یا کچھ اور ہے اگر وہ دوسروں کا معاملہ بتائے تو اس کو جواب نہیں دیتا۔ کہہ دیتا ہوں جس کا معاملہ ہے اس کو بھجو یا وہ خود بذریعہ خط دریافت کرے۔

نوکروں کو بھی انکی وسعت سے زیادہ تکلیف دینا درست نہیں

۱۷: فرمایا کہ مجھے اس کا بڑا خیال رہتا ہے کہ کسی سے اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام لیا جائے۔ میں اپنے ذاتی ملازموں سے بھی کہہ دیتا ہوں کہ جو کام تم پر گراں ہو فوراً کہہ دیا کرو کہ یہ مجھے مشکل ہو گا۔ ہم اس کا کوئی دوسرا انتظام کر لیں گے۔

بزرگوں کی شان میں گستاخی باطن کے لئے سخت مضر ہے بعض اوقات

ناقابلِ علاج ہو جاتی ہے

۱۸: حضرت گنگوہیؓ نے نقل فرمایا کہ تفسیر سورہ یوسف منظوم کے مصنف، حضرت میاں جی صاحب کی شان میں کچھ گستاخانہ الفاظ کہا کرتے تھے۔ پھر متذمّہ ہوا۔ توبہ کی اور حضرت میاں جی صاحب سے بیعت کی درخواست کی۔ بیعت کر لیا لیکن کچھ عرصہ کے بعد تہائی میں ان سے فرمایا کہ میاں اشرف! اس طریق کی بنیادا خلاص پر ہے اس لیے تم سے بات چھپانا نہیں چاہتا۔ بات یہ ہے کہ میں جب بغرض افاضہ تمہاری طرف توجہ کرتا ہوں تو تمہارے وہ سب کلمات جو پہلے کہے تھے میرے سامنے آ کر حاصل ہو جاتے ہیں۔ ہر چند تحسیں لفظ پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں مگر اس کی صورت نہیں بنتی اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم کسی اور شیخ سے بیعت کرلو۔ میں بھی تمہاری سفارش کر دوں گا۔ (انتہی)

احقر جامع کہتا ہے کہ بے گوئی حقد و کینہ نہیں بلکہ غیر اختیاری امر ہوتا ہے جس کا انسان مکلف نہیں۔ جیسے رسول اللہ ﷺ نے حضرت حمزہؓ کے قاتل وحشیؓ کو مسلمان ہونے کے بعد بدایت فرمائی

کہ تم میرے سانے نہ آیا کرو مجھے حضرت حمزہ کا صدمہ تازہ ہو جاتا ہے۔ وہ تمہارے لیے
مضفر ہو گا۔

دعا کافر کی بھی قبول ہو سکتی ہے

:۱۸ فرمایا کہ آیت قرآن و مادعاء الکفر ین الائی ضلال سے استدلال کر کے یہ سمجھنا صحیح نہیں کہ
کافر کی دعا، قبول نہیں ہوتی کیونکہ یہ آیت آخرت کے معاملہ میں ہے وہاں کسی کی کوئی دعا، قبول
نہ ہوگی۔ دنیا میں حق تعالیٰ سب کی دعا، قبول کرتے ہیں یہاں تک اکفر الکفار الہمیں کی دعا، قبول
فرمایی اور دعا، بھی ایسی عجیب قسم کی کہ مجھے قیامت تک عمر طویل دے دیجئے تاکہ میں اولاد آدم کو
گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہوں۔ حق تعالیٰ نے یہ دعا، بھی قبول فرمایا کہ انک من
المنظرين کا اعلان فرمادیا۔

تصوف کی حقیقت فنا ہے یعنی اپنی خواہشات کو مرضی مولیٰ پر قربان کرنا

:۱۹ ارشاد فرمایا کہ لوگ اس طریق میں سالک ہونے کو بڑی چیز سمجھتے ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ
اصل چیز سالک ہونا نہیں ہالک ہونا ہے یعنی اپنے کو منادیں۔ اور منادیں بھی وہ معتبر ہے کہ اس
منانے کو بھی منادے کے اس کی طرف کوئی التفات نہ ہو جیسے اصلی اور گھری نیندو ہی ہے جس میں
سو نے والے کو اپنے سونے کی بھی خبر نہ رہے ورنہ پھر وہ نیند نہیں اس کو اونٹھ کہیں گے۔

مولانا رومیؒ نے خوب فرمایا ہے۔

فهم و خاطر تیز کردن نیست را!

جز شکستہ می نگیر دفضل شاہ

(انتہی)

حضرتؐ نے عبادت اطاعت کی اصلی روح کی طرف ہدایت فرمائی ہے کہ کمالات علمی ہوں
یا عملی، کتنے ہی مجاہدے اور عبادات ہوں اپنی ذات میں مقصود نہیں مقصود تو رضاۓ حق جل شانہ
ہے اور رضاۓ حق انسان کے بجز و اکسار اور شکستگی کے احساس میں ہے کہ سب کچھ کرنے کے بعد

بھی اپنے کو قاصر سمجھئے اور اپنی کوتاہی پر استغفار کرے۔ رسول کریم ﷺ اور صحابہ کرام کی برابر کون عبادت و طاعت کر سکتا ہے مگر ان کا بھی یہی عمل تھا کہ ساری رات عبادت کرنے کے بعد بھی استغفار کرنے کو ضروری سمجھتے تھے۔

لیعنی اللہ کے مقبول وہ بندے ہیں جو رات کا
وبالاً سحارہم یستغفرون۔
بڑا حصہ عبادت میں گزارتے ہیں اور آخ
شب میں استغفار کرتے ہیں۔

اس میں علماء خطباء مصنفین اور اسلامی معاملات میں جدوجہد کرنے والوں کے لئے اہم ہدایت ہے کہ یہ کوئی نازکی اور فخر کی چیز نہیں۔ بلکہ جو کمال یا جو نیک عمل کسی سے ہوا ہے اس سب کو حق تعالیٰ کا عطا یہ سمجھ کر اس پر شکر گزار ہو۔ اور اس میں حق تعالیٰ کی شان جلال کے مطابق نہ ہونے کی جو کوتاہی لازمی ہے اس سے استغفار کرے۔

جب تک امراض باطنہ کا علاج نہ ہو بعض اوقات ذکر و شغل نفلی عبادات

مضر ہو جاتی ہیں

۲۰: فرمایا کہ جس طرح لطیف فذا خلط غالب کی طرف مستحیل ہو جاتی ہے جس کے جسم میں عفراہ بڑھا ہوا ہے غذائیں احتیاط نہ کی جائے تو وہ بھی صفراء ہی بڑھاتی ہے اس لئے مسہل کی ضرورت ہے مقوی غذا بعد میں دی جاتی ہے۔ اس طرح امراض باطنہ غلب، تکبر، ریاء کے موجود ہوتے ہوئے اذکار و اوراد کی کثرت بعض اوقات مرض کو بڑھادیتی ہے یہاں بھی مجاہدات کا مسہل دینے کی ضرورت ہے تاکہ نیک عمل کے غلب و کبر میں بتانہ ہو جائے۔

خاصصیت ہے کہ امراض باطنہ کی اصلاح کو اذکار و اوراد پر مقدم کرنا چاہیے۔ (انٹی)

متقد میں صوفیاء میں اس کا بڑا اہتمام تھا اب لوگوں کو توجہ نہیں رہی اسی لئے مشائخ کی خدمت میں رہ کر ذکر و شغل میں مشغول رہنے کے باوجود بہت سے لوگوں کی اصلاح نہیں ہوتی۔ امراض باطنہ جو درحقیقت کبیرہ گناہ ہیں وہ جوں کے توں رہتے ہیں یہ کچھ خوابیں دیکھ کر اپنے کو ولی اور مقبول

سمجھنے لگتے ہیں حالانکہ معاصری کی عادت کے ساتھ دلایت و مقبولیت بھی جمع نہیں ہوتی۔

اس طریق کا اصل مقصود اعمال باطنہ کی اصلاح ہے اذکار و اوراد معین ہیں

۲۱: فرمایا کہ ہر طبقہ میں رسم غالب آجاتی ہیں تو حقائق مستور ہو جاتی ہیں سلوک و تصوف کا اصل مقصد اور اراد و اشغال نہیں۔ یہ چیزیں معین مقصود ضرور ہیں مگر اصل مقصود اعمال باطنہ کی اصلاح ہے جب تک وہ نہ ہو اراد و اشغال کا بھی پورا نفع نہیں ہوتا۔ بلکہ بعض اوقات غجب و کبر میں بتلا ہو جانے کے سبب مضبوطی ہو جاتے ہیں۔

فرمایا کہ ”اگر کوئی کہے کہ اصلاح اعمال باطنہ کے طریقے تو تصوف کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں ان کو دیکھ کر انسان اپنی اصلاح کر سکتا ہے۔ پھر شیخ کی پیاضرورت تو جواب یہ ہے کہ بدن انسانی کے امراض کے معالجات بھی طب اور ڈاکٹری کی کتابوں میں پورے لکھے ہوئے موجود ہیں پھر طبیب اور ڈاکٹر کی ضرورت کیوں محسوس کی جاتی ہے جو ضرورت یہاں ہے وہی امراض باطنہ میں بھی ہے“ (انٹی)

اور اگر غور کیا جائے تو امراض جسمانی سے جو جسم کو تکلیف پہنچتی ہے اس کو تو خود میریض بھی محسوس کرتا ہے اسی لئے طبیب اور ڈاکٹر کی تلاش کرتا ہے طبیب کی ضرورت اسباب مرض اور تجویز دوائے لئے ہوتی ہے باطنی امراض جن کو اصطلاح میں رذائل کہا جاتا ہے جیسے غجب، غرور، تکبر، ریاء، حرص دنیا، حسد وغیرہ یہ ایسے مخفی امراض ہیں کہ اکثر اوقات میریض کو ان کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں یہاں ہوں اس لئے کسی علاج و دوائے کی طرف التفات بھی نہیں ہوتا۔ شیخ کامل جو باطنی امراض کا حاذق طبیب ہوتا ہے اسی کو یہ کام بھی کرنا پڑتا ہے کہ میریض کو یہ بتائے کہ تجھے میں فلاں مرض ہے۔

تو طبیب ڈاکٹر کے تو دو ہی کام ہیں تشخیص مرض اور تجویز دوائے مگر اس باطنی طبیب کو تیسرا کام یہ بھی کرنا پڑتا ہے کہ بے خبر ناواقف میریض جو اپنے کو تندرنست سمجھ رہا ہے اس کو اس کی یہاں کی پر متنبہ بھی کرے۔ اور آج کل کثرت اسی صورت حال کی ہے کہ کتابوں کے عموم اور غفلت کے

اسباب کثیرہ جمع ہونے کے سبب عام طور پر اپنے امراض باطنیہ کی طرف دھیان ہی نہیں ہوتا۔ عوام کا تو کیا کہنا ہے خاص علماء بھی بکثرت اس میں بتلا ہیں۔ اپنے امراض باطنیہ پر تنہ صرف بزرگوں کی صحبت اور ان کی کتابیں دیکھنے سے یا پھر شخ کی تنبیہہ ہی سے ہوتا ہے۔

استغناء کے ساتھ مخاطب کی دلچسپی اور اصلاح خلق کے خاص آداب

۲۲: نواب ڈھا کہ سلیم اللہ صاحب حضرت حکیم الامم کے شیدائی تھے ان کی تمنا تھی کہ کسی طرح حضرت ڈھا کہ تشریف لا دیں۔ یہاں سب خاندان کے لوگ اور عام مسلمان آپ سے استفادہ کریں۔ طویل کوشش کے بعد چند شرائط کے ساتھ تشریف لے جانا منظور فرمائیا ان شرائط میں سے ایک یہ بھی تھی کہ مجھے کوئی بد یہ پیش نہ کیا جائے۔ اور ایک شرط یہ تھی کہ میری کوئی مجلس نواب زادوں اور امراء کے لئے مخصوص نہ کی جائے۔ مجلس عام ہو گی جس میں عوام غرباء بھی ہوں گے امراء کے لئے کوئی خاص امتیاز نہیں ہو گا۔ غلبہ اشتیاق کی وجہ سے نواب صاحب نے سب شرائط منظور کر لیں۔ اب ان کا دل چاہا کہ حضرت کا استقبال اوس پیمانہ پر کریں جس پر واسراء کا استقبال ریاست میں کیا جاتا ہے مگر جانتے تھے کہ بلا اجازت کوئی کام کیا تو حضرت وہیں سے واپس ہو جاویں گے اس لئے بذریعہ تاریخیافت کیا حضرت نے تاریخ سے جواب دیا کہ ”خلاف شریعت ہے“، انہوں نے دوسرا تاریخیجا کہ اچھا سادہ مگر بڑا اجتماع کرنے کی اجازت دے دیجئے اس پر تاریخ سے جواب دیا ”خلاف طبیعت ہے“، مجبور ہو کر معمولی طور پر استقبال کیا حضرت ڈھا کہ میں تشریف فرمائی ہوئے۔ نواب صاحب کو بد یہ نہ دینے اور مجلس میں نواب زادوں کے لئے امتیاز نہ کرنے کی دونوں شرطیں نبھانا سخت دشوار ہو رہا تھا اسلئے ایک حلیہ یہ کیا کہ خاندان کے بچوں کی بسم اللہ حضرت سے کرائی اور نوابوں کی عادت کے مطابق اقرباء و احباب کی دعوت بڑے پیمانہ پر کی۔ پھر حضرت سے آ کر عرض کیا کہ ہمارے خاندان میں یہ عادت ہے کہ ایسے موقع پر اپنے بزرگوں کی خدمت میں کچھ بد یہ پیش کرتے ہیں میں شرط کے مطابق وعدہ کا پابند ہوں مگر اس موقع پر کچھ بد یہ پیش نہ کیا تو خاندان میں میری رسولی ہو گی۔ اگر آپ موقع کو مستحب فرمائیں فرمائیں قبول فرمائیں تو

میں رسولی سے نجح جاؤں گا۔ حضرت نے تازہ لیا کہ یہ سب دھندا اسی کام کے لئے کیا گیا ہے۔ فرمایا اس میں کیا اشکال ہے آپ اپنے خاندان اور احباب کے مجمع میں جو کچھ بھی ہدیہ پیش کرنا چاہیں پیش کر دیں میں سب کے سامنے قبول کرلوں گا۔ مگر پھر تہائی میں آپ کو واپس لینا ہوگا۔ آپ کی بھی سکلی نہ ہوگی میری وضع کے بھی خلاف نہ ہو گا نواب صاحب عاجز ہو کر رہ گئے۔ احقر جامع کہتا ہے کہ آگے کی بات یاد نہیں کہ پھر انہوں نے شرط نہ کو رکھے مطابق ہدیہ پیش کش پھر واپسی پر عمل کیا یا اپنا حیلہ چلتا نہ دیکھ کر اس ارادہ کو ہی چھوڑ بیٹھے۔

دوسری شرط نواب صاحب کو اس لئے کھل رہی تھی کہ خاندان کے نوابزادے امیروں کی عادت کے مطابق عوام اور غرباء کی صفت میں آ کر بیٹھنا اپنی شان کے خلاف سمجھتے تھے اور نتیجہ یہ رہا کہ وہ حضرت کے افادات سے محروم رہتے تھے۔ نواب صاحب اپنی مانی ہوئی شرط کے خلاف مجلس میں کوئی امتیاز کرنے نہیں سکتے۔ اس نے لئے ایک حیلہ یہ ڈھونڈا کہ شہر سے پندرہ میں میل دور کسی باغ میں حضرت کے لے جانے کا پروگرام بنایا اور ان سب نوابزادوں اور امراء کو وہاں جمع کر دیا۔ عام اعلان نہیں کیا۔ حضرت تشریف لے گئے مگر ہوا یہ کہ کچھ غریب غرباء خبر پا کر وہاں بھی پہنچ گئے اور پھر حضرت کی شرط کے مطابق عمل یہی ہوا کہ غریب و امیر ایک ہی صفت میں بیٹھے اب وعظ کا موضوع بھی حضرت کے لئے معین ہو گیا۔ کیونکہ حضرت بھی وعظ برائے وعظ نہیں کہتے تھے بلکہ مقامی ضرورتوں اور محتاج طبین کے خاص حالات پر نظر کر کے کوئی موضوع وعظ کا تجویز فرمانے کی عادت تھی۔ اس میں بعض اوقات غور و فکر اور تحقیق احوال کی ضرورت بھی پیش آتی تھی۔ اب موضوع وعظ خود اس امیری کے تکبر کی اصلاح تھہر گیا۔ وہ وعظ تو خاصاً طویل ہے یہاں نقل کرنے کا موقع نہیں مگر اس کافوری نتیجہ یہ ظاہر ہو گیا کہ نوابزادوں اور غرباء سے الگ رہنے والے امراء کو اپنی اصلی حقیقت معلوم ہو گئی۔ اور عدم حاضری کی یہ بنیاد ہی منہدم ہو گئی پھر حضرت کی عام مجلسوں میں سب حاضر ہونے لگے۔

یہ تھا تبلیغ و دعوت کا وہ پیغمبرانہ اور حکیمانہ طریقہ جس نے بڑے بڑے مغربوں کو سیدھا کر دیا۔

حضرت فرمایا کرتے تھے کہ میں جانتا ہوں کہ ہدیہ قبول کرنا سنت ہے اور اسی لئے اکثر قبول کر بھی لیتا ہوں بشرطیکہ اس قبول کرنے سے میرے نفس کا یادی نے والے کے نفس کا کوئی دینی ضرر نہ ہو۔ نوابوں اور امراء کی اصلاح اس کے بغیر ہونا بہت دشوار ہے کہ ان کو پورا یقین ہو جائے کہ یہاں ہمارے پیسے سے کوئی تقرب اور خصوصیت حاصل نہ ہوگی بلکہ صرف اصلاح اعمال و اخلاق دینی ہی کے ذریعے خصوصی تعلق قائم ہو سکتا ہے ان لوگوں کے ساتھ جس طرح خوشنامہ کا معاملہ درست نہیں خشونت کا معاملہ بھی خلاف سفت اور آداب دعوت کے منافی ہے آج کل اہل دعوت مصلحین امراء کے معاملے میں اسی افراط و تفریط میں پڑ جاتے ہیں اسی لئے اثر نہیں ہوتا بلکہ اتنا اثر ہوتا ہے۔

اچھا لباس پہننا کچھ برانہیں بشرطیکہ تفاخر کے لئے نہ ہو

۲۳: فرمایا کہ اچھا لباس اپنادل خوش کرنے کے لئے پہنا جائے تو جائز ہے مگر تفاخر کے لئے پہنا جائے تو جائز نہیں۔ اور دونوں میں فرق پہچاننے کے لئے علامت یہ ہے کہ جس کی خلوت اور جلوت میں فرق نہ ہو۔ دونوں حال میں اچھا لباس پہنتا ہے تو یہ علامت اضافت مزاج کی ہے اس میں کوئی مضائقہ نہیں اور اگر ان دونوں میں فرق ہو کہ خلوت میں معمولی لباس اور جلوت میں عمدہ کا اہتمام ہو تو وہ تفاخر کے لئے ہے جو حرام ہے۔

کشف مغیبات کوئی دینی کمال نہیں وہ کافر اور مجنون کو بھی ہو سکتا ہے لوگ ہر

صاحب کشف کے معتقد ہو کر بعض اوقات گمراہ ہو جاتے ہیں

۲۴: ارشاد فرمایا کہ غائب چیزیں یا آئندہ ہونے والے واقعات کا کشف نہ کوئی دینی کمال ہے نہ اللہ تعالیٰ کے یہاں تقرب کی علامت ہے اس کے لئے تو مسلمان یا عاقل ہونا بھی شرط نہیں۔ غیر مسلم کو بھی کشف ہو سکتا ہے مجنون کو بھی کشف صحیح ہو سکتا ہے۔ طب یونانی کی مشہور کتاب شرح اسباب میں دماغی امراض کے ذیل میں لکھا ہے کہ بہت سے پاگلوں کو کشف صحیح ہو جاتا ہے اور

کافروں فاسقوں کے کشف صحیح ہونے کے تو سینکڑوں واقعات دنیا میں معروف و مشہور ہیں۔

قدراۃ اللہ نامی ایک صاحب تھے جنہیں خود بخود کشف قبور ہونے لگا تھا اور کشف بھی اکثر صحیح ہوتا تھا مگر وہ نماز تک کے پابند نہیں تھے۔ وہ ایک قبر پر گئے تو بتایا کہ صاحب قبر کھڑے ہوئے صندل کی تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ تحقیق کرنے پر ان کے ایک خاص دوست نے بتایا کہ واقعی صاحب قبر صندل ہی کی تسبیح رکھتے تھے جس سے ان کو خاص محبت تھی اس لئے اس دوست سے کہا تھا کہ میرے دفن کے وقت یہ تسبیح میری قبر میں رکھ دینا۔ اس کے مطابق کیا گیا ہے۔

ایک مرتبہ قدرۃ اللہ صاحب ایک قبر کے پاس نماز پڑھنے لگے۔ اچانک چونک اٹھئے اور کہا کہ اس قبر میں مردہ پر عذاب ہو رہا ہے اور وجہ عذاب کی یہ ہے کہ اس کے پاس کسی شخص کی امانت تھی۔ اس نے طلب کیا تو یہ مکر گیا اور امانت واپس نہ دی۔ قدرۃ اللہ صاحب کو اس سے پہلے اس مردہ کا نام اور حال کچھ معلوم نہ تھا۔ جب تحقیق کی گئی تو اس کی بیوی نے اقرار کیا کہ واقعی بات صحیح ہے یہ میرے شوہر تھے انہوں نے فلاں شخص کی امانت لے کر واپس دینے سے انکار کر دیا۔

غرض یہ کہ مغیبات کا کشف ایک جسمانی باطنی قوت کے تابع ہے وہ کافروں، فاسقوں، دیوانوں کو بھی کبھی حاصل ہو جاتی ہے اس سے کشف ہونے لگتا ہے اور کشف بھی اکثر صحیح ہوتا ہے ان چیزوں کو تقربِ الی اللہ اور بزرگی میں کوئی دخل نہیں۔ آج کل لوگ عجائب پسند ہو گئے ہیں۔ جس کو صاحب کشف دیکھا اس کے معتقد ہو جاتے ہیں اور ان میں بہت سے لوگ خود مگراہ ہوتے ہیں دوسروں کو مگراہ کرتے ہیں۔

حق و باطل اور مقبول و مردود کا اصل معیار صرف اتباع شریعت و سنت ہے جو اس معیار پر پورا نہ اترے وہ ولی و مفتاد نہیں مگراہ ہے خواہ اس کو کتنے ہی کشف صحیح ہوتے ہوں۔

ضعف و ناتوانی بھی ایک نعمت ہی ہے اس سے رنجیدہ نہیں ہونا چاہیے

۲۵: فرمایا کہ ضعفاء اور بیکس و بے سامان کو رنجیدہ ہونے کے بجائے خوش ہونا چاہئے کیونکہ ماں باپ کمزور بچے کی حفاظت کی زیادہ فکر کرتے ہیں۔ (انجی)۔

احقر جامع کہتا ہے کہ حق تعالیٰ جو مر بی خلائق ہیں۔ ان کی نظر بھی ایسے کمزوروں خستہ حالوں پر بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ایک حدیث قدیم میں ہے کہ حق تعالیٰ نے فرمایا:

انَا عَنِ الدَّمْنَ كَسِرَةُ قُلُوبِهِمْ
یعنی میں ان لوگوں کے پاس ہوتا ہوں جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں۔

دانائے روم نے خوب فرمایا ہے۔

طفل تا گیران و تا پویان نبود

اور دوسری جگہ فرمایا۔

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| خفتم اندر سایہ احسان وجود | کا ہلم و سایہ حکیم در وجود |
| روز یئے بنہادہ نی نوع دگر | کا ہلان مکن سایہ ضبان را گمرا |
| آید و ریز دو ظیفہ بر سر ش | طفل را چون پابنا شد ما در ش |
| ابر رارا ند بسوئے او دو تو | چون ز میں را پابنا شد جود تو |

قوت و ضعف و سامان و بے سامانی سب خالق و مالک کی طرف ہے ہے ہر ایک کے ساتھ اس کے آثار و خواص آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہر ایک کے ساتھ مختلف عنوان و صورت سے آتی ہیں اس لیے غیر اختیاری معاملات میں اللہ تعالیٰ نے جس کو جس حال پر پیدا فرمادیا ہے اور جس حال میں رکھا ہے اس کو عین حکمت و مصلحت سمجھ کر اس پر راضی رہنا چاہیے۔ غیر اختیاری امور سعی و عمل کا میدان نہیں۔ خلقی کمزور پہلوان بننے کی تمنا کرے۔ کلا آدمی گورا بننے کی ہوس کرے۔ نسبی طور پر کمزور اعلیٰ نسب بننے کی جدوجہد کرے یہ سب لغو و بیکار ہے ایسے لوگوں کو سمجھنا چاہیئے کہ حق تعالیٰ حکیم ہیں ہمیں جس حال میں رکھا ہے ہمارے لئے وہی خیر اور بہتر ہے۔ دوسرا حال ہوتا تو معلوم نہیں ہم کس گمراہی کا شکار ہو جاتے۔

قرآن کریم کا ارشاد ہے:

لَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ط یعنی ایسے امور کی تمنا بھی نہ کرو جن

میں اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دے دی ہے۔
اس کا تعلق غیر اختیاری امور سے ہے، اختیاری امور کا حکم اس سے مختلف یہ ہے کہ ان میں
جد و جهد کر کے آگے بڑھنے کی فکر کرو۔

قرآن کریم کا ارشاد ہے:

سابقوالی مغفرة من ربکم وجنة عرضها السموات والارض۔ یعنی آگے بڑھنے کی
کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور جنت کی طرف جس کا عرض تمام آسمانوں اور زمینوں پر محیط
ہے۔

حضرت موسیٰ اور حضرت علیہما السلام کے واقعہ پر چند اشکالات اور لطیف جواب ۲۶:
فرمایا کہ قرآن کریم میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو حضرت خضر علیہ السلام کے پاس
بغرض تکمیلِ علم کے سفر کرنا مذکور ہے۔ اس میں حضرت خضر نے موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہی یہ
 وعدہ لے لیا تھا کہ وہ انکے کام پر ٹوکیں گے نہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وعدہ پر کیوں
قام نہ رہے کہ بار بار ان کے کاموں پر ٹوکا۔ حضرتؐ نے فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ وعدہ کا پورا
کرنا اس صورت میں واجب ہے کہ اس میں کوئی بات خلاف شرع نہ ہو۔ خلاف شرع تو وعدہ توڑنا
لازم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایسا وعدہ جس کے خلاف کرنے پر دوسرے فریق کا کوئی ضرر اور
نقصان نہ ہواں کا ایقاء بھی واجب نہیں ہوتا۔

تین واقعے جن پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر کو ٹوکا۔ ان میں ایک واقعہ تو
ظاہر شرع کے بالکل خلاف تھا کہ لڑکے کو قتل کر دیا۔ اور دو اور واقعے۔ کشتی توڑنے کا اور دیوار
سیدھا کرنے کا گو خلاف شرع اور ناجائز نہ تھے مگر حالات کے تابع خلاف استحباب و مردود تھے۔
پغمبر ان چیزوں پر صبر نہیں کر سکتے اور نہ کرنا چاہیے اس لئے مجبور ہو کر ٹوکا۔ خصوصاً یہ بھی معلوم تھا
کہ ان چیزوں پر ٹوکنے میں حضرت خضر علیہ السلام کو کوئی ضرر اور نقصان نہیں۔ (انتہی)
یہاں دو یا تین ادب شریعت کے متعلق اور قابل نظر ہیں اول تو یہ کہ شروع میں حضرت موسیٰ

علیہ السلام کو یہ تو معلوم نہیں تھا کہ واقعات ایسے پیش آؤں گے جو شریعت کے خلاف ہوں اس لئے یہ وعدہ کر لیا کہ

ستجدنی ان شاء اللہ صابرًا ولا
اعصى لک امرا۔
لیعنی ”آپ ان شاء اللہ مجھے صابر پائیں گے اور میں آپ کے کسی حکم کے خلاف نہ کروں گا۔

پھر جب کشتی توڑنے کا واقعہ پیش آیا تو اس کو مردوت و اخلاق کے خلاف سمجھتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام بول اٹھے

لیعنی ”یہ کام تو آپ نے بہت عجیب کیا کہ اپنے احسان کرنے والے کشتی بانوں کو نقصان پہنچا دیا۔“

اس وقت حضرت خضر نے وعدہ یاد دلایا تو موسیٰ علیہ السلام نے نیان کا اغذر کر کے آگے کو وعدہ کی پابندی کا اقرار کیا۔

مگر جب دوسری مرتبہ بچے کے قتل کا معاملہ سامنے آیا جو ظاہر شریعت کی رو سے بالکل حرام تھا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر شدت سے ٹوکا۔ اور حضرت خضر نے پھر پچھلا قول و قرار یاد دلایا تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی نیان وغیرہ کا اغذر بھی نہیں کیا اور آئندہ کے لئے اس وعدہ پر قائم رہنے کا فیصلہ بھی نہیں کیا بلکہ یہ فرمایا کہ اگر میں آئندہ آپ سے کوئی سوال کروں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں۔ وجہ یہ تھی کہ ایک اللہ کا نبی اپنے منصبی فریضہ کی بناء پر کھلے ہوئے خلاف شرع پر خاموش نہیں رہ سکتا۔ اور نہ اس کا وعدہ کر سکتا ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے تو شریعت کے آداب کی پابندی اس طرح واضح ہو گئی اور دوسری طرف حضرت خضر علیہ السلام نے بھی ظاہر شریعت کے احترام کو ملحوظ رکھا کہ لڑ کے کا قتل جو شریعت کی رو سے حرام تھا اس واقعہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جدانہیں کیا بلکہ تم سرے واقعہ میں جو دیوار کے سیدھا کرنے کا معاملہ تھا وہ کسی طرح بھی خلاف شرع نہیں تھا۔ خلاف

مصلحت کہا جاسکتا تھا اس پر بھی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ٹوکا تو اس وقت فرمایا
هذا فراق بینی و بینک۔ یعنی ”اب ہمارے اور تمہارے درمیان
جدائی کا موقع آگیا۔“

دیکھئے اس پورے واقعہ میں شریعت کے احترام کا دونوں طرف سے کس طرح اہتمام کیا گیا
ہے۔ اب جاہل مدعیان تصور نے اس واقعہ کا یہ نتیجہ نکال رکھا ہے کہ شریعت اور چیز ہے طریقت
اور چیز۔ جو چیزیں شریعت میں حرام ہیں وہ طریقت میں جائز ہو سکتی ہیں۔ معاذ اللہ یہ کھلا ہوا انکار
شریعت ہے۔ طریقت کی حقیقت شریعت پر عمل کرنے سے زیادہ کچھ نہیں۔ جو طریقت شریعت
کے خلاف ہو وہ الحادوزندقہ ہے۔

رہایہ معاملہ کہ اس واقعہ میں حضرت خضر علیہ السلام نے خلاف شرع کام کو کیسے اختیار کر لیا
جس پر موسیٰ علیہ السلام کو اعتراض کرتا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام بھی اللہ کے
نبی اور صاحبِ وحی تھے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی پا کر اس پر عمل کر رہے تھے اور شریعت کے
مقررہ قانون میں خود وحی الہی کے ذریعہ تبدیلی اور استثنائی صورتیں ہوتا کوئی امر مستبعد نہیں مگر
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس وحی کی خبر نہ تھی جس نے حضرت خضر علیہ السلام کے لئے شریعت کے
عام قاعدہ سے اس واقعہ کو مستثنیٰ کر دیا تھا۔ اس لئے انہوں نے ضابطہ شریعت کے مطابق اس پر
اعتراض کرنا ضروری سمجھا۔

حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ میں جو بھائیوں کی طرف چوری منسوب کرنا مذکور ہے
اگرچہ انہوں نے چوری نہیں کی تھی۔ ایسی حالت میں ان کو چور قرار دینا شرعاً جائز نہیں تھا۔ اس کی
بھی یہی توجیہ ہو سکتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام صاحبِ وحی ہیں، ان کو بطور استثناء یہ اجازت
مل گئی ہو گی۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ یہ شکل صرف اسی وقت ہو سکتی ہے جبکہ ایسا کرنے والا نبی اور
صاحبِ وحی ہو۔ کوئی ولی صاحب کشف والہام ایسا ہرگز نہیں کر سکتا کیونکہ کشف والہام کوئی جنت
شرعی نہیں اس کے ذریعہ شریعت کے کسی قاعدہ میں ترمیم یا استثناء نہیں ہو سکتا۔ جاہل صوفیوں نے

جو اس واقعہ کو خلاف شرع امور کے ارتکاب کے لئے وجہ جواز بنا لیا ہے وہ سراسر گمراہی ہے۔ اب نہ کوئی نبی آ سکتا ہے نہ کسی پروجی آ سکتی ہے نہ شریعت کے حکم کے خلاف کوئی استثناء ہو سکتا ہے۔

کسی بزرگ کی افضلیت معلوم کرنے کے لئے دلائل اور صفات کمال معلوم

کر لینا کافی نہیں

۲۷: فرمایا کہ محض صفات کمال اور دلائل کے ذریعہ یہ معین نہیں کیا جا سکتا کہ فلاں بزرگ فلاں سے افضل ہے بلکہ اس کا افضل مدارس پر ہے کہ ان کے معاصر بزرگ اور علماء ان دونوں میں سے کس کو افضل و اعلیٰ سمجھتے ہیں۔ جس کو وہ افضل سمجھیں وہی افضل ہے۔

۲۸: صالحین سے بھی غلطی ہو سکتی ہے مگر جب انکو متنبہ کیا جائے تو فوراً بازا آ جاتے ہیں
حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جودا را العلوم دیوبند کے قرن اول میں صدر مدرس تھے۔ اوائل عمر میں ان کو سرکاری ملازمت کی نوبت آئی۔ اجمیر شریف میں مدارس کے اسپکٹر مقرر ہوئے۔ وہاں ایک صاحب فن موسيقی کے بڑے استاد اور ماہر تھے۔ مولانا جامع علوم و فنون اور ہر فن میں بڑے محقق تھے۔ ہر علم و فن کے حاصل کرنے کا شوق تھا اس ماہر موسيقی سے یہ فن بھی سیکھ لیا اور اس فن میں بڑے ماہر ہو گئے۔

ایک روز اپنے بالاخانہ پر موسيقی میں مشغول تھے نیچے سے ایک مجدوب گزرے اور پکار کر کیا!

”مولوی تیرا یہ کام نہیں تو دوسرے کام کے لئے ہے۔“

یہ سننا تھا کہ اس کام سے بالکل نفرت ہو گئی۔ اور اسی وقت توبہ کر لی۔ ان کی توبہ کی خبر ان کے استاد کو پہنچی تو اس نے بھی توبہ کر لی۔ (انٹھی)

۱۳۲۴ھ

ایک مختصر جامع دعاء

۲۹: فرمایا کہ نماز کے بعد کے لئے میں نے ایک مختصر جامع دعاء اختیار کر رکھی ہے جس میں اپنے

اور سب مسلمانوں کے لئے دین و دنیا کے سارے مقصد کی دعاء آ جاتی ہے وہ یہ ہے اللہم کل خیر لکل مسلم و مسلمة۔

حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب کی حکیمانہ نصیحت

۳۰: فرمایا حضرت مولانا محمد یعقوبؒ بڑے حکیم اور دانش مند تھے۔ اپنے طلباء اور مریدین کو نصیحت فرماتے تھے کہ علمی سبق ہو یا ذکر و تسبیح۔ اس کے لئے جتنا وقت متعین کیا ہے اس کو بالکل آخر تک نہ پہنچا و ذرا پہلے چھوڑ دو۔ اس کا اثر یہ ہو گا کہ دوبارہ اس کام کی طرف جلد رغبت ہو گی اور اگر آخر تک پہنچا کر اور تھک کر چھوڑ تو دوسرے وقت اس کی طرف رغبت جلد نہ ہو گی جیسا اطباء کا قول ہے کہ کھانا بالکل پیٹ بھر کرنہ کھاؤ بلکہ تھوڑی سی بھوک اور رغبت باقی ہو اس وقت چھوڑ دو تو دوسرے وقت کھل کر بھوک لگے گی۔ اور فرمایا کہ بچوں کا کھیل چکٹی یا چکٹہ ورد یکھتے ہو کہ جب اس کو چلاتے ہیں تو تھوڑا سا ڈورا اس پر لپٹا ہوا چھوڑ دیتے ہیں تاکہ وہ آسانی سے واپس آ جائے اگر پوری ڈور کھول دیں تو پھر لپٹنے اور واپس آنے میں بڑی دیرگتی ہے۔

نوع مراث کوں سے اختلاط میں احتیاط لازم ہے

۳۱: فرمایا کہ میں نے اپنے لوگوں کو ممانعت کر دی تھی کہ تصنیف کے کمرہ میں جہاں میں تنہا ہوتا ہوں کسی نوع مراث کے کونہ بھیجا کریں مجھے اپنے نفس پر اعتماد نہیں۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ خانقاہ کے سب لوگ لڑکوں سے پہیز اور احتیاط کرنے لگے۔

اصلاحِ خلق میں حسنِ تدبیر کے چند واقعات

جگر مراد آبادی شاعرِ مرحوم کی شراب سے توبہ کا واقعہ

۳۲: شاعرانہ آزادی کے زمانہ میں مرحوم کو اس بلااء کی عادت پڑ گئی تھی مگر قدرت نے دل میں

بزرگوں کی محبت و عقیدت رکھ دی تھی اسی نے دشمنی کی اور اس دنیا و آخرت کے عذاب سے مکمل نجات حاصل ہوئی۔

واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک روز حضرت حکیم الامۃ قدس سرہ کی مجلس میں میں احقر بھی حاضر تھا۔ ہمارے محترم بزرگ خواجہ عزیز الحسن نے یہ ذکر کیا کہ جگہ راد آبادی سے ایک مرتبہ میری ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ تھانہ بھون جانے اور حضرت کی زیارت کرنے کو بہت دل چاہتا ہے۔ مگر میں اس مصیبت میں بتا ہوں کہ شراب کو نہیں چھوڑ سکتا اس لئے مجبور ہوں کہ کیا منہ لے کر وہاں جاؤں۔

حضرتؒ نے پوچھا کہ پھر آپ نے کیا جواب دیا۔ خواجہ صاحب نے عرض کیا کہ میں نے کہہ دیا کہ ہاں یہ بات تو صحیح ہے ایسی حالت میں بزرگوں کے پاس جانا کیسے مناسب ہو سکتا ہے۔ حضرتؒ نے فرمایا کہ وہ خواجہ صاحب ہم تو سمجھتے تھے کہ اب آپ طریق کو سمجھ گئے ہیں مگر معلوم ہوا کہ ہمارا یہ خیال غلط تھا۔

خواجہ صاحب نے تعجب کے ساتھ سوال کیا کہ حضرت اگر میں یہ جواب نہ دیتا تو پھر کیا کہتا۔ حکیم الامۃ قدس سرہ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیتے کہ جس حال میں ہوا ہی میں چلے جاؤ ممکن ہے کہ یہ زیارت و ملاقات ہی اس بلاء سے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ حضرتؒ در حقیقت حکیم الامۃ اور امراض نفسانی کے حاذق طبیب تھے آپ نے جگہ صاحب کے طرز کلام اپنے فعل پر ندامت اور بزرگوں کی محبت کے داعیہ سے یہ اندازہ لگایا تھا کہ یہ آئیں گے تو ان کی اصلاح ہو جائیگی۔ اسلئے مذکورہ جواب دیا۔

خواجہ صاحب یہاں سے واپس گئے تو پھر اتفاقاً جگہ صاحب سے ملاقات ہوئی اور یہ سارا واقعہ جگہ صاحب کو سنادیا۔ ان کی بدایت و اصلاح کا وقت آگیا تھا۔ حضرتؒ کے یہ کلمات سنتے ہی زار زار و نا شروع کیا اور بالآخر یہ عہد کر لیا کہ اب مر بھی جاؤں تو اس خبیث چیز کے پاس نہ جاؤں گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ شراب کے چھوڑنے سے یہاں پڑ گئے۔ حالت نازک ہو گئی اس وقت لوگوں

نے کہا کہ آپ کی اس حالت میں بقدر ضرورت پینے کی تو شریعت بھی اجازت دے گی۔ آپ خود حضرت حکیم الامۃ سے مسئلہ دریافت کر لیجئے۔

مگر وہ جگروالے آدمی تھے عزم پختہ کر چکے تھے۔ سب کے جواب میں کہا کہ اب تو چھوڑ چکا ہوں۔ اگر میری زندگی مقدر ہے تو ان شاء اللہ اس کو چھوڑ کر ہی زندہ رہوں گا اور اللہ کے نزدیک وقت مقدر آ گیا ہے تو آخر وقت میں اس ناپاک ام الخبات سے اپنے منہ اور زبان کو کیوں ناپاک کروں۔

اللہ تعالیٰ اہل عزم و ہمت کی مدد فرماتے ہیں۔ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی مدد اور قدرت کاملہ سے چند روز کے بعد شفاء کامل حاصل ہوئی۔ اب ظاہر اور باطنی مرض سے شفاء حاصل کرنے کے بعد تھانہ بھون کا قصد کیا جس روز وہ تشریف لائے۔ اتفاقاً احقر اس روز بھی تھانہ بھون میں حاضر تھا۔ حضرت نے بڑے احترام اور محبت کا معاملہ فرمایا۔ اور دیسک معارف و حفائق کا بیان ہوتا رہا جہاں تک مجھے یاد ہے حضرت نے ان سے فرمایا کہ مجھے آپ ایک شعر ہی بہت پسند ہے۔ بار بار پڑھا کرتا ہوں اگر میں کسی شاعر کو شعر پر انعام دیتا تو اس شعر پر آپ کو بہت بڑا انعام دیتا وہ شعر یہ ہے۔

میری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے
قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں انھائے جاتے ہیں

اب یہ یاد نہیں کہ خود جگر صاحب نے درخواست کی کہ میں اپنی کوئی غزل سناؤں یا حاضرین مجلس میں سے کسی نے درخواست کی جس پر حضرت نے اجازت دے دی اس وقت جگر صاحب مرحوم نے اپنی چند غزليس مجلس میں سنائیں، ایک غزل کے تین یہ شعر مجھے یاد رہ گئے۔

| | |
|--|--------------------------------------|
| پھیکی شب مہتاب ہے معلوم نہیں کیوں! | بے کیف مئے ناب ہے معلوم نہیں کیوں! |
| وہ جر عہ بھی زہر آب ہے معلوم نہیں کیوں | ساتی نے دیا تھا جو بصد عرض تمبا |
| کشتی سے تہ آب ہے معلوم نہیں کیوں | دل آج بھی سینے میں دھڑکتا تو ہے لیکن |

یہ پہلی ملاقات کی باتیں تھیں۔ اس کے بعد تو آمد و رفت اور خط و کتابت کا سلسلہ چل پڑا جن میں بعض خطوط غالباً شائع بھی ہو چکے ہیں۔

کانج کے ایک طالب علم کا واقعہ

۳۲: غالباً شملہ کے کسی کانج میں حضرتؐ کا بیان ہوا۔ مخاطب کانج کے لڑکے اور اساتذہ تھے۔ اس بیان میں حضرتؐ جدید تعلیم سے پیدا شدہ شبہات کا ذکر فرمائے تھے جو اسلام کے اصول و فروع کے متعلق اکثر لوگوں کو پیش آتے ہیں حضرتؐ نے فرمایا کہ ان شبہات و اشکالات میں صرف نصاب تعلیم ہی کا قصور نہیں بلکہ اس سب وہ کالجوں کا لاد نی ماحول ہے جس میں ہماری نئی نسل پلتی اور ڈھلتی ہے جسکی وجہ سے قلوب میں اللہ تعالیٰ اور ابکے رسول ﷺ کی عظمت و محبت باقی نہیں رہتی جو ایمان کے لئے ضروری ہے اور یہ عظمت و محبت بزرگوں کی صحبت و مجالست سے نصیب ہو سکتی ہے اور پھر فرمایا کہ بزرگ علماء و صلحاء کی مجالسیں بحمد اللہ ہر جگہ کچھ نہ کچھ قائم ہیں۔ کچھ دن اس ماحول میں رہنے کی عادت ڈالیں اور زیادہ نہیں تو اپنی تعطیلات کا کچھ حصہ ہی اس کام کے لئے خرچ کریں۔ اگر وہ ایسا کر لیں گے تو مجھے امید ہے کہ شبہات کا نتیجہ ہی دلوں میں سے نکل جائے گا اور خود بخود صحیح جواب سمجھ میں آنے لگے گا۔

غالباً اسی مجلس میں ایک صاحب نے یہ سوال کیا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کو انگریزی پڑھنے والوں سے نفرت ہے؟ حضرتؐ نے فرمایا کہ ہرگز نہیں۔ ان لوگوں سے کوئی نفرت نہیں البتہ ان کے بعض اعمال و افعال سے نفرت ہے جو شریعت کے خلاف ہیں۔ یہ صاحب بولے لہ وہ اعمال و افعال کیا ہیں؟ حضرتؐ نے فرمایا کہ مختلف لوگوں کے مختلف اعمال ہیں سب یکساں نہیں۔ یہ صاحب بھی خوب آزاد آدمی تھے کہنے لگے مثلاً مجھے میں کیا ہیں۔ آج کل کے عام وضع طلباء کی طرح ان کی بھی داڑھی صاف تھی۔ حضرتؐ نے فرمایا کہ بعض چیزیں تو ظاہر ہیں مگر جمیں میں اس کا اظہار کرنے سے حیاء مانع ہے اور باقی آپ کے حالات و معاملات مجھے معلوم نہیں جس پر کوئی رائے ظاہر کر سکوں۔

یہ جلسہ ختم ہوا۔ حضرت تھانہ بھوں والپس آگئے۔ پھر اتفاقاً کالج کی تعطیل ہوئی تو ایک طالب علم کا خط آیا (یہ مجھے یاد نہیں کہ یہ وہی طالب علم تھے جنہوں نے سوالات کئے تھے یا کوئی اور) خط میں لکھا تھا کہ ہماری اس وقت تعطیل ہے میں آپ کے بتائے ہوئے طریقہ کے مطابق کچھ دن آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں مگر میری ظاہری صورت بھی شریعت کے مطابق نہیں۔ اور اعمال و افعال میں بھی بہت گڑ بڑ ہے ان حالات میں حاضری کی اجازت ہو تو میں حاضر ہو جاؤں۔ حضرت نے تحریر فرمایا کہ جس حالت میں ہیں چلے آئیں کوئی فکر نہ کریں۔ یہ صاحب آگئے اور عرض کیا کہ مجھے بہت سے شبہات و اشکالات ہیں ان کو حل کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ مناسب ہے مگر اسکی صورت یہ کرنا ہوگی کہ آپ کے جتنے شبہات ہیں ان سب کو لکھ لیں۔ اور آپ مجلس میں بیٹھ کر ہماری باتیں نہیں کوئی سوال نہ کریں۔ جب آپ کی مدت قیام کے تین دن رہ جائیں اس وقت یادداہیں تو میں آپ کو سوالات کرنے کا مستقل وقت دوں گا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جو سوالات آپ اپنے پاس لکھ کر رکھیں گے اگر اس عنصر میں کسی کا جواب سمجھیں میں آجائے تو اس کو کاٹ دیں۔

ان صاحب نے اس طرح تعییل کی۔ رخصت سے تین روز پہلے جب حضرت نے ان کو سوالات کا وقت دیا تو انہوں نے بتایا کہ میرے سوالات کی بہت طویل فہرست تھی مگر دورانِ قیام اور حضرت کی باتیں سنتے سنتے ان میں سے اکثر سوالات کے جوابات خود سمجھیں میں آگئے ان کو کانتا رہا اب صرف چند سوال باقی ہیں۔ اس مجلس میں وہ باقی ماندہ سوالات پیش کئے تو بڑی آسانی سے ان کے جوابات بھی حضرت نے بتا دیئے اور یہ صاحب ہمیشہ کے لئے مطمئن ہو کر تشریف لے گئے۔

ایک دوسرے طالب علم کا ایسا، ہی واقعہ

۳۳: غالباً علی گڑھ کالج کے ایک طالب علم نے حضرت کی خدمت میں خط لکھا کہ میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں مگر میری شکل و صورت اور لباس وغیرہ بھی شریعت کے خلاف ہے اور اعمال

بھی۔ مجھے اجازت دیں تو حاضر ہو جاؤں۔

اس کے جواب میں حضرتؐ نے فرمایا کہ آپؐ کے خط سے معلوم ہوا کہ اعمال کے اعتبار سے آپؐ کا ظاہر خراب ہے اور میں اپنے تجربہ کی بناء پر جانتا ہوں کہ میرا باطن خراب ہے دونوں کے مرض مختلف ہیں۔ اگر ایک طرح کا مرض دونوں کا ہوتا تو مل بیٹھتے۔ اس حالت میں تکلیف کرنا مناسب نہیں۔

یہ دونوں واقعات حضرتؐ نے خود سنائے اور فرمایا کہ پہلے شخص کے خط پر دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ اطمینان پیدا کر دیا کہ ان کو نفع کی توقع نہیں۔ اس لئے روک دیا۔

مگر یہاں یہ بات خاص طور سے قابل نظر اور یاد رکھنے کی ہے کہ روکنے کے لئے جو عنوان حضرت حکیم الامۃ نے اختیار فرمایا اس میں مخاطب کی رعایت بھی ہے کہ ان کی دل شکنی نہ ہو اور ان پر کوئی عیب گیری بھی نہ ہو اور اپنے نفس لی اصلاح بھی کہ اپنی پاکی اور نیکی کا دعویٰ بھی نہ ہو۔ حضرتؐ کے کلام میں اس طرح کی دقيق رعایتیں عموماً ہوتی ہیں جو ہر ایک کے لئے آسان نہیں۔

نیکی کی طرف جو قدم بھی اٹھے نفع سے خالی نہیں

۳۴: ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم نے ان لوگوں کی مدح فرمائی ہے جو آخر شب میں عبادت کے لئے اپنے بسترے چھوڑ دیتے ہیں تجھافی جنوبہم عن المصاجع کا یہی مفہوم ہے اس کے اصلی مصدق اتوہی لوگ ہیں جو بسترے چھوڑ کر وضو، کر کے نمازوں عبادت میں مشغول ہو جائیں۔ لیکن اگر کوئی شخص دینی کمزوری یا استقی کے سبب یہ کچھ نہ کر سکے اور صرف بستر پر ہی انہ کر بیٹھ جائے اور چند منٹ کچھ اللہ کا نام لے لے۔ وہ بھی ان شاء اللہ اس صورت تعمیل کی وجہ سے کچھ نہ کچھ حصہ ان کے ثواب کا پا لے گا۔

دارالعلوم دیوبند کے متعلقین کے لئے حضرت مولا نا محمد یعقوبؒ کی دعاء
۳۵: فرمایا کہ دارالعلوم دیوبند کے قیام کے وقت ایک انگریزی تعلیم کے دلدادہ نے کہا کہ اس مدرسہ سے کیا ہو گا دو چار قل اعوذ یئے اور بڑھ جائیں گے۔

اس پر حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب جو اس وقت دارالعلوم کے شیخ الحدیث اور صدر مدرس اور صاحب کشف و کرامات بزرگ تھے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعاء کی کہ یا اللہ اس مدرسے میں پڑھنے والوں کو معاشی پریشانی پیش نہ آئے۔ پھر فرمایا کہ من جانب اللہ مجھ سے وعدہ ہو گیا ہے کہ اس دارالعلوم سے کسی تعلق رکھنے والے کی آمدنی دس روپیہ ماہوار سے کم نہ ہوگی۔

یہ آج سے تقریباً سو سال پہلے کا واقعہ ہے اس وقت کے دس روپے آج کل کے ڈیزی ہو دوسرے پے کے برابر تھے۔

کسی کو پیچھے سے پکارنا آداب معاشرت کے خلاف ہے

۳۶: فرمایا کہ امام اعظم ابوحنیفؓ نے امام ابو یوسفؓ کو ایک وصیت یہ بھی فرمائی تھی کہ جو شخص تمھیں پیچھے سے پکارے اس کو جواب نہ دو۔ کیونکہ یہ طریقہ جانوروں کو ہکانے کا ہے اس نے تمہارے ساتھ وہ معاملہ کیا جو جانوروں کے ساتھ کیا جاتا ہے اس لئے مستحق جواب نہیں۔

معاشی پریشانی کا علاج آمدنی بڑھانے کے بجائے خرچ کم کرنا ہے

۳۷: فرمایا کہ الہی بخش صاحب رئیس میراث حکیمانہ دامغ رکھتے تھے انہوں نے ایک بڑے کام کی بات فرمائی کہ لوگ معاشی پریشانیوں کو دور کرنے کے لئے اسکی تو بہت فکر کرتے ہیں کہ آمدنی بڑھائیں جو عادۃِ ان کے اختیار میں نہیں۔ مگر اسکی فکر نہیں کرتے کہ خرچ گھٹائیں میں خصوصاً غیر ضروری اخراجات کو بہت کم کریں حالانکہ یہ ہر ایک انسان کے اختیار میں ہے۔

ضابطہ کی پابندی کا ایک عجیب نمونہ

۳۸: ارشاد: فرمایا کہ ریاست بھوپال کے ایک وزیر صاحب ضابطہ کے بڑے پابند تھے۔ اپنی

لُھریلوہ ندگی کی نشست و برخاست، سونے، جاگنے، کھانے پینے غرض ہر چیز کے ضابطے بنائے ہوئے تھے اور ان کی پوری پابندی کرتے تھے۔

ایک مرتبہ ان کو کسی شخص نے خط میں گالیاں لکھ کر بھیج دیں۔ خط کو پڑھا اور اس کی ایک باقاعدہ مسلسل بنا کر اس میں یہ خط رکھا اور خط پر یہ لکھ دیا کہ یہ اس شخص کی ذاتی رائے ہے اس میں برا ماننے کی کوئی بات نہیں ہر شخص اپنی رائے میں آزاد ہے۔

تلاوت میں قواعد تجوید کی رعایت کی حدود

۳۹: ارشاد فرمایا کہ حضرت قاری عبدالرحمٰن صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی شخص تلاوت قرآن صرف قواعد تجوید اور صفات ہی کی رعایت کر کے پڑھے کسی خاص لہجہ کو اختیار نہ کرے تو کبھی اچھا نہیں پڑھا جائے گا۔

پھر فرمایا کہ علماء نے آداب تلاوت میں یہ بھی لکھا ہے کہ جہاں کسی کافر کا قول نقل کیا جائے تو آواز کو کچھ پست کر دینا مناسب ہے۔

اصطلاحات فنون کی تسهیل کا ارادہ

۴۰: ارشاد فرمایا کہ میرے دل چاہتا ہے کہ تمام علوم و فنون کی خاص اصطلاحات کو نہایت آسان کر کے اردو میں لکھ دیا جائے جس سے ایک عام آدمی کبھی اصطلاحات کو سمجھنے لگے۔

انبیاء علیہم السلام سے زلات کا صدور عین رحمت و حکمت ہے

۴۱: حق تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو جو مقام بلند اپنے قرب کا عطا فرمایا ہے اور ان کو تمام گناہوں سے معصوم بنایا ہے جس طرح یہ ان کی رحمت و نعمت ہے اسی طرح کبھی کبھی انبیاء علیہم السلام سے بعض معاملات میں زلت (لغش) ہونے کے جو واقعات قرآن کریم میں مذکور ہیں وہ بھی عین حکمت و رحمت ہیں۔ ان میں ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کو انبیاء کی خدائی کا وہم و شبہ نہ ہونے لگے زلات کے صدور اور ان پر حق تعالیٰ کی طرف سے تنبیہات یہ واضح کر دیتی ہیں کہ

حضرات انبیاء علیہم السلام بھی اللہ تعالیٰ کے بندے ہی ہیں۔

حضرت حاجی امداد اللہ صاحب قدس سرہ فرمایا کرتے تھے کہ انبیاء علیہم السلام کی ہر حال میں ترقی ہی ہوتی رہتی ہے جن چیزوں کو زلات کہا جاتا ہے انعام کاران کے حق میں وہ بھی ترقی کا ذریعہ بن جاتی ہیں کہ وہ ان پر مرتبہ ہو کر گریہ وزاری اور استغفار کرتے ہیں۔

سفر حج کے لئے شرائط و آداب

۳۲: ایک صاحب حج کا ارادہ رکھتے تھے حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی کی خدمت میں اجازت لینے کے لئے حاضر ہوئے مولانا کو ان کی بے سروسامانی معلوم تھی فرمایا جہاں جاتے ہو اس کوچ کی شرائط بھی جانتے ہو کیا ہیں اس صاحب نے بیساختہ یہ اشعار پڑھ دیئے۔

اے دل آن بہ کہ خراب از می گلگلوں باشی بے ز رو گنج بصد حشمت قارون باشی
در رہ منزل لیے خطر ہاست بجان شرط اول قدم آن ست کہ مجنون باشی
یہ صوفیانہ رنگ کا جواب تھا جس کا طبعی اثر تو مولانا پڑھی یہ ہوا کہ ایک چیخ نکل گئی۔ مگر پھر شیخ
کامل تھے سنبھل کر فرمایا کہ شرعی شرائط کے مقابلہ میں سب یقیح ہے۔

درحقیقت طریقت و تصوف کو بھی انہیں حضرات نے پورا سمجھا تھا احوال و مواجهیہ اپنی جگہ مگر سب پر شرعی حدود کا پہرہ لگا ہوا۔

حضرت حاجی صاحب قدس سرہ کا ایک ملفوظ

۳۳: فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے حضرت حاجی امداد اللہ قدس سرہ کی خدمت میں کوئی ہدیہ پیش کیا حضرت نے قبول فرمایا اور لیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہدیہ شاہدِ محبت ہے (یہ تو ان کی دلداری کی بات تھی مگر یہ سن کر شاید ان لوگوں کو افسوس ہوتا جو ہدیہ پیش کرنے کی حیثیت میں نہیں ہیں اس لئے معا) فرمایا کہ جو ہدیہ نہ دے وہ بھی ایک معنی رکھتا ہے کہ جب مدعا واضح ہو تو شاہد کی حاجت نہیں۔

حضرت مولانا محمد قاسم نانو توی ریاست راپور میں

۲۳: فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت نانو تویؒ کسی دینی ضرورت سے ریاست راپور تشریف لے گئے تھے نواب صاحب کو اطلاع ملی تو اپنے یہاں آنے کی درخواست کی۔ مولانا نے یہ کہلا بھیجا کہ میں دیہاتی آدمی ہوں امراء کے آداب سے واقف نہیں۔ اس لئے طرفین کے واسطے بے لطفی رہے گی۔

جنت تابع کرنے کا عمل

۲۴: فرمایا کہ میں نے ایک مرتبہ حضرتؐ سے (قلمی مسودہ میں اس جگہ کسی بزرگ کا نام نہیں لکھا معلوم نہیں کہ حضرت حاجی صاحبؒ مراد ہیں یا مولانا محمد یعقوب صاحبؒ) جنت تابع کرنے کا عمل پوچھا تو فرمایا کہ میرے پاس ایسے عمل ہیں اور بہت آسان بھی ہیں۔ آپ کرو گے تو ہو بھی جائیں گے۔ مگر ایک بات سن لو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بندہ بننے کے لئے پیدا کیا ہے خدا بننے کے لئے نہیں کہ دوسری مخلوق کو اپنے تابع کرتے پھر وہ حضرتؐ نے فرمایا کہ مجھے اسی وقت ایسے عملیات سے نفرت ہو گئی۔

جہر آمین اور رفع یہ دین کے مسئلہ میں حضرت شاہ عبدالقادرؒ اور شاہ اسماعیلؒ کا

مکالمہ، احیاء سنت کی صحیح تفسیر

۲۵: فرمایا کہ حضرت مولانا محمد اسماعیل شہید دہلویؒ نے بعض خفیوں کے غلوکوڈ کیکھ کر خود جہر آمین اور رفع یہ دین شروع کر دیا۔ حضرت شاہ عبدالقادرؒ نے ان سے فرمایا کہ جہر آمین اور رفع یہ دین بلاشبہ سنت سے ثابت ہیں اور بہت سے ائمہ مجتہدین کا اس پر عمل ہے۔ اگر اس پر کوئی عمل کرے تو فی نفس کوئی مضاائقہ نہیں لیکن جو اس سب لوگ خفی ہیں وہاں اس عمل سے لوگوں کو خواہ مخواہ تشویش ہوتی ہے جس سے بچنا بہتر ہے۔ مولانا محمد اسماعیل شہیدؒ نے عرض کیا کہ حضرت حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص کسی مردہ سنت کو زندہ کرتا ہے اس کو سو شہیدوں کا ثواب ملتا ہے اس جگہ یہ سنت مردہ

ہو رہی ہے اس لئے میں اس کو زندہ کرتا ہوں۔

حضرت شاہ عبدالقدارؒ نے فرمایا کہ میاں اسماعیل ہم تو سمجھتے تھے کہ تم بڑے فاضل عالم ہو گئے ہو کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے کہ سنت کا مردہ ہونا وہاں صادق آتا ہے جہاں سنت کے خلاف کسی بدعت نے جگہ لے لی ہو۔ اور جہاں ایک سنت کے مقابلہ میں دوسری سنت ہو اور انہم مجتہدین میں اختلاف ہو کوئی اس سنت کو ترجیح دے کر اس پر عمل کرتا ہے کوئی اس کے مقابلہ دوسری سنت کو ترجیح دے کر اس پر عمل کرتا ہے وہاں دونوں طرف سنت ہی سنت ہے کوئی بدعت نہیں اس لئے سنت مردہ نہیں تو پھر احیاء سنت کا اس موقع پر اطلاق کیسے صحیح ہو گا۔

کیونکہ جس طرح سنت سے جہر آمین اور رفع یہ دین ثابت ہے اسی طرح اخفاء آمین اور ترک رفع یہ دین بھی سنت ہی سے ثابت ہیں۔ دونوں میں راجح و مرجوح کا فرق آئندہ مجتہدین کا کام ہے ان میں سے کچھ آئندہ نے جہر اور رفع کو ترجیح دے دی کچھ آئندہ نے ترک جہر اور رفع راجح قرار دیا۔ یہاں دونوں طرف میں کوئی بھی بدعت نہیں جس سے سنت مردہ ہو۔ (انٹی بمفہومہ)

احقر جامع کہتا ہے کہ انہم اربعہ کے متفق علیہ اصول سے یہ ثابت ہے کہ جس مسئلے میں اجتہاد کی گنجائش ہو اور انہم مجتہدین انہی اپنی اپنی صواب دید کے مطابق اس کی کوئی خاص صورت تجویز کر کے عمل کریں تو ان میں کوئی جانب منکر نہیں ہوتی دونوں جانبین معروف ہی فرد ہوتی ہیں اس لئے وہاں امر بالمعروف اور نبی عن المنکر کا خطاب بھی متوجہ نہیں ہوتا۔ اور اپنے مسلک مختار کے مخالف عمل کرنے والوں پر تارک سنت ہونے کا الزام لگانا یا ان کو فاسق کہنا کسی کے نزد یک جائز نہیں۔

امام حدیث حافظ ابن عبد البر مالکی (حالات حافظ ابن عبد البر: حافظ الامغر ب ابن عبد البر) بہت بڑے محدث اور فقیرہ قبیع سنت عابد زادہ اور شب خیز تھے۔ مالکی المذہب تھے، علوم الحدیث، اسماء الرجال اور القراءات میں بہت باکمان تھے، بعد کے آنے والے مشائخ نے آپ کے علم کا لوہا مانتا ہے اور آپ کی تالیفات سے استفادہ کیا ہے آپ کی کتابیں معروف و مشہور ہیں اور بہت زیادہ مفید ہیں۔ جن میں سب سے زیادہ ضخیم موطاً امام مالکؓ کی شرح کتاب التمهید ہے جو ستر جلدیں پر

مشتمل ہے اسکے بعد اس شرح کو مختصر کیا اور اس کا نام الاستند کار رکھا، حالاتِ صحابہ پر الاستیعاب لعرفتہ الاصحاب لکھی ہے یہ بھی کافی خنیم ہے مالکی مذہب پر کتاب الکافی لکھی جو پندرہ جلدیوں پر مشتمل تھی آپ کی ایک کتاب کتاب الانقاۃ اور دوسری جامع بیان العلم وفضلہ زیادہ مشہور ہیں ان کے علاوہ اور بھی بہت سی تالیفات ہیں۔ آپ کا نام یوسف اور کنیت ابو عمر تھی، ربع الآخر یا جمادی الاولی ۳۶۸ھ میں پیدا ہوئے آپ کا وطن قرطبه تھا جو اپنے کا مشہور شہر ہے کسی زمانہ میں یورپ میں جب مسلمانوں کی حکومت تھی اپنے کے علاقے میں بڑے بڑے اکابر علماء پیدا ہوئے، خصوصاً قرطبه اور شاطیبہ میں تو بہت ہی باکمال حضرات پیدا ہوئے۔ علامہ ابن عبد البر کو جلاوطن کر دیا گیا تھا پچھلے عرصہ تک شرق اندرس میں قیام فرمایا۔ شب جمعہ ربيع الآخر ۳۶۳ھ میں وفات پائی۔ یہ ربع الآخر کی آخری تاریخ تھی۔ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب جامع العلم میں اس کے متعلق جو مضمون نقل فرمایا ہے وہ اہل علم کو ہمیشہ مستحضر اور صفحہ قلب پر نقش رکھنا ضروری ہے تاکہ ان مفاسد سے بچ سکیں جن میں آج کل کے بہت سے علماء متلا ہیں کہ ابتداء دی مسائل میں اختلاف کی بناء پر ایک دوسرے کی تفسیق و تکفیر تک پہنچ جاتے ہیں اور اکابر علماء کی شان میں بے ادبی کے مرتكب ہو جاتے ہیں جس کے نتیجے میں دیندار مسلمان آپس میں مگراتے ہیں اور پھر خدا جانے کتنے صغیرہ کبیرہ گناہوں میں بتا ہوتے ہیں۔

خاص رشتہ داروں کو بیعت کرنا عام حالات میں خلافِ مصلحت ہے
 ۲۷: ارشاد فرمایا کہ میں اپنے خاص اقرباء کو عموماً بیعت نہیں کرتا جس پر مجھے حضرت مولانا شیخ محمد صاحب تھانوی کے ایک واقعہ سے تذکرہ ہوا۔ کشمی امیر احمد نے (جو مولانا کے غزیز تھے) حضرت مولانا سے بیعت کی درخواست کی تو مولانا نے فرمایا کہ تمھارا مجھ سے بیعت ہونا مناسب نہیں رشتہ داری کے قصور میں تمھیں تنگی پیش آؤے گی۔ اگر میری مخالفت کرو گے تو دینی ضرر میں بتا ہو گے اور موافقت کرو گے تو دینیاوی پر یثاثی لاحق ہو گی۔

تفویض و توکل کا صحیح مفہوم جو بہت سے شبہات کا حل ہے

۳۸: ارشاد فرمایا کہ دعاء میں الحاج کرنا اور بار بار دعاء کرتے رہنا یہ تفویض کے منافی نہیں۔ ہاں قبولیت دعاء کے آثار نظر نہ آنے پر پریشان ہونا منافی تفویض ہے کیونکہ وہ اپنی تجویز سے پیدا ہوتی ہے اور تجویز و تفویض میں تضاد ہے۔ علمی اور عملی کمالات دینی میں بھی تفویض کا ایک درجہ یہ ہیں ان کے حاصل کرنے کا بھی قصد کرے اور کوشش بھی کرے مگر اس کیسا تھوڑا عدم حصول پر بھی راضی رہے پریشان نہ ہو۔ (انٹی)

احقر جامع کہتا ہے کہ حدیث میں ایک خاص دعاء جو بالفاظ ذیل آئی ہے اس میں بھی اس طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے کہ حدیث کی دعاء یہ ہے:-

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الصِّحَّةَ وَالْعَفْفَةَ
يَا اللَّهُمَّ إِنَّمَا أَنْذِلْتَ عَلَيَّ مِنْ كُلِّ
وَالْأَمْمَةِ مَا لَمْ يَرَهُ أَنْفُسُهُمْ
وَالْأَمْمَةُ وَحْسَنَ الْخَلْقَ وَالرَّضْيَ بِالْقَدْرِ
بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
آپ کی تقدیر پر راضی رہنا۔

اس دعاء میں پہلے تو چند دینی کمالات کے حاصل ہونے کی دعاء ہے آخر میں یہ دعا ہے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی مشیت و تقدیر پر راضی رہوں خواہ وہ میری تمنا اور کوشش کے خلاف ہی ہو۔

اسی لئے حضرتؐ نے آخر کلام میں ارشاد فرمایا کہ یہ طریق (یعنی طریق تصوف) ہل ممتنع ہے کہ دیکھنے میں بڑا کہل ہے مگر حقیقت میں بڑا شوار کہ متناہی چیزوں کو جمع کرنا پڑتا ہے۔

عبادت میں جی لگانا مطلوب ہے جی لگنا چونکہ اختیاری نہیں اس کا حکم بھی نہیں
۳۹: ارشاد فرمایا کہ حضرت گنگوہی قدس سرہ فرمایا کرتے تھے کہ عبادت کے اندر جو وساوس اور خیالات انسان کو آتے ہیں ان کے دفع کرنے میں زیادہ تندی سے پرہیز کرنا چاہیے کہ وہ مضر ہوتی ہیں۔ اور فرمایا کہ یہ سوچنا چاہیئے کہ مقصود اللہ تعالیٰ کا راضی کرنا ہے اور وہ اپنے حد اختیارتک قلب کو فارغ کر کے عبادت میں لگ جانے سے حاصل ہو جاتا ہے۔ پھر بھی جو وساوس اور خیالات غیر اختیاری طور پر آتے ہیں وہ مضر نہیں۔ اس لیے زیادہ انجھن میں نہ پڑے۔ اور اس کے باوجود

وساوس و خیالات کے آنے پر جو طبعی رنج اس کو پیش آوے گا وہ مجاہدہ ہے اس پر مجاہدہ کا ثواب ملتا ہے۔ اس لئے میرے خیال میں عبادت مع الوساوس پر اجر و ثواب زیادہ ملتا ہے ایک عبادت کا ثواب دوسرا مجاہدہ کا۔ (شرطیہ اپنے اختیار سے وساوس کی پرورش نہ کرے اور ان میں خوض نہ کرے)۔

ہر وقت حضور حق کامل طور پر توبہ کے بڑوں کو نصیب نہیں ہوتا اور جب اس حضور میں کوئی سالک کی محسوس کرتا ہے تو طبعی طور نج شدید ہوتا ہے وہ بھی حکمت سے خالی نہیں۔ کہ اس میں صبر و تحمل کا ثواب ملتا ہے۔

حافظ شیرازی نے خوب فرمایا۔

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| با غبان گر چند روزہ صحبتِ گل بایدش | بر جهانی خارہ جران صبر بلبل بایدش |
| ای دل اندر بندز لفشن انز پریشانی منال | مرغ زیر چون بد ام افتخل بایدش |

خلاصہ یہ ہے کہ نماز و عبادت میں وساوس و خیالات سے نجات اور حضور قلب کی سعی اپنے اختیار کی حد تک ضروری ہے مگر پھر بھی اس میں کمی رہے تو پھر تفویض کے سوا کوئی چارہ نہیں۔

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| گر گریزی بامید راتے | ہم ازان جا پیشت آید آفته |
| یق کنجے بے وڈوبے دام نیست | جز خلوت گاہ حق آرام نیست |

اموال میں حقوق کی رعایت کا شدید اہتمام

۵۰: ارشاد فرمایا کہ میں مدرسہ اور مسجد کی املاک کو تو الگ الگ رکھنے کی فکر کرتا ہی ہوں جو بہت ضروری ہے۔ اسی لئے مسجد کے پنکھوں پر نشان ڈال دیئے ہیں ان کو اٹھا کر کوئی میرے بیٹھنے کی سہ دری میں یا اپنی جائے قیام میں لے جا کر استعمال نہ کرے۔ اپنی خاص ملکیت اور اپنی ازواج (بیویوں) کی ملکیت کو بھی الگ الگ رکھتا ہوں۔ جب کسی گھر میں کوئی چیز دیتا ہوں تو یہ بتا ہی دیتا ہوں کہ یہ تمہاری ملک یا میری ملک ہے۔ پھر فرمایا خلاصہ یہ ہے کہ بے فکر ہو کر زندگی نہیں گزارنا چاہیے۔ معلوم نہیں کس وقت موت آجائے اور حقوق مشترک رہ جائیں۔

احقر جامع کہتا ہے کہ اسی کا یہ اثر تھا کہ وفات کے بعد کسی ایک چیز میں بھی یہ اشتباه پیش نہیں آیا کہ یہ حضرت کی ملکیت ہے یا گھر میں سے کسی کی۔ ایک ایک چیز لکھی ہر ٹی خنی۔

فرمایا کہ تقسیم میراث میں بہت سے اہل علم و صلاح بھی غلطیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔

تقسیم میراث سے پہلے مشترک مال میں سے ایصالِ ثواب کے نام پر بغیر اجازت سب ورثاء کے خرچ کر دیتے ہیں اور تبرکات کے نام پر کچھ اشیاء تقسیم کر دیتے ہیں جس میں دوسرے وارثوں کی حق تلفی ہو کر سب کام حرام ہو جاتا ہے۔

اور فرمایا کہ خصوصاً نابالغ بچوں کے حقوق کی حفاظت انتہائی ضروری ہے اس میں اکثر لوگ غفلت کرتے ہیں یہ بھی یاد رہے کہ نابالغ کی کوئی چیز اسکی اجازت سے بھی دوسرے کے لئے حلال نہیں ہوتی۔

کسی کے ذمہ نابالغ کا کوئی حق ہو تو کسی طرح ادا کرے

(۵۱) فرمایا کہ اگر کسی شخص کے ذمہ نابالغ کا کوئی حق واجب ہو تو اس کے ادا کرنے کی آہل صورت یہ ہے کہ اس کو کوئی ایسی چیز بناؤ کر دے جو خاص اسی کے استعمال میں آئے جیسے کپڑا، جو تہ وغیرہ۔

نابالغ کی ملکیت میں ماں باپ کو بھی یہ اختیار نہیں کہ دوسرے کو دے دیں

(۵۲) بچوں کے لئے جو جوتے کپڑے عام گھروں میں بنائے جاتے ہیں ان میں احتیاطاً ایسا کرنا چاہیے کہ ان کو بچوں کی ملک نہ بنائیں اپنی ہی ملکیت میں رکھیں تا کہ ایک بچہ کے بدن پر کپڑا چھوٹا ہو جائے تو وہ دوسرے بچے کو پہننا سکیں اور اگر کپڑا بچے کی ملک کر دیا گیا ہے تو پھر باپ کے لئے بھی یہ جائز نہیں کہ یہ کپڑا کسی دوسرے بچے کو پہنادے۔

ترجمہ قرآن میں محاورہ اور اردو ادب کی زیادہ رعایت کرنا کلام اللہ کی شان کے خلاف ہے

(۵۳) ڈپٹی نذر احمد صاحب دہلوی کے ترجمہ قرآن کا ذکر آیا تو فرمایا کہ اس میں جوزبان

استعمال کی گئی ہے اسے اردو ادیب چاہے پسند کرتے ہوں مگر شاہانہ کلام سے بالکل بعید ہے۔

ایک مکالمہ

(۵۴) ایک شخص نے حضرت سے پوچھا کہ نماز میں پانچ کیوں فرض کی گئیں؟

حضرت نے جواب دیا کہ آپ کی ناک منہ پر کیوں لگی کمر پر کیوں نہیں لگی۔ وہ کہنے لگے کہ کمر پر لگتی تو بد صورت معلوم ہوتی۔

حضرت نے فرمایا کہ سب انسانوں کی ناک کمر ہی پر ہوا کرتی تو کیا ہوتا۔ وہ خاموش ہو گے۔ (انٹی)

احقر جامع کہتا ہے کہ حضرت نے بار بار فرمایا کہ احکام شرعیہ کی حکمتیں بہت سی معلوم بھی ہیں اور کوشش کرنے سے مزید معلوم بھی ہو سکتی ہیں چنانچہ خود حضرت کی مستقل کتاب اس موضوع پر ”المصالح العقلیہ فی الاحکام التقیدی“ کے نام سے شائع شدہ موجود ہے۔ مگر فرمایا کہ بندہ کے لئے شایان نہیں کہ یہ احکام الحاکمین کے احکام کی لم اور حکمت کی تلاش میں رہے کیوں کہ اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ حکم کی حکمت نہ معلوم ہو سکی تو اس پر عمل کرنا دو بھر ہو جاتا ہے بندہ کا کام بندگی اور تعییل حکم ہے اور جتنا زیادہ کوئی شخص تعییل حکم کی کوشش کرتا ہے اتنا زیادہ اس پر احکام شرعیہ کی حکمتیں کھلتی جاتی ہیں۔ ایک مرتبہ ایسے ہی ایک سوال کے جواب میں کہ اس کی حکمت ہمیں معلوم تو ہے مگر اس کا بتانا تمہارے لئے مضر ہے کہ تھیس یہی علت لگ جائے گی کہ ہر حکم شرعی کی مصلحت و حکمت کی تحقیق کرتے پھر اور جو اصل اتباع کا حکم ہے وہ پورا نہ ہو اور فرمایا۔

مصلحت نیست کہ از پرده بردن افتد راز ورنہ در مجلس رندان خبرے نیست کہ نیست

خواجہ عزیز الحسن مجذوب

(۵۵) ارشاد فرمایا کہ خواجہ عزیز الحسن صاحب بڑے بڑے سرکاری عہدوں پر رہے مگر اپنا لباس اور وضع قطع ہمیشہ سادہ اور شریعت کے مطابق رکھی۔ ایک جرمی عیسائی نیان کو دور سے دیکھتے ہی کہا کہ یہ آدمی بہت شریف معلوم ہوتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ ان کی نقاہی کرتے

ہیں کہ ان کی نظر میں بھی یہ لوگ شرافت کے خلاف کام کرتے ہیں۔ اور بالکل صحیح ہے جو اپنی قومی غیرت و حمیت نہ رکھے، دوسروں کی نقلی ہی کو فخر و سعادت سمجھئے۔

اشغال مجوزہ صوفیہ اور ذکر جہرنی

(۵۶) فرمایا کہ جب میں مکہ معظمہ میں حضرت حاجی صاحب قدس سرہ کی خدمت میں مقیم تھا تو خیال ہوا کہ غذائے روح میں حضرت نے جتنے اشغال نقل فرمائے ہیں سب کو دودو دن کر کے دیکھوں مگر اس پر عمل کرنے سے پہلے حضرت سے اجازت چاہی تو حضرت نے فرمایا کہ یہ کوئی کتاب کا سبق تھوا ہی ہے کہ سب کو پڑھتے چلے جاؤ یہ تو عطار کی دکان ہے جس میں ہزاروں دوائیں ہیں ہر دوا ہر مرض کے لئے مفید نہیں ہوتی کہ جس کا جی چاہے جو دوا چاہے اس دوائی سے لے کر کھائے۔

پھر فرمایا کہ صوفیائے کرام نے جو اشغال لکھے ہیں ان کی اصل صرف اتنی ہے کہ ان کے ذریعہ جمیعت خاطر حاصل ہو جائے۔ وساوس و خیالات سے قلب فارغ ہو جائے۔ ان اشغال کی جزئیات تو سنت سے ثابت نہیں۔ مگر اس کی اصل سنت سے ثابت ہے۔ نماز میں جونمازی کے سامنے سترہ کھڑا کرنے کا حکم ہے اس کا مقصد بھی جمیعت خاطر ہے۔

ان اشغال کو اگر کوئی شخص طاعت مقصود سمجھ بیٹھنے تو وہ بدعت ہو جائیں گے۔ جیسے زکام بخار وغیرہ میں گل بنقشہ پینا اگر کوئی اس کو طاعت مقصودہ سمجھنے لگے تو وہ بھی بدعت ہو جائے گا۔ ایک تدبیر صحبت سمجھ کر استعمال کرے تو جائز ہے کیونکہ تحصیل صحبت جائز بلکہ مامور ہے اسی طرح ان اشغال کو جمیعت خاطر کی تحصیل کا ذریعہ سمجھ کر کرے تو درست ہے۔ عبادت مقصودہ سمجھ کر کرے تو بدعت ہے۔ یہی حکم ذکر اللہ میں جبرا کرنے کا ہے کہ جبرا کو دفع وساوس اور جمیعت خاطر کی تدبیر سمجھ کر کرے تو درست ہے خود جبرا کو طاعت مقصودہ سمجھنے تو بدعت ہے۔

قبول بدیہی کے متعلق امام غزالی کی تحقیق پر اشکال اور جواب

(۵۷) حضرت امام غزالی نے فرمایا کہ جو شخص کسی کو بدیہی اس نیت سے دے کہ یہ شخص صالح

اور بزرگ ہے اور واقع میں وہ ایسا نہ ہو تو ہدیہ قبول کرنا اس کے لئے جائز نہیں اس پر مولا نا رشید احمد صاحب کانپوری نے جو حضرتؐ کے شاگرد تھے یہ سوال کیا کہ اس کا نتیجہ تو یہ ہے کہ ہدیہ کا لینا اور دینا کسی حال بھی جائز نہ ہو کیونکہ جس شخص کو صالح اور بزرگ سمجھ کر ہدیہ دیا جا رہا ہے اگر وہ خود بھی اپنا معتقد ہو، اور اپنے کو بزرگ صالح سمجھتا ہو تو یہ تزکیہ نفس ہے جو نص قرآن

اپنے انفوس کو عیوب سے پاک نہ کہو۔
ولا تزکیہ نفس کو افسکم

کے خلاف ہونے کی وجہ سے گناہ ہے اور اگر وہ اپنے آپ کو صالح اور بزرگ نہیں سمجھتا تو امام غزالیؒ کی تحقیق پر اسکو ہدیہ قبول کرنا جائز نہیں۔

حضرتؐ نے جواب دیا کہ امام غزالیؒ کی مراد یہ ہے کہ جو شخص قصد کر کے لوگوں کو اپنی بزرگی اور نیکی کا معتقد اس لئے بنائے کہ وہ اس کو ہدیہ دیں گے یہ حرام ہے کیونکہ وہ ایک فحش کا فریب ہے لیکن بغیر کسی کوشش اور قصد کے لوگ کسی کے معتقد ہو جاویں اور اس کو نیک بزرگ سمجھ کر ہدیہ پیش کریں وہ اپنے دل میں جانتا ہے کہ میں ایسا نہیں۔ تو ایسی حالت میں قبول ہدیہ منوع نہیں۔

(جمادی الثانیہ ۱۳۵۸ھ)

حضرت مولانا محمد یعقوبؒ

(۵۸) اول عمر سے عفیف اور متقدی تھے۔ شہرت اور امتیاز سے سخت نفرت تھی۔ فرمایا کرتے تھے کہ دو حرف علم کی وجہ سے شہرت کی بلاء میں بستلا ہو گیا ورنہ میں تو کسی اور ہی طرح گمنامی کی زندگی گزارتا۔

علامہ شبیلی نعمانی کا قول کہ قوم کی اصلاح صرف مقدس اور بزرگ ہستیوں سے ہو سکتی ہے

(۵۹) ارشاد فرمایا کہ مولا نا عبد اللہ سندھیؒ نے جب دہلی میں نظارة المعارف قائم فرمایا تو تھا نہ بھون آئے تھے انہوں نے فرمایا کہ میں علامہ شبیلی نعمانی سے ملا، تو مسلمانوں کی عام بے

راہروی اور پریشانی اور بتائے آفات ہونے کا تذکرہ ہوا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی نظر میں قوم کی اصلاح کی تدبیر کیا ہے علامہ شبیلی نے کہا قوم کی اصلاح صرف وہ لوگ کر سکتے ہیں جن کا قوم پر مکمل اثر ہو اور یہ اثر بغیر تقدس کے نہیں ہو سکتا اور تقدس بغیر تقویٰ اور کثرت عبادت و ذکر اللہ۔ کے حاصل نہیں ہو سکتا۔

مہمان کافر کا اکرام اور دینی مضرت سے احتیاط

(۶۰) ارشاد فرمایا کہ اگر مسٹر گاندھی بھی میرے پاس آئیں تو میں ان کا بھی اکرام کروں گا مگر ایک شرط ضرور لگاؤں گا کہ اپنے خیالات کی تبلیغ کرنے کا یہاں موقع نہ دیا جائے گا۔

سیاسی تدبیر جو خلاف شرع ہوں مسلمانوں کے لئے مفید نہیں ہوتیں کفار کے لئے مفید ہوں تو اس سے دھوکہ نہ کھائیں

(۶۱) ارشاد فرمایا کہ سیاسی تدبیر جو کفر و اسلام سے مرکب ہوں جب اسکو کفار اختیار کرتے ہیں تو اسلام سے قریب ہوتے ہیں اس لئے کامیاب ہوتے ہیں اور جب مسلمان ان تدبیر کو اختیار کریں تو کفر سے قریب ہوتے ہیں اس لئے ناکام ہوتے ہیں مسلمان قوم کا ایک خاص مزاج ہے اس کو کفار کی اقوام کے مزاج پر قیاس کرنا ایسا ہی غلط ہے جیسا ایک ”بوجھ بھکڑو کا قیاس“ مشہور ہے کہ

گاؤں کا ایک آدمی کھجور کے درخت پر چڑھ گیا اور اب وہاں سے اترنا چاہا تو گرنے کا خطرہ ہوا۔ شور مچایا کہ لوگوں میری جان بچاؤ۔ کسی طرح یہاں سے اتارو۔ لوگ جمع ہو کر اپنے بوجھ بھکڑو کے پاس گئے اور تدبیر پوچھی اس نے کہا کہ ایک مضبوط لمبارتا لو اور درخت کے اوپر پھینک دو۔ اس شخص سے کہو کہ اپنی کمر میں باندھ لے پھر تم سب مل کر جھٹکا دو وہ نیچے آ جاوے گا۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہاں سب عقلمند ہی لوگ جمع تھے۔ اس کے کہنے پر پورا عمل کیا۔ کھجور پر چڑھا ہوا انسان ایک منٹ میں نیچے آ رہا مگر ہڈی پسلی کوئی سالم نہ رہی اور دم توڑ دیا۔ یہ لوگ اپنے مرشد بوجھ بھکڑو کے

پاس دوڑے کہ وہ تو مر گیا۔ بوجھ بھکڑا صاحب نے فرمایا کہ میں اس کو کیا کروں اس کی موت آگئی تھی اسے کون بچا سکتا تھا۔ ورنہ میری تدبیر تو بالکل سلامتی کی یقینی تھی میں نے اسی تدبیر سے بہت سے کنویں میں گرے ہوئے لوگوں پر استعمال کر کے ان کی جان بچائی ہے۔

بوجھ بھکڑا نے کنویں کی گہرائی پر بھجور کی بلندی کو قیاس کر لیا اور اس غلط قیاس کا نتیجہ سامنے آ گیا۔

اسی طرح مسلمان اللہ کے نزدیک بلندی پر ہیں کفار پستی میں ہیں۔ ان دونوں کی نجات کے لئے ایک ہی تدبیر مفید ہو ناضر و ری نہیں۔

نظم و انتظام ہر چیز میں مطلوب و محمود ہے

(۶۲) فرمایا کہ ہمارے ماموں صاحب درویش آدمی تھے مگر آزاد منش۔ اس لئے بہت سی چیزوں میں مجھے ان سے اختلاف رہتا تھا۔ وہ آیات و روایات سے اپنی فہم کے مطابق استدلال کیا کرتے تھے جو میرے نزدیک قواعد شرعیہ پر منطبق نہیں تھے۔ مگر ان کا ایک اعتدال مجھے پسند آیا۔ انہوں نے فرمایا کہ قرآن کریم میں حضرت داؤد علیہ السلام کو لوہے کی زرہ (جنگ کے لئے لوہے کا لباس) بنانے کا طریقہ سکھلا لیا گیا تو اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قدر فی السرد۔ یعنی زرہ کی آہنی کڑیاں ایک انداز کی ہونی چاہیں۔

کیونکہ یہ کڑیاں اگر چھوٹی بڑی ہو جائیں تو گو جنگی مقصد میں اس سے کوئی فرق نہیں آتا مگر فطری نظم کے خلاف ہے اور زرہ کا حسن اس سے مخلٰ ہو جاتا ہے۔

کسی بزرگ پر اعتقاد کا معیار

(۶۳) ارشاد فرمایا کہ میں جو اپنے بزرگوں کا معتقد ہوں اس کی بناء نہیں کہ ان کو سب سے بڑا عالم سمجھتا ہوں کیونکہ میرے نزدیک یہ احتمال موجود ہے کہ دنیا میں ان سے بھی بڑے علماء موجود ہوں۔

بلکہ میرے اعتقاد کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ والے تھے۔ دنیادار نہ تھے دنیا میں رہے

مگر ان کو دنیا کی ہوانہ لگی تھی۔ دنیا کے جاہ و مال کی خواہش سے بالکل الگ تھلگ تھے ان کا جو کام تھا وہ دینی داعیہ اور دینی تقاضا تھا خواہ اس میں اپنی تمام ذاتی مصالح بر باد ہو جاویں۔
(۲۸ ربیع الثانی ۱۴۵۹ھ)

ایک آیت کی تفسیر سے شبہ کا ازالہ

(۶۳) ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم میں آیت:-

لَمْ تَقُولُواْنِ مَا لَا تَفْعَلُونَ۔
یعنی "کیوں کہتے ہو وہ جو خود نہیں کرتے"۔
اس کے ظاہر سے بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ جو شخص خود کوئی نیک عمل نہیں کر رہا اس کے لئے جائز نہیں کہ وہ دوسروں کو اس شکل کی طرف دعوت دے حالانکہ تبریحات یہ غلط ہے۔ اس غلط فہمی کی اصل وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے اس کو دعوت پر مholm کر لیا حالانکہ یہ آیت دعوت کے متعلق نہیں بلکہ دعویٰ کے متعلق ہے اور مراد یہ ہے کہ جو وصف تم میں موجود نہیں اس کا دعویٰ کیوں کرتے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ جو کام تم نے کیا نہیں یا جو وصف تم میں موجود نہیں اس کا دعویٰ نہ کرو۔

دعویٰ کبھی عملی بھی ہوتا ہے

(۶۵) فرمایا کہ جس طرح قول اکسی ایسے کام یا ایسے وصف کا دعویٰ جائز نہیں جو مدعی میں موجود نہ ہو۔ اسی طرح اپنی صورت و سیرت اور چال ڈھال سے ایسا دعویٰ منوع ہے۔ اس سے ایک حدیث کے مفہوم پر جو اشکال ہوتا ہے وہ بھی رفع ہو جاتا ہے۔

حدیث میں ہے کہ صحابہ اہل صفحہ میں سے ایک شخص کا انتقال ہوا۔ مرنے کے بعد ان کی جیب میں سے ایک دینار (سائز ہے چار ماٹے سونے کا ایک سلمہ) برآمد ہوا۔ آنحضرت ﷺ کو خبر ہوئی تو آپ ﷺ نے فرمایا۔

لَيْسَ مِنَ النَّارِ۔
یعنی "یہ دینار جہنم کی آگ کا ایک داغ ہے"۔

پھر ایک دوسرے صاحب کے انتقال کے بعد جیب سے دو دینار لکھے تو فرمایا۔

لَيْسَ مِنَ النَّارِ۔
یعنی "جہنم کے دو داغ ہیں"۔

اس پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک دو دینار پر توز کوتہ بھی واجب نہیں ہوتی جس کی عدم ادائیگی کے اختلال پر جہنم کی وعید ہو سکے۔ اس کے علاوہ ایک دو دینار کے کسی کی ملک میں ہونا شرعی جرم نہیں۔ حضرت صدیق اکبرؓ کے پاس چالیس ہزار دینار تھے جن کو انہوں نے اسلامی ضروریات میں صرف کیا۔ ہجرت کے وقت سات ہزار باقی تھے جن کو ساتھ لے گئے اور رسول اللہ ﷺ کے ارشاد کے مطابق خرچ کئے۔ حضرت عثمان غنیؓ، حضرت عبد الرحمن بن عوفؓ، حضرت زیر الحجہ کرام میں بڑے مالدار حضرات تھے۔ ہزاروں دینار کے مالک تھے ان پر رسول اللہ ﷺ نے کوئی نکیر نہیں فرمائی اور ان دو صاحبوں کے ایک یا دو دینار پر اتنی شدید وعید ارشاد فرمائی اس کی کیا وجہ ہے۔

حضرت قاضی شاء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی توجیہہ یہی فرمائی ہے کہ حضرات اہل صدقہ اپنی صورت اور حالت کے اعتبار سے گویا اس کے مدعی تھے کہ ہم فقیر ہیں صاحب مال نہیں۔ چونکہ یہ عملی دعویٰ حقیقت کے خلاف ثابت ہوا اس لئے اس پر وعید آئی۔

عوام کے اعتقاد قابل التفات نہیں

(۲۶) فرمایا کہ میں سوچتا ہوں کہ اگر کوئی شخص میرا معتقد ہو گیا تو دین کا کیا فائدہ ہوا۔ ایسے ہی اگر کوئی معتقد نہ رہا تو دین کا کیا ضرر ہوا بلکہ غور سے دیکھا جائے تو دنیا کا بھی کوئی ضرر نہیں۔

لباس میں تکلف کی پابندی نکلتا اور پست حوصلہ ہونے کی علامت ہے

(۲۷) فرمایا کہ جب کسی کو دیکھتا ہوں کہ لباس میں تکلف کا پابند ہے تو دو چیزوں پر استدلال کرتا ہوں۔ اقول یہ کہ وہ نکلتا آدمی ہے کام میں مشغول رہنے والا اس کا پابند نہیں ہو سکتا۔ دوسرے یہ کہ یہ پست حوصلہ ہے کہ اس کے سامنے کوئی بڑا مقصد نہیں۔ اگر وہ ہوتا تو اس میں لگ کر اپنے اوقات ضائع نہ کرتا۔

رحمت حق تعالیٰ کا ایک عجیب واقعہ

(۲۸) ایک جاہل عورت مرنے کے وقت کچھ کلمات بول رہی تھی جو اس کے جاہل گھروالوں

کی سمجھ میں نہیں آتے تھے۔ وہ کسی مولوی صاحب کو بلا کر لائے اور کہا کہ ذرا دیکھو کہ یہ کیا بھونک رہی ہے مولوی صاحب نے قریب جا کر سنات تو عربی زبان کے کلمات اس کی زبان سے ادا ہو رہے تھے۔

ان هدا الرجلین یقولان ادخل الجنة
یہ دو آدمی یوں کہہ رہے ہیں کہ تو جنت میں
داخل ہو جا۔

مولوی صاحب حیرت میں رہ گئے۔ گھر کے جاہل لوگوں کو بتایا کہ اس کو تو جنت کی بشارت دی جارہی ہے۔ اس کے اعمال کیا تھے جن کے بد لے میں اسکو یہ نعمت ملی۔ لوگوں نے کہا کہ یہ تو بالکل بے عمل بلکہ بعد عمل عورت تھی۔ مولوی صاحب نے فرمایا کہ غور کرو اس کا کوئی اچھا عمل اللہ کے نزدیک مقبول ہو گیا ہے وہ کیا تھا بہت سوچنے کے بعد لوگوں نے بتایا کہ اس کی ایک خاص عادت یہ تھی کہ جب اذان ہوتی تو سب کام چھوڑ دیتی اور اذان کی طرف متوجہ ہو کرتی تھی دوسروں کو بھی اس وقت بولنے نہیں دیتی تھی۔ مولوی صاحب نے فرمایا کہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نام کی یہ عزت کرنا ہی اس کے کام آگیا جس نے دوسری برا نیوں پر پانی پھیردیا۔

اللہ تعالیٰ جل شانہ کی اس رحمت عامہ کا یہ واقع نقل فرمانے کے بعد حضرت نے فرمایا کہ مجھے رحمت الہی کے متعلق انشاء کا یہ شعر بہت پسند ہے۔

تصدق اپنے خدا کے جاؤں کہ مجھ کو آتا ہے پیار انشاء

ا! دھر سے ایسے گناہ پیغم ادھر سے یہ دمدم عنایت

احقر جامع کہتا ہے کہ اس واقعہ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد بزرخ میں سب کی زبان خود بخود عربی ہو جائے گی۔ کیونکہ وہ ہی انسان کے اصلی وطن یعنی جنت کی زبان ہے اسی میں اللہ تعالیٰ کی سب کتابیں نازل ہوئی ہیں پھر انہیاء نے اپنی اپنی زبانوں میں اس کے ترجیح امت کو سنائے ہیں۔ (کذافی فی الاتقان للسيوطی)

حضرت قرشی مجدد کی ایک کرامت

(۶۹) جامع کرامات اولیاء طبع مصر میں ایک عجیب واقعہ حضرت قرشی مجدد کا نقل کیا ہے کہ یہ بزرگ ولی اللہ جدای تھے۔ اسی نے نکاح نہیں کرتے تھے۔ کہ دوسروں کو تکلیف ہوگی۔ مگر جو ان تھے طبعی تقاضے موجود تھے۔ ایک روز اس تقاضے کی بنا پر مریدوں سے کہا کہ اب ہم نے نکاح کرنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ آپ پیغام دو گراس طرح کہ ہمارا پورا حال بیان کر دو۔ اگر کوئی عورت ان حالات کے باوجود نکاح پر راضی ہو جائے تو بہتر ہے ورنہ صبر کریں گے۔

ایک مرید اٹھا اور اپنے گھر گیا اس کی ایک جوان بیٹی تھی۔ اس سے پیر صاحب کا پورا حال بیان کر کے نکاح کے متعلق پوچھا۔ لڑکی نے خوشدی سے کہا کہ میں راضی ہوں۔ یہ مرید خوش ہو کر واپس آیا اور قرشی مجدد سے کہا کہ میری لڑکی راضی ہے آپ نے پھر پوچھا کہ تم نے اس کے سامنے میری پوری حالت بتلا دی تھی یا نہیں؟ اس نے کہا کہ بالکل واضح کر کے بتلا دی تھی مگر لڑکی نے کہا کہ میں ان کی خدمت گزاری کو دیئی سعادت سمجھ کر قبول کرتی ہوں چنانچہ نکاح ہو گیا۔

قرشی صاحب کرامات و تصرفات تھے لڑکی کی اس بلند حوصلگی کو سن کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ جب میں اس کے پاس جاؤں تو میری صورت تند رست اور حسین ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا جب گھر میں تشریف لے گئے تو ایک جوان رعناء کی صورت میں تھے۔ لڑکی نے ان کو دیکھ کر پرده کر لیا اور کہا کہ تم کون ہو۔ قرشی مجدد نے کہا کہ میں تمہارا شوہر قرشی ہوں۔ لڑکی نے جواب دیا کہ وہ تو مجدد ہیں۔ تم وہ نہیں ہو۔ تب حضرت قرشی نے واقعہ کرامت ذکر کر کے بتایا کہ اب میں جب بھی تمہارے پاس آؤں گا اسی صورت میں آؤں گا۔

لڑکی کی عالی حوصلگی دیکھئے اس نے جواب دیا کہ افسوس آپ نے میری تیت اور اس کے ثواب کو بر باد کر دیا۔ میں نے آپ سے نکاح محض معدود سمجھ کر خدمت کا ثواب حاصل کرنے کے لئے کیا تھا۔ دنیوی راحت اور خواہش نفسانی کے لئے نہیں۔ اب اگر اپنی اصلی صورت میں مجھے ملنا

چاہیں تو میں خادمہ ہوں ورنہ مجھے طلاق دے دیجئے۔ حضرت قرشیؓ یہ سننے کے بعد اپنی اصلی ہیئت و صورت میں آگئے اور لڑکی ان کی ساتھ اسی حالت میں رہنے لگی۔

حضرت گنگوہیؓ کے تفہیقہ پر حضرت نانوتویؓ کی شہادت

(۷۰) حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؓ فرماتے تھے کہ آج کل اگر کوئی یہ قسم کھائے کہ آج میں کسی فقیہ کو ضرور دیکھوں گا وہ اس وقت تک اپنی قسم سے سکدوش نہ ہو گا جب تک مولانا رشید احمد گنگوہیؓ کی زیارت نہ کرے۔ مطلب یہ تھا کہ ہمارے اس خطے میں صرف حضرت گنگوہیؓ فقیہ کھلانے کے مستحق ہیں اور کوئی نہیں۔ یہ واقع نقل فرمایا کہ ہمارے بزرگوں کی جو بات امتیاز کی ہے وہ یہ کہ ان میں کوئی تصنیع اور تکلف نہ تھا۔

بیماری میں حضرت نانوتویؓ کا تکم نہ کرنا اور حضرت مولانا محمد یعقوبؓ کی تنیہ

(۷۱) حضرت نانوتویؓ ایک مرتبہ بیمار ہوئے اور پانی کا استعمال مضر تھا۔ مگر حضرت تکلیف کے باوجود وضو ہی کرتے تھے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ کے لئے تکم جائز ہے کیوں مشقت برداشت کرتے ہیں۔ مگر مولانا اس عزیمت پر عمل کرنے کے لئے تکلیف و مشقت برداشت کرتے تھے۔

ایک روز حضرت مولانا محمد یعقوبؓ صاحب عیادت کے لئے آئے اور یہ حالت دیکھی تو فرمایا کہ ایسی حالت میں رخصت پر عمل کرنے میں احتیاط برنا میرے زد دیک اچھا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی بہادری جتنے کے مترادف ہے۔ اس وقت آپؓ کو تکم کرنے ہی میں زیادہ ثواب ملے گا۔ مولانا نے انکے فرمانے کو قبول فرمایا۔

اہل علم کے لئے انتظامی کاموں سے الگ رہنا ہی بہتر ہے

(۷۲) ارشار فرمایا کہ میں تو اپنے دوستوں کو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو کسی دینی مدرسہ میں درس و تدریس کا موقع نصیب فرماؤں تو انتظام و اہتمام کو اپنے لئے قبول نہ کریں کیونکہ

دونوں میں تضاد ہے۔ مدرس اور علمی خدمت کرنے والوں کے لئے یہی زیبائے ہے کہ اپنے اسی شغل میں لگے رہیں۔ مقامی اور ملکی سیاست سے یکسor ہیں۔ (رمضان المبارک ۱۴۲۸ھ)

ذکر جہر اور اشغال صوفیہ اور بدعت کی حقیقت

(۷۳) ارشاد فرمایا کہ عام احادیث سے ذکر اللہ میں جہر کی ممانعت مستفادہ ہوتی ہے اور حضرت امام اعظم ابوحنیفہ کا مذہب بھی یہی ہے ہمارے بزرگوں میں سب سے بڑے فقیہوں اور محتاط بزرگ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی قدس سرہ تھے ان کی تحقیق اس معاملہ میں یہ ہے کہ ذکر اللہ میں جہر کو کوئی شخص افضل یا زیادتی ثواب کا موجب سمجھ کر جہر کرے تو بدعت ہے۔ ہاں جمیعت خاطر اور قطع وساوس کی ایک تدبیر و علاج کی حیثیت سے کرے تو کوئی مضائقہ نہیں۔ اس کی مثال یعنہ یہ ہے کہ زکام میں گل بنقشہ پکا کر پینے کو اگر کوئی شخص خاص عبادت اور ثواب سمجھنے لگے تو یہ بھی بدعت ہو جائے گا۔ اور محض علاج و تدبیر کے لئے کرے تو بدعت سے اس کا کوئی واسطہ نہیں۔

اس معاملہ میں امیر شاہ خان صاحب نے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ سے ایک حدیث کی جو تحقیق نقل کی ہے وہ اسی مضمون کی تائید کرتی ہے۔

ایک حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔

من احدث فی امرنا هذافھو رد.
یعنی ”جس شخص نے ہمارے دین میں کسی

نئی چیز کو بڑھایا وہ مردود ہے۔

حضرت مولانا نانوتویؒ نے فرمایا کہ حدیث میں جس چیز کی ممانعت فرمائی ہے وہ احداث فی الدین ہے لیکن دین کے اکام کو برداشت کار لانے کے لئے جن ذرائع وسائل کی ضرورت پیش آئے اس کا حدیث و قرآن میں منصوص یا مذکور ہونا ضروری نہیں۔ وہ ہر زمانہ میں ہر کام کی مناسبت سے اختیار کئے جاسکتے ہیں۔ جیسے اس زمانے میں حج کے لئے ہوائی جہاز اور جہاد کے لئے ٹینک اور بم وغیرہ کا استعمال ہے کہ اس کو احداث فی الدین نہیں کہہ سکتے۔ بلکہ احداث للہ دین کہا جائے گا وہ جائز ہے۔

اسی طرح جمعیت خاطرا اور قطع و ساوس کے لئے ذکر میں جہر یا اشغال صوفیہ میں سے کوئی شغل اختیار کرنا بھی احادیث فی الدین نہیں بلکہ للدین ہے۔

حضرت سید احمد شہید بریلویؒ اور مفتی الہی بخش کاندھلویؒ

(۷۴) حضرت مفتی الہی بخش کاندھلویؒ جنہوں نے مشنوی مولانا رومی کا تکملہ لکھا ہے اور خاتم مشنوی کے نام سے معروف ہیں بڑے عالم اور مفتی تو معروف ہیں، ہی ان کا تقویٰ بھی بے مثال تھا۔ حضرت سید احمد صاحب بریلوی شہیدؒ سے بیعت ہوئے تو فرمایا کہ ہم قرآن کریم کو پہلے بھی پڑھتے تھے مگر حضرت سید صاحبؒ سے تعلق کے بعد اس کا اور ہی رنگ نظر آنے لگا۔

بچوں کے معلم ایک متقدی بزرگ

(۷۵) ارشاد فرمایا کہ گنگوہ میں حافظ حسین علی ایک متقدی بزرگ تھے گنگوہ کی لاں مسجد میں امام اور بچوں کے معلم تھے۔ ان کی بزرگی کے لئے تو حضرت گنگوہی کی یہ شہادت کافی ہے کہ ایک مرتبہ کسی گاؤں میں لوگوں نے ان کو اپنے یہاں لے جانا چاہا تو انہوں نے کہہ دیا کہ میں حضرت گنگوہیؒ کا خادم ہوں اپنے معاملہ میں خود مختار نہیں۔ حضرت سے اجازت لے لوں تو چلا آؤں گا۔ ان لوگوں نے حضرت گنگوہیؒ سے اجازت چاہی تو آپؒ نے فرمایا۔

”واہ میاں گنگوہ میں ایک ہی تو مسلمان ہے وہی تمہیں دے دوں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟“۔

ان کے تقویٰ اور خشیت کا یہ حال تھا کہ بعض اوقات کسی کوتا ہی پر بچوں کو مارنے کی نوبت آ جاتی تو پھر یہ سوچتے تھے کہ شاید مجھ سے کچھ زیادتی ہو گئی ہو تو ان بچوں کو بلا کر کہتے کہ ہم نے تمہیں مارا ہے تم ہمیں مار کر اپنابدلہ اتارلو۔ بعض شریر بچے اس کے لئے تیار بھی ہو جاتے تھے۔

حضرتؒ نے فرمایا کہ جب مجھے ان کے اس معاملہ کی خبر ہوئی تو میں نے کہا کہ ان کے اس عمل کا منشاء تو خوف خدا اور خشیت ہے جو انسان کے لئے بہترین سرمایا ہے۔ مگر اس طرز عمل سے

بچوں کی تربیت خراب ہو جائیگی وہ بے ادب ہو جائیں گے۔ اچھی صورت یہ ہے کہ اول تو مارنے کے وقت اس کا پورا خیال رکھیں کہ حد اور ضرورت سے تجاوز نہ ہو پھر دوسرے وقت ان کے ساتھ ایسا شفقت و محبت کا برداشت کریں کہ وہ خوش ہو جاویں۔

بعض اوقات عمل غلط ہوتا ہے مگر اس کا داعیہ صحیح اور قابلِ قدر ہوتا ہے

حضرت جنیدؒ کی حکایت

(۷۶) ایک مرتبہ حضرت جنید بغدادیؒ نے دیکھا کہ ایک شخص کو سولی پر انکایا ہوا ہے۔ دریافت کیا کہ اس نے کیا جرم کیا تھا لوگوں نے بتایا کہ یہ ذاکو ہے۔ اول چوری میں اس کا داہنا تھا کہ کاشا گیا مگر پھر بھی یہ چوری سے باز نہیں آیا۔ تو بایاں پاؤں کا نٹا گیا۔ پھر بھی بازنہ آیا تو سولی کی نوبت آئی۔ حضرت جنیدؒ آگے بڑھے اور اس کے پاؤں کو آنکھوں سے لگایا بوسہ دیا۔ لوگوں نے حیرت سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے۔ فرمایا کہ میں نے اس کے پاؤں کو بوسہ نہیں دیا بلکہ اس کے وصف استقلال و استقامت کو بوسہ دیا ہے جو اس کے نفس میں تھا اگرچہ اس بے وقوف نے اس کو شروع میں استعمال کیا اور اس کی بجا طور پر سزا پائی مگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ کاش ہمیں بھی خیر و طاعت کے معاملات میں ایسی ہی استقامت نصیب ہو جائے۔

سبحان اللہ ان حضرات کی نظر کس قدر عمیق اور گہری ہوتی ہے کہ ہر چیز کے حدود کو ہر حال میں پہنچانے ہیں جس کا حاصل یہ ہے کہ انسان کے نفس میں جو ملکات اور جذبات حق تعالیٰ نے رکھے ہیں وہ اگر اپنی جگہ محمودی ہی ہوتے ہیں ان کو بے جا اور شروع گناہ میں استعمال کیا جائے تو گناہ کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ انہیں کو نیک کام میں لگادیا جائے تو انسان کے اعلیٰ ترقیات کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اس کی تائید حضرت فاروق عظیمؓ کے ایک ارشاد سے بھی ہوتی ہے۔

حضرت فاروق عظیمؓ کے سامنے عراق کے خزانہ اور فاروق عظیمؓ کی دعاء

(۷۷) حضرت فاروق عظیمؓ کے زمانے میں جب عراق فتح ہوا۔ کسریٰ کے خزانہ مسجد بنوی

میں لاکرڈ ہیر کر دیئے گئے تو حضرت فاروق عظیم نے بارگاہِ حق تعالیٰ میں عرض کیا کہ یا اللہ آپ نے اپنے کلام پاک میں فرمایا ہے۔

زین للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة.
یعنی ”لوگوں کے دلوں میں خواہشاتِ نفسانی کی چیزیں، عورتیں، بچے، سونے چاندی کے ڈھیر وغیرہ کی محبت ڈال دی گئی ہے۔

اس لئے میں یہ دعائیں کرتا کہ یہ فطرت بدل دی جائے مگر یہ دعا کرتا ہوں کہ ان چیزوں کی محبت آپ کے راستہ اور آپ کی رضا جوئی میں ہمارے لئے معین و مددگار ہو جائے۔
حضرتؐ نے اس واقعہ کو نقل کر کے فرمایا کہ اسی لئے ہمارے حضرت حاجی صاحب قدس سرہ فرمایا کرتے تھے کہ رذائل کا ازالہ مقصود نہیں۔ امالہ مقصود ہے یعنی رذائل کے جذبات و داعی کو خیر و طاعت کی طرف مائل کر دینا مطلوب ہے اصل داعیہ کو زائل کرنا نہیں۔ کیونکہ ملکات اور دواعی مثلاً شہوت و غصب وغیرہ یہ اپنی ذات میں مذموم نہیں۔ شہوات کو حلال میں صرف کیا جائے اور قوت غصب کو شیطان اور کفر کے مقابلہ میں خرچ کیا جائے تو یہی درجات عالیہ کا ذریعہ بن جاتی ہیں حضرت مولانا رومیؒ نے خوب فرمایا۔

شہوت دنیا مثال گلخن است
کہ از وحیام تقویٰ روشن است

ایک رومی بزرگ خلیل پاشا

(۷۸) ارشاد فرمایا کہ مکہ معظمه میں ایک رومی بزرگ خلیل پاشانامی تھے۔ پہلے تر کی سلطنت کی طرف سے بیوی کے گورنر ہے۔ پھر عہدہ چھوڑ کر درویشی اختیار کر لی۔ ان کی درویشی کا بھی ایک خاص واقعہ یہ ہے کہ ان کے والد بڑے بزرگ، اور کامل شیخ تھے۔ مکہ مکرمہ میں مقیم تھے۔ حضرت حاجی صاحب قدس اللہ سرہ کی خدمت میں کبھی کبھی حاضر ہوتے تھے۔ ایک روز حضرت

حاجی صاحب سے شکایت کی کہ میرا بینا دنیادار ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا کہ غم نہ کرو وہ بھی آپ جیسا ہی ہو جائے گا۔ چنانچہ تھوڑے ہی عرصہ میں خود بخود ان کا دل دنیا سے اٹھ گیا۔ گورنری چھوڑ کر درویشی اختیار کر لی اور عبادت میں مشغول ہو گئے۔

میری ان سے کبھی ملاقات نہ ہوئی تھی۔ ایک رات خواب میں دیکھا کہ کوئی بزرگ مجھ سے کہتے ہیں کہ تم خلیل پاشا سے کیوں نہیں ملے۔ میں نے کہا کہ حضرت حاجی صاحب کے ہوتے ہوئے میں نے کسی دوسرے بزرگ سے ملنے کی ضرورت نہیں سمجھی اور یہ مثال بھی خواب ہی میں بیان کی کہ مقصود بیت اللہ شریف کے پاس حاضری ہے جو شخص ایک راستے سے وہاں پہنچ جائے اس کے ذمہ نہیں کہ پھر لوٹ کر جائے اور دوسرے راستے سے پہنچے۔ وہ بزرگ خاموش ہو گئے۔

میں نے صحیح کویہ خواب حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں پیش کیا تو فرمایا کہ ان کی زیارت ضرور کرو۔ میں نے عرض کیا کہ اب حضرت کے حکم سے ضرور جاؤں گا چنانچہ میں حاضر ہوا۔ خلیل پاشا نے فرمایا کہ میں تین زبانیں جانتا ہوں۔ عربی، ترکی اور فارسی۔ اب میں آپ سے کس زبان میں بات کروں۔ میں نے عرض کیا کہ میں ترکی زبان کو تونہ سمجھ سکتا ہوں نہ بول سکتا ہوں۔ عربی کو سمجھ لیتا ہوں بولنے کی عادت نہیں فارسی کو سمجھ بھی لیتا ہوں بول بھی سکتا ہوں۔ انہوں نے بڑی بثاشت کے ساتھ فارسی ہی میں گفتگو فرمائی۔ بہت سی باتیں ہوئیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی تھی۔

خلیل پاشا نے فرمایا کہ میں عرب و عجم کے بہت سے علماء سے ملا ہوں ہندوستان کے علماء سے بہتر علماء کہیں نہیں پائے۔ میں نے پوچھا کہ آپ نے ان میں کو ناصف ایسا پایا تو فرمایا کہ وہ محبت دنیا نہیں ہیں اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت میں لگے ہیں۔

ایک آیت کی تفسیر پر شبہ اور اس کا جواب

(۷۶) چند نو تعلیم یافتہ حضرات نے سوال کیا کہ حضرت آیت ھدی للہ تعالیٰ کا مفہوم سمجھ میں نہیں آیا کیونکہ اس کے معنے تو یہ ہیں کہ قرآن ہدایت ہے متقی لوگوں کے لئے حالانکہ متقی لوگ تو

خود ہی ہدایت پر ہیں ان کو تو ضرورت نہیں۔ غیر متقی جن کو ضرورت ہے ان کے لئے یہ ہدایت نہیں۔

حضرت نے فرمایا کہ میں ایک مثال پیش کرتا ہوں اس سے یہ مفہوم سمجھ میں آجائے گا۔ کہ کسی جگہ چند انگریزی کی کتابیں رکھی ہوں جو بی اے کے کورس میں داخل ہیں ان کو یہ کہنا کہ یہ بی اے کا کورس ہے صحیح ہے یا نہیں؟ سب نے کہا کہ بالکل صحیح ہے حضرت نے فرمایا کہ جو شخص بی اے کرچکا ہے اس کو تو اس کو رس کی ضرورت نہیں۔ اور جس نے نہیں کیا وہ بی اے نہیں جو جواب آپ یہاں دیتے ہیں وہی ہدایت للہ متین کا جواب ہے سب کے سب مطمئن ہو کر خاموش ہو گئے مطلب واضح ہو گیا کہ یہ کتاب متقی بنانے والی ہے۔

۱۸۵ء کی ایک نصیحت آمیر حکایت

(۸۰) حضرت نے فرمایا کہ ہمارے ماموں جو ایک آزاد منش درویش تھے انہوں نے ۱۸۵ء کی جگ آزادی کے زمانے کا ایک واقعہ نقل کیا کہ ایک مقام پر بہت سی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ ایک لالہ جی (بدیہ) دور کھڑے ہو کر تماشا دیکھ رہے تھے۔ لاشوں میں سے ایک زخمی نے جواب بھی مر انہیں تھا آواز دی لالہ جی ذرا یہاں آؤ۔ لالہ جی گھبرا گئے اور بھاگنے لگے کہ مردہ بول اٹھا ہے۔ اس نے پھر آواز دی کہ لالہ جی گھبرا ڈنیں میں مردہ نہیں زخمی ہو گیا ہوں اور مر نے والا ہوں۔ میری کمر میں بہت سے روپے بندھے ہوئے ہیں۔ مجھے خیال آیا کہ اب یہ روپیہ سیرے تو کام کا نہیں۔ تمھیں ہی دے دوں تمھارے کام آ جائیگا۔ روپیہ کا نام سن کر لالہ جی پکھل گئے اور ڈرتے ڈرتے زخمی کے پاس گئے۔ جب بالکل قریب آگئے تو زخمی نے تکوار اٹھائی اور لالہ جی کی ناگ کاٹ دی۔ اب تو لالہ جی گر پڑے مگر گرتے ہی اس کی کمر ٹوٹی کہ روپیہ تو سلنگوں۔ زخمی نے کہا لالہ جی تم باوے ہوئے ہو کوئی میدان جنگ میں روپیہ بھی باندھ کر لایا کرتا ہے۔

بات اتنی ہے کہ یہاں سب مردے پڑے ہیں میں تہازنہ ہوں رات ہو رہی ہے میں نے چاہا کہ کوئی بات چیت کے لئے آدمی ہو تو رات آسان ہو جائے گی تمھیں ویسے نہ ہبھرنے کو کہتا تو

کہاں رہتے۔ میں نے انس کے لئے تسمیس اپنے ساتھ کر لیا ہے الہ جی غصہ میں بھر کر بولے، ”مگامگا اوت کے اوٹ“ نہ خود چلیں نہ دوسرے کو چلنے دیں۔

ماموں صاحب نے یہ حکایت نقل کر کے فرمایا کہ آج کل اللہ کے راستے میں لوگوں کا یہی حال ہے کہ خود تو چلتے ہی نہیں۔ کوئی دوسرا چلنا چاہے تو اُسکی راہ میں روزے انکاتے ہیں۔

نفس کی اصلاح کبھی مال کے خرچ کرنے سے ہوتی ہے کبھی خرچ نہ کرنے سے (۸۱) ارشاد فرمایا کہ ایک صاحب جو میرے مخصوص دوستوں میں ہیں انہوں نے بعض رذائل کی اصلاح میں بار بار خلاف ورزی ہو جانے سے ٹنگ ہو کر اپنے نفس پر بطور سزا ایک بڑی رقم ماہوار صدقہ کرنا تجویز کر لیا۔ مجھے اطلاع ہوئی تو میں نے منع کر دیا کہ تسمیس ایک پیسہ خرچ کرنے کی اجازت نہیں کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ خرچ کریں گے تو تشویش میں پڑ جائیں گے اور اہل و عیال کے حقوق جوان کے ذمہ میں ان میں کوتا ہی ہوگی۔ (۲۶ ربیع الثانی ۱۴۳۹ھ)

ملفوظات رمضان ۱۴۳۸ھ

حجاج بن یوسف ظالم پر بھی کوئی جھوٹا الزام لگائے گا تو سزا پائے گا
حجاج بن یوسف اس امت کا سب سے بڑا ظالم مشہور ہے مگر کسی بزرگ کی مجلس میں ایک شخص نے اس پر کوئی الزام لگایا اور غیبت کی تو انہوں نے فرمایا کہ وہ اگر چہ ظالم و فاسق ہے مگر حق تعالیٰ کو اس سے کوئی دشمنی نہیں۔ وہ جس طرح دوسرے مظلوموں کا انتقام حجاج سے لے گا۔ اسی طرح اگر کوئی حجاج پر ظلم کرے گا تو اس سے بھی انتقام لیا جائے گا۔

اختلاف مسلک کی صورت میں ضابطہ تعلقات باہمی

۱۔ ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں سے خاص مشرب کا اختلاف ہو۔ ان سے نہ از خود ملنے (اورجاست) کی کوشش کی جائے نہ ترک ملاقات کی۔ وقت پر جو صورت پیش آجائے اسی میں مصلحت کبھی جائے۔ انقباض طبعی غیر اختیاری ہے اس کی پرواہ نہ کی جائے کہ مقتفائے غیرت بھی ہے۔ البتہ

بدگمانی اور بذبانی سے احتساب کی سعی کی جائے۔

۲۔ جو لوگ ان کے متعلق روایات و حکایات نقل کرتے ہیں جو بدگمانی پھر بذبانی کا سبب بنتی ہیں ان کو ایسی روایات نقل کرنے کا موقع قع دیا جائے۔

۳۔ اپنے ہم شرب لوگوں میں سے اگر کوئی شخص ان سے ملتا ہے تو اس کی فکر میں نہ پڑا جائے اور اس کی طرف سے عذر یا مصلحت کی تاویل کر لی جاوے اور جب تک وہ اپنے سے ملتا رہے تعلق نباہا جائے کہ لوگ دنیا کے لئے تعلقات نباہتے ہیں اگر کوئی دین کے لئے ایسا کرے تو کیا حرج ہے۔

(۱۸ جمادی الاولی ۱۴۳۳ھ)

بزرگوں کی صحبت سے اصل مقصود کیا چیز ہے

ارشاد فرمایا کہ بزرگوں کی صحبت میں رہنے سے اصل مطلوب ان کا مذاق حاصل کرنا ہے مگر وہ درحقیقت سعی و عمل سے حاصل نہیں ہوتا۔ مغض اللہ تعالیٰ کی موبہت ہے وہ جب چاہتے ہیں جس کو چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں۔ باقی رہے اعمال و افعال وہ اختیاری ہیں ایک دم میں بدل سکتے ہیں مگر مذاق صحیح بعض اوقات پچاس برس میں بھی حاصل نہیں ہوتا۔

قبل از ہجرت جہاد اور مقابلہ کفار کی اجازت ہونے پر ایک اشکال و جواب

ارشاد فرمایا کہ قبل از ہجرت جتنے حضرات آنحضرت ﷺ کے ساتھ تھے وہ کسی حال ان لوگوں سے کم نہ تھے جن کو حضرت خالد بن ولید نے جبلہ بن اسہم کے مقابلہ پر جگیر موک میں بھیجا تھا۔ کیونکہ جبلہ کا اشکر سانحہ ہزار تھا اور حضرت خالدؓ نے ان کے مقابلہ کے لئے صرف تیس صحابہ کا انتخاب کیا تھا۔ جس پر حضرت ابو عبیدہؓ نے کہا کہ کیا آپ مسلمانوں کو ہلاک کرانا چاہتے ہیں؟ حضرت خالدؓ نے جواب دیا نہیں میں نے ایسے لوگوں کا انتخاب کیا ہے جو سانحہ ہزار سے کم نہیں۔ حضرت ابو عبیدہؓ نے پھر فرمایا کہ میرا اطمینان نہیں ہوتا تو ان کے اصرار پر تیس صحابہ کا اور اضافہ کر کے سانحہ کر دیا اور ان کو سانحہ ہزار کے مقابلہ پر روانہ کیا۔ دن بھر تکوار چلنے کے بعد سانحہ

ہزار بھاگتے نظر آئے۔

اب یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ قبل از ہجرت حضرات صحابہ میں ضعف و قلت ضرور تھی مگر سانحہ کے عدد سے تو زیادہ تھے اور ان سے قوت میں کم بھی نہ تھے۔ پھر ان کو قتال سے منع کیوں کیا گیا؟ جواب یہ ہے کہ اس وقت مجموعی حالات کے اعتبار سے موقع قتال کا نہ تھا۔ اگرچہ نفس قوت فی الجملہ کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔

احقر جامع عرض کرتا ہے کہ شاید یہ مصلحت بھی مانع قتال ہو کہ یہ زمانہ افراد سازی کا تھا۔ دشمنوں کے ہاتھوں مصائب و شدائد جھیلنے اور اس پر صبر کرنے سے ان حضرات کا ترکیہ مقصود تھا کہ ان کا ہر عمل صلح و جنگ خاص اللہ کے لئے ہو جائے نفسانی جذبات کے لئے نہ رہے۔ اس لئے اس زمانے میں نفسانی جذبات کو کچلنے اور ٹھنڈو در گزر اور صبر سے کام لینے کے احکام آتے رہے۔ جب ترکیہ نفوس کا اطمینان ہو گیا۔ اس وقت قتال کے احکام آئے۔

(جمادی الاولی ۱۶ھ)

حصول علم کے لئے کثرت مطالعہ سے زیادہ ادب مشانخ ضروری ہے فرمایا علمی تحقیق سے زیادہ ضرورت ادب کی ہے بلکہ بزرگان سلف کا ادب کرنے سے حق تعالیٰ تحقیق کی شان بھی عطا فرمادیتے ہیں۔ بزرگان سلف کا ادب چھوڑ کر جو تحقیق کی جائے اس میں لغزش اور غلط فہمی کا بڑا خطرہ ہے۔

شبہات سمجھنا آسان اور جواب سمجھنا مشکل کیوں ہے

ارشاد فرمایا کہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ شبہات کو تو عوام بھی اکثر سمجھ لیتے ہیں۔ مگر جواب کا سمجھنا انہیں مشکل ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ شبہات کا نشان جہل ہے۔ جہل کی بات عوام کی سمجھے میں جلد اتر جاتی ہے اور جواب کا نشان علم ہوتا ہے وہ شخص کے بس میں نہیں آتا۔

حضرت کے اجلالِ بس رکھنے پر بعض لوگوں کا اعتراض

حضرت گھوماً بس صاف سترہ اچھا استعمال فرماتے تھے اکثر کرتے چکن کا بھی زیب تن دیکھا گیا ہے۔ اس پر بعض ناواقف لوگوں کو شہر ہوتا ہے کہ یہ تکلف کا لباس درویشی کے خلاف ہے۔ ایک روز فرمایا کہ میں ایسا شہر کرنے والوں کو تو جواب دینے کی ضرورت نہیں سمجھتا اور نہ دیتا ہوں لیکن حقیقت یہ ہے کہ مجھے طبعی طور پر تکلف کا بڑھیا لباس پسند نہیں۔ اور خود جب کبھی بناتا ہوں تو بہت سادہ ہی بناتا ہوں۔ اور جو مجھ سے اجازت لے کر بناتا ہے اس کو بھی سادگی کی تائید کر دیتا ہوں۔ مگر ہوتا یہ ہے کہ بہت سے دوست اپنی محبت سے کوئی بڑھیا لباس لاتے ہیں۔ ان سے کہہ بھی دیتا ہوں کہ یہ تکلف کا لباس پسند نہیں مگر اپنے بدن کے بنے ہوئے لباس کو واپس کرنا بھی اس کو بیکار کرنا ہے اور اس کا استعمال نہ کرنا بھی ایک قسم کا تکلف ہے اس لئے شکر کے ساتھ استعمال کرتا ہوں۔

حضرت کے ماموں صاحب کا ایک پسندیدہ شعر

اے فخرِ عز و بسالت بتو نازد
معراجِ کند فر رسالت بتو نازد

عورتوں کے مہر میں افراط و تفریط

فرمایا کہ عورتوں کے مہر میں ایک طرف تو یہ افراط پایا جاتا ہے کہ لوگ اس کو نام آوری سمجھتے ہیں کہ مہر بڑا ہو خواہ اتنا زیادہ ہو کہ اس کے ادا کرنے یا وصول کرنے کا تصور بھی نہ ہو سکے یہ شرعاً مذموم ہے۔ حدیث میں اس سے منع کیا گیا۔ مہر بقدر وسعت رکھنے کو پسند کیا گیا ہے۔ آنحضرت ﷺ سے زیادہ دنیا میں کون باعزت ہو سکتا ہے آپ ﷺ نے اپنی صاحبزادی کا مہر پانسود رہم مقرر فرمایا۔ لیکن دوسری طرف بہت سے ناواقف بلکہ بعض علماء بھی اس پر نظر نہیں کرتے کہ مہر مثل خاندان کا معتبر ہوتا ہے۔ اس خاندان کی ہر لڑکی کا وہی حق ہے۔ سارا خاندان مل کر مہر کی مقدار گھٹانا دے تو بہت اچھا اور حدیث کے حکم کی تعمیل ہے لیکن سارے خاندان کا مہر زیادہ ہو اور کوئی باپ اپنی

بیٹی کا مہر اس سے بہت کم دے تو یہ بیٹی کی حق تلفی ہے جو اس کے لئے جائز نہیں۔ اور باپ دادا کے سوا کوئی دوسرا آدمی مہر مثل سے کم پر نکاح کر دے تو متاخرین کے فتویٰ کے مطابق نکاح ہی نہیں ہوگا اور متقدیں کے قول پر خاندان کے اولیاء کو بذریعہ اسلامی عادات یہ نکاح فتح کر دینے کا اختیار ہوگا۔ آج کل بہت سے نکاح خوان مہر قاطعی پر اصرار کرتے ہیں اور بغیر مرضی لڑکی والیاء کے مہر قاطعی مقرر کر دیتے ہیں اس میں بڑی احتیاط لازم ہے۔

زمانہ فتنہ کے متعلق ایک حدیث

ایک حدیث میں یہ دعاء تلقین فرمائی گئی ہے کہ
وَاذَا ارْدَتْ بِقَوْمٍ فِتْنَةً فَتُوْفِتِي الَّذِي لَمْ يَكُنْ فِيهِ
هِيَ مِنْ بَلَّا كَرَنَّ كَأَرَادَه فَرِمَاهَ
بِحَجَّهٖ فَتَنَّهُ مَحْفُوظٌ رَبِّهِ هُوَ مَوْتٌ
دَعَ وَبِحَجَّهٖ۔

حضرتؐ نے فرمایا کہ اس دعاء سے یہ بات نکلتی ہے کہ ہر فتنہ کے ازالہ کی کوشش اور دعاء مناسب نہیں ہوتی بلکہ ایسے موقع پر اپنے آپ کے فتنہ سے محفوظ رہنے کی دعاء کی جائے۔

شرعی حیلہ

بہت سے معاملات میں فقهاء حبیب اللہ نے بعض ناجائز معاملوں کی صورت بدلتے کے حیلے لکھے ہیں جس کے بعد وہ جائز ہو جاتے ہیں۔ اور خود رسول کریم ﷺ سے بعض معاملات میں اس طرح کے حیلہ و مدد بر کی اجازت منقول ہے مگر بعض لوگ اس میں مغالطہ میں بیٹلا ہیں۔ اس کو معاملات اور دیانتات سب میں عام کر لیا ہے حالانکہ حیلہ شرعی صرف معاملات میں ہو سکتا ہے دیانتات میں نہیں ہوتا۔ اسی لئے کوئی شخص زکوٰۃ سے بچنے کا یہ حیلہ کرے کہ سال ختم ہونے سے پہلے اپنی کل ملکیت اپنی بیوی یا کسی لڑکے وغیرہ کے نام کر لے اور ہبہ کر کے اس کا قبضہ بھی کرادے اور

درحقیقت نیت ہبہ کرنے کی نہ ہو بلکہ یہ قصد ہو کہ جب اگلا سال پورا ہونے آؤ گا تو وہ مجھے ہبہ کر دیں گے اس طرح نہ ان پر زکوٰۃ فرض ہو گی نہ ان پر یہ حیلہ حرام ہے اور بغیر حیلہ کے زکوٰۃ نہ لگانے کے گناہ سے زیادہ ختم گناہ ہے کیونکہ یہ حیلہ اللہ کے فرض سے بچنے کے لئے کیا گیا ہے جو دیانت سے متعلق ہے۔ بنی اسرائیل نے جن پر یوم السبت میں محملی کاشکار حرام قرار دے دیا گیا۔ تھا حیلے کر کے شکار کرنے کی صورت میں نکالی تھیں۔ اس پر اللہ کا غضب اور عذاب نازل ہوا۔

فرمایا کہ حیلہ کبھی مقصود شرع کے ابطال کے لئے ہوتا ہے وہ حرام ہے اور کبھی مقصود شرعی کی تحصیل و تعیل کے لئے ہوتا ہے وہ جائز ہے۔ اور جو حیلہ ایسا ہو کہ اس سے عوام کے فتنہ میں بتلا ہونے کا خطرہ ہو وہ بھی حرام ہے جیسے سود سے بچنے کے ایسے حیلے جن سے لوگ سود ہی کو حلال سمجھنے لگیں سب حرام ہیں۔

تعویز گندے

حضرت "عملیات مردجہ کی پابندیوں کو پسند نہ فرماتے تھے۔ آپ کو آپ کے مرشد حضرت حاجی امداد اللہ قدس سرہ نے یہ فرمایا دیا تھا کہ کوئی کسی ضرورت سے تعویز مانگے تو انکار نہ کرو اور وقت پر جو کوئی قرآن کی آیت یا اللہ کا نام اس مرض کے مناسب سمجھ میں آ جاوے وہ لکھ دیا کرو۔ حضرت کا معمول اسی کے مطابق رہا۔

ایک مرتبہ فرمایا کہ ایک کاشکار نے مجھ سے کہا کہ میرے کھیت میں چوہے بہت پیدا ہو جاتے ہیں اور بڑا نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس کے لئے کوئی تعویز دے دیں۔ حضرت " نے پانچ پر چوہ پر قرآن کریم کے یہ الفاظ لکھ دیئے۔

"لنھلکن الظالمین"

اور فرمایا کہ ان کو کسی مٹی کی کلھیا یا ذبے وغیرہ میں بند کر کے ایک کھیت کے درمیان اور چار چار گوشوں میں دفن کر دیں۔

اسی طرح ایک شخص نے بچے کی ولادت کے بعد بیوی کی چھاتیوں میں دو دھنگی زیادتی اور

اس سے شدید تکلیف کی شکایت کی تو حضرت نے آیت قرآن ”قیل يا ارض ابلعی ماء ک ویا اسماء اقلعی و عیض الماء“

کاغذ پر لکھ کر دے دیں کہ اس کو سینہ پر بندھوادیں۔ اللہ تعالیٰ نے تکلیف دور فرمادی۔

اہل اللہ پر جوش تقریروں کے عادی نہیں ہوتے، اس کی وجہ

فرمایا کہ جس شخص کو معرفت حق کا مقام حاصل ہو جاتا ہے اس کے نزدیک نظریات بھی بدیہیات بن جاتے ہیں۔ اور بدیہی امور کے بیان کا کوئی آدمی خاص اہتمام نہیں کیا کرتا۔ نصف النہار کے وقت آفتاب کا وجود ثابت کرنے کے لئے کوئی پُر جوش تقریبیں کی جا سکتی۔ اسی حالت کے متعلق صوفیہ کرام نے فرمایا ہے:-

”یعنی“ جس کو اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے
من عرف الله کل لسانہ
اس کی زبان گویائی سے تھک جاتی ہے۔

ایک حدیث میں جوار شاد ہے:-

”یعنی“ حیا اور کلام سے عاجز ہونا ایمان میں
الحیاء والعنی من الايمان۔
سے ہے۔

اس کا مفہوم بھی کلام اور تقریسے وہ عجز ہے جو معرفت حق کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ تاہلیت اور جہل کی وجہ سے جو عجز ہوتا ہے وہ مراد نہیں۔ کیونکہ وہ ایمان کا شعبہ نہیں ہو سکتا۔ وہ شرعاً موم۔ اس پر فرمایا کہ حافظ شیرازی کا مشہور شعر ہے:-

”کجا دا انند حال ما سکاران ساحلها“

اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو دریا کے پہلے کنارے پر کھڑے ہیں دریا کو عبور نہیں کر سکے اور جو لوگ دریا کو عبور کر کے اس کی مشکلات کو حل کر کے دوسرا رے کنارے پر پہنچ ہوئے ہیں اگرچہ وہ بھی دریا کے کنارے ہی پر کھڑے ہیں مگر ان دونوں میں بڑا فرق ہے ان کے متعلق ”کجا دا انند“ نہیں کہا جا سکتا وہ سب کچھ جانتے ہیں مگر صورت کے اعتبار سے دو کناروں پر کھڑے ہوئے یکساں نظر

آتے ہیں۔ اسی طرح ایک تو وہ جاہل ہے جو کسی چیز کی حقیقت سے واقف ہی نہیں۔ اس سے کوئی سوال کیا جائے تو وہ جواب اور گفتگو سے حقیقت عاجز ہوتا ہے دوسرا وہ عارف کامل ہے جو سب چیزوں سے اتنا واقف ہے کہ نظری چیزیں بھی اسے بدیہی معلوم ہوتی ہیں وہ بھی زیادہ لمبی گفتگو اور بڑی تقریر سے عاجز ہوتا ہے تھی وہ عجز ہے۔ جس کو حدیث میں جزاً ایمان قرار دیا ہے۔

دین کے معاملے میں ہر شخص کی خود رائی عجیب ہے

فرمایا کہ دنیا کے تمام فنون اور سب شعبہ ہائے زندگی میں جو شخص کسی خاص فن سے واقف نہیں ہوتا اس کو یہ کہنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی کہ میں اس فن کو نہیں جانتا۔ ایک بڑے ماہر انجینئر سے آپ آنکھ کی تکلیف کا علاج پوچھیں تو بے ساختہ کہہ دے گا کہ میں ڈاکٹر نہیں۔ کسی ڈاکٹر سے انجینئر کا مسئلہ پوچھیں تو وہ کہے گا کہ میں انجینئر نہیں۔ مگر دین کو ایسا لاوارث سمجھ لیا گیا ہے کہ ہر شخص اس میں اپنی رائے ٹھوٹنے کی فکر میں ہے۔ وہاں یہ نہیں کہا جاتا کہ میں عالم نہیں۔

سہارنپور کے ایک ڈپٹی محسٹریٹ تھانے بھومن حاضر ہوئے۔ ان کے ذہن پر یہ سوار تھا کہ دنیا میں سودخوازی کے بغیر ترقی نہیں ہو سکتی اس لئے کسی طرح اسے حلال کیا جائے۔ حضرتؐ نے فرمایا کہ بنی امیہ کے دور میں مسلمانوں کو ترقی حاصل ہوئی تھی یا نہیں۔ اقرار کیا کہ بڑی ترقی ہوئی۔

حضرتؐ نے پوچھا کہ کیا انہوں نے سودی کاروبار کیا تھا یا سود کو حلال کیا تھا۔ تو کوئی جواب نہیں تھا۔ حضرتؐ نے فرمایا کہ اس سے یہ تو معلوم ہو گیا کہ ترقی سود پر موقوف نہیں پھر انہوں نے ایک آیت کے متعلق کچھ سوال کیا اور یہ بھی عرض کیا کہ فلاں صاحب نے اس کی تفسیر اس طرح لکھی ہے۔ وہ صاحب نے ایک اردو ادیب تھے عالم نہیں تھے۔ حضرتؐ نے فرمایا کہ آپ جس قانون پر عدالت میں فیصلے کرتے ہیں وہ مجھے دے دیجئے میں اس کی ایک شرح لکھوں اور آپ میری شرح کے مطابق عدالتی فیصلے نافذ کریں اور حکومت سے موافق ہو تو آپ یہ کہہ دیجئے کہ اشرف علی نے اس قانون کی یہی شرح کی ہے پھر دیکھئے کہ حکومت کی طرف سے آپ کو کیسے کیسے خطاب ملتے ہیں۔

بزرگوں کے تبرکات کا اثر

فرمایا کہ ایک متفقی پر ہیز گار بزرگ نے مجھے ایک انگر کھا (اچکن) سومی چھینٹ کا دیا تھا میں اس کو متبرک سمجھ کر پہنتا تھا۔ اس کا یہ اثر تھا کہ جب تک وہ بدن پر رہتا۔ معصیت اور گناہ کا خطرہ تک نہ آتا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ بزرگوں کے کپڑوں میں کیا رکھا ہے مگر میں نے تو یہ مشاہدہ کیا ہے۔

مسلمانوں کی مالی خوشحالی بھی نعمت ہے

فرمایا کہ میں جب کسی مسلمان کو مستغنى اور خوشحال دیکھتا ہوں تو بڑی مسرت ہوتی ہے۔ دارالعلوم کے سابق صدر مہتمم حضرت مولانا حافظ محمد احمد صاحب صاحبزادہ حضرت نانوتوئی کا جب دکن حیدر آباد میں بحثیتِ ریاست ایک ہزار ماہوار تخریج پر تقرر ہوا تو گویہ صورت مجھے طبعاً پسند نہ تھی مگر اس لحاظ سے مسرت ہوتی کہ ایک عالم دین کی قدر اہل دنیا کی نظر میں بڑھی۔ میں پہلی مرتبہ حیدر آباد کن صرف چند گھنٹے کے لئے گیا۔ جس کا اصل سبب معاوی شیری علی صاحب کی شادی نکاح میں اور نگ آباد جانا تھا وہاں دوستوں کا خیال ہوا کہ حیدر آباد کے قریب چل کر اس کو دیکھیں۔ میں نے صرف اس نیت سے انگلی رفاقت قبول کر لی کہ یہاں انگریزوں اور ہندوؤں کے مقابلہ میں مسلمان مالی اور جاہ کے اعتبار سے کم نظر آتے ہیں وہاں مسلمان ریاست ہے۔ مسلمانوں کی خوشحالی اور عزت و شوکت دیکھ کر دل خوش ہوگا۔

بآہمی اتفاق تو اضع سے پیدا ہوتا ہے

فرمایا کہ حضرت حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے ”اتفاق کی جڑ تو اضع ہے“ ”دو متنکروں میں کبھی اتفاق نہیں ہوتا“ کیونکہ جب کسی شخص میں تو اضع ہوتی ہے تو اس کو یہ کچھ مشکل نہیں معلوم ہوتا کہ اپنے آپ کو دوسرے کا تابع بنادے اور اپنی رائے کو دوسرے کی رائے کے مقابلہ میں اصرار نہ کرے اور متنکر سے یہ کام کبھی نہیں ہوتا۔

ایک حدیث پر اشکال اور اس کا جواب از حضرت گنگوہی

حدیث میں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ:-

”مجھے یونس ابن مٹیؑ نبی پر فضیلت نہ دو“

مولانا فخر الحسن صاحب گنگوہیؒ نے اپنے استاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ سے اس کے متعلق یہ سوال کیا کہ سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ہمارے رسول ﷺ تمام انبیاء، کرام سے افضل سب کے سردار سب کے امام ہیں پھر اس حدیث میں حضرت یونس علیہ السلام پر رسول اللہ ﷺ کی فضیلت بیان کرنے کو کیوں منع فرمایا ہے۔ یہ اشکال حدیث کے تمام شارحین نے نقل کیا اور اپنی اپنی طرز کے مختلف جوابات دیئے ہیں۔ حضرت گنگوہیؒ نے اصحاب کے انداز پر یہ جواب دیا کہ خود یہی حدیث آنحضرت ﷺ کی افضیلت کی دلیل ہے کہ اپنے کو افضل کہنے سے منع فرمایا جو لوگ افضل ہوتے ہیں ان کا یہی طریق ہے۔

مولانا فخر الحسن صاحب کا اس جواب سےطمینان نہ ہوا۔ تو حضرت گنگوہیؒ نے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تم مجھے اپنی نسبت سے کیا سمجھتے ہو۔ مجھے اپنے سے افضل کہتے ہو یا نہیں؟ سب نے کہا کہ اس میں تو ذرا بھی شبہ کی گناہش نہیں۔ حضرت گنگوہیؒ نے یہ سن کر فرمایا کہ اگر میں آپ سے کوئی بات قسم کھا کر کہوں تو آپ اس کوچ سمجھو گے یا نہیں؟ سب نے کہا کہ بلا کسی شبہ و تردد کے اس کوچ سمجھیں گے۔ اس پر حضرت گنگوہیؒ نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں تم سے ہر ایک کو اپنے سے افضل سمجھتا ہوں۔ حضرتؒ کی اس قسم پر سارا مجمع موحیرت رہ گیا اور حضرتؒ مجلس سے اٹھ کر اپنے جگہ تشریف لے گئے۔

حضرت گنگوہیؒ کا اپنے اوپر تنقید کرنے والوں کے ساتھ معاملہ

فرمایا کہ ایک معاملہ میں حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہیؒ نے ایک فتویٰ لکھا۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانو تویؒ کے مشہور مرید امیر شاہ خان صاحب نے اس پر کچھ اعتراض کیا اور لکھ کر ڈاک میں ڈال دیا۔ اس کے بعد خیال آیا کہ میں نے بے ادبی کی تو دوسرا خط مغذرت اور معافی

کے لئے لکھا۔ حضرت گنگوہی نے جواب میں تحریر فرمایا کہ مجھے آپ کا پہلا خط جس میں اعتراض تھا پسند آیا یہ دوسرا پسند نہیں آیا۔ کیونکہ پہلے خط میں آپ نے جو کچھ لکھا وہ خالص دین کے لئے تھا۔ اور مجھے یقین ہے کہ آپ کی نیت بے ادبی کرنے کی نہیں تھی۔ اس لئے ذذہ برا برنا گواری نہیں ہوئی۔

بقول مولانا رومی۔

گفتگو عاشقان در کار رب جوش عشق است نے ترک ادب

اس کے برعکس ایسا ہی ایک واقعہ اور پیش آیا کہ جس شخص نے حضرت سے کوئی فتویٰ لیا تھا اس نے اس پر مناظرانہ انداز سے اعتراضات لکھ کر بھیجے۔ اس کے جواب میں تحریر فرمایا کہ ہم نے اپنی معلومات کے مطابق جواب لکھ دیا ہے اگر پسند نہیں تو جس عالم پر اعتماد ہوا سے رجوع کرو۔ فوق کل ذی علم علیم۔

مثنوی رومی کا خلاصہ دو چیزیں ہیں، تو حید اور ضرورتِ شیخ

حضرت حاجی صاحب نے فرمایا کہ میں نے جتنا مثنوی مولانا رومی کا مطالعہ کیا یہ ثابت ہوا کہ ساری مثنوی کا خلاصہ ایک تو حید کو بیان کرنا ہے دوسرے اصلاح نفس اور وصول الی اللہ کے لئے شیخ کامل کی ضرورت۔

حضرت حکیم الامت کی کتب بنی

ارشاد فرمایا کہ مجھے زیادہ کتب بنی کا ذوق نہیں ہوا کیونکہ نفس علم کو نقصوں نہیں سمجھا۔ عمل کے لئے جتنے علم کی ضرورت ہے اس میں اپنے بزرگوں پر مکمل اعتماد و اعتماد تھا۔ جو کچھ قرآن و سنت کی تعبیر میں انہوں نے فرمایا تھا اس پر دل مطمئن تھا۔

ایک صاحب نے حضرت کی تصانیف جو ایک ہزار کے قریب ہیں ان کا ذکر کے عرض کیا کہ آپ نے اتنی تصانیفات فرمائی ہیں تو ہزاروں کتابیں دیکھی ہوں گی۔ حضرت نے فرمایا کہ ہاں چند کتابیں دیکھی ہیں جن کے نام یہ ہیں:-

حاجی امداد اللہ، حضرت مولانا محمد یعقوب صاب، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی۔

ان کتابوں نے مجھے سب دوسری کتابوں سے بے نیاز بنادیا۔ شاید ایسے ہی حضرات کے متعلق کسی کا شعر ہے۔

وانت الکتاب لِمُبْنِي الدَّى
بَا حِرْفٍ يَظْهَرُ الْمُضْمُرُ

تو ہی وہ واضح کتاب ہے جس کے حروف سے مخفی مضمایں ظاہر ہو جاتے ہیں۔

صحابہ کرام کی خاص شان

ایک صاحب کو بعض حضرات صحابہ کے متعلق کچھ شہادات رہتے تھے۔ ایک مرتبہ خواب میں رسول اللہ ﷺ کی زیارت کی تو آپ ﷺ نے ان سے فرمایا کہ سمندر میں اگر چہ ہزاروں گندگیاں اور نجاستیں ڈال دی جائیں مگر سمندر ہی سب پر غالب رہتا ہے گندگیوں کا اثر اس پر غالب نہیں آتا۔

نیت صحیح ہو تو عملی کوتا ہیاں اکثر معاف ہو جاتی ہیں

فرمایا کہ حق تعالیٰ کی نظر انسان کے قلب اور اس کی نیت و ارادہ پر ہوتی ہے اگر وہ خالص اللہ کے لئے ہو مگر عمل میں کوتا ہی ہو جائے تو وہ اکثر معاف ہو جاتی ہے۔

مدارس دینیہ عربیہ کی خاص اہمیت

فرمایا کہ جوں جوں آزادی اور الحاد و بے دینی پھیلتی جاتی ہے اسی طرح میرے خیال میں مدارس دینیہ کی اہمیت بڑھتی جاتی ہے۔ یہ منجانب اللہ ہے کہ مجھے مدرسہ دیوبند سے ایسی محبت اور تعلق بڑھ گیا ہے کہ اس سے پہلے کبھی اتنا نہ تھا اسی طرح دوسرے مدارس دینیہ کی بھی اہمیت دل میں بڑھ گئی ہے۔ یہاں تک کہ فنون عقلیہ، منطق، فلسفہ، ریاضی وغیرہ جوان مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں ان کو بھی مفید اور ضروری سمجھنے لگا۔ کیونکہ موجودہ دہریت اور سائنس پرستی کا علاج اس

کے سو انہیں کہ علماء خود ان فنون سے واقف ہوں تاکہ تعلیم یافتہ لوگوں کے شبہات کا جواب ان کی نفیات کے مطابق دے سکیں۔ اور ان کی نظر وہ میں کم حیثیت نہ سمجھے جائیں۔ یہ فنون خود کوئی دین نہیں ہیں مگر ان سے دین کی خدمت بھی لی جاسکتی ہے۔

حال میں ایک صاحب نے قرآن کریم کی دو آیتوں کے ظاہری تعارض کے متعلق مجھ سے سوال کیا تو ریاضی کی مدد سے ہی اس کا جواب دیا اور انکی تسلی ہو گئی۔

سوال یہ تھا کہ قیامت کے دن کا طویل ہونا ایک آیت میں بقدر ایک ہزار سال کے آیا ہے۔ دوسری آیت میں خمسین الف سنت یعنی پچاس ہزار سال کے برابر آیا ہے اور دونوں میں بڑا فرق ہے۔ حضرتؐ نے ریاضی کے اصول پر فرمایا کہ اس میں کیا بعد ہے کہ ایک افق کے اعتبار سے ایک ہزار سال کے برابر ہو اور دوسرے افق کے اعتبار سے پچاس ہزار سال کے برابر۔ اس کی پوری تفصیل بیان القرآن میں لکھدی گئی ہے۔ (ملفوظ ۱۹ شعبان ۱۳۸۸ھ)

عبدات کے اظہار اور اخفاء میں اعتدال

فرمایا کہ اپنی نفلی عبادات اور دینی کمالات کا اظہار جو عموماً نفس کے تقاضا سے ہوتا ہے اس کا مذموم ہونا تو سبھی جانتے ہیں۔ بہت زیادہ اخفاء کا اہتمام بھی کچھ اچھا نہیں کیونکہ اس میں بھی غیر اللہ کی طرف ایک گونہ اتفاقات تو پایا جاتا ہے اگرچہ منفی انداز سے ہی۔ محققین کا مذاق یہ ہے کہ اپنے کام سے کام رکھنے اظہار کا قصد کرے نہ اخفاء کا۔ صوفیائے کرام میں جو ایک فرقہ ملامتیہ کے نام سے معروف ہے۔ درحقیقت ان کا مقصد اخفاء اعمال کا اہتمام تھا نہ کہ ارتکاب معاصی کا۔ عوارف میں ملامتیہ کی بھی تعریف لکھی ہے۔

خواب اور تعبیر خواب

ایک صاحب نے خط میں اپنا خواب لکھا تھا۔ حضرت نے جواب میں تحریر فرمایا:-

”جا گئے کی با تمیں لکھو، خوابوں کے پیچھے مت پڑو“

پھر فرمایا اگر کوئی شبہ کرے کہ رسول اللہ ﷺ تو خواب سننے اور تعبیر دینے کا اہتمام فرماتے

تھے تو جواب یہ ہے کہ اب نہ ایسے خواب دیکھنے والے ہیں نہ ایسے تعبیر دینے والے۔
کسی کو قبلہ و کعبہ کہنا

حضرت سے سوال کیا گیا کہ لوگ اپنے بڑوں کو قبلہ کعبہ لکھتے ہیں یہ کیا ہے۔ فرمایا کہ مجاز ہے اس لئے کوئی حرج نہیں مگر ترک اس کا اولی ہے۔

سنۃ نبوی پر عمل بلا نیت وارادہ بھی ہو تو برکت سے خالی نہیں

سوال کیا گیا کہ ایک شخص ایک کام سنۃ کے مطابق کرتا ہے مگر اس کو نہ اس کا سنۃ ہونا معلوم ہے نہ اس نے اتباع سنۃ کی نیت سے کیا۔ تو کیا پھر بھی اس کو ثواب ملے گا۔ فرمایا کہ ثواب توبغیرنیت کے نہیں ملے گا۔ مگر موافقت سنۃ کی برکت سے پھر بھی محروم نہ رہے گا۔

دل کے متعلق چند اشعار

حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ کا ایک فارسی شعر ہے۔

دلے دارم جواہر خانہ عشق است تجویلش کہ داروزیر گردون میر سامانے کہ ممن دارم خوبجہ عزیز الحسن صاحب نے حضرت کی مجلس میں یہ شعر پیش کیا، تو حضرت نے بہت پسند فرمایا اور فرمایا دل کے متعلق بزرگوں کے مختلف مذاق ہیں۔ قدی کے اشعار بھی اس بارہ میں خوب ہیں۔

| | |
|---|---|
| دارم دلے اما چ دل صد گونہ حرمان در بغل | چ شے و خون در آستین اشکے و طوفان در بغل |
| رو ز قیامت هر کے آید بد ش نامہ | من نیز حاضر میشوم تصویر جانا ان در بغل |
| اس کے آخری شعر کو حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب قدس سرہ تصریف کر کے اس طرح پڑھا کرتے تھے۔ | |

من نیز حاضر میشوم تفسیر قرآن در بغل

ارشاد

میں بے ادبی کو معاصی سے زیادہ مضر سمجھتا ہوں۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ مشائخ اور علماء کی شان

میں بے ادبی کرنے سے مجھے بہت ذرگتا ہے کیونکہ اس کے عواقب اور شانج بہت خطرناک ہیں۔

رشوت کی تعریف

فرمایا کہ رشوت کی جامع تعریف جو تمام اقسام رشوت پر حاوی ہے یہ ہے کہ کسی غیر مตقوم چیز کا عوض لینا۔

طريقِ صوفیاء کی اصل

فرمایا کہ اس طریق میں اصل چیز صحبت شیخ اور محبت شیخ ہے۔ تعلیم و تلقین اس کے بغیر کارگر نہیں ہوتی اور صحبت بلا تعلیم و تلقین کے بھی مفید ہوتی ہے۔ پہلے بزرگوں کی عام عادت زیادہ تعلیم و تلقین کی نہ تھی ان کی صحبت کی برکت ہی سے اصلاح ہو جاتی تھی۔ غالباً حضرت مولانا محمد اسماعیل شہیدؒ نے منصب امامت میں لکھا ہے کہ بزرگوں کا فیض صحبت آفتاب کے مشابہ ہوتا ہے کہ اس کا فائدہ سب کو پہنچتا ہے۔ خواہ استفادہ کرنے والے کو اس کی خبر بھی نہ ہو اور قصد استفادہ کرے یا نہ کرے۔ آفتاب کا فائدہ سب کو برابر ملتا ہے۔ اسی طرح خاص خاص بزرگوں کا فیض صحبت بھی ایسا ہی عام ہوتا ہے۔ اور علامت ایسے بزرگوں کی یہ ہوتی ہے کہ ان کی وفات کے وقت عام قلوب میں ایک ظلمت و کدورت محسوس ہونے لگتی ہے۔ حضرتؐ نے فرمایا کہ اس کی تائید اس جملہ سے ہوئی ہے جو صحابہ کرام نے رسول اللہ ﷺ کی وفات پر فرمایا تھا۔

والله ما انفضنا ایدينا من التراب حتى انكينا قلوبنا۔ یعنی ”خدا کی قسم کہ ہم نے رسول اللہ ﷺ کو وفن کرنے کے بعد اپنے ہاتھ بھی مٹی سے نہیں جھاؤے تھے کہ ہمارے قلوب میں تغیر محسوس ہونے لگا۔“

فرمایا مشانج کی صحبت میں رہنے والا ہر وقت اس سے نفع حاصل کرتا رہتا ہے خواہ اس کو نفع کا احساس اور استحضار ہو یا نہ ہو۔

رمضان المبارک ۱۳۵۰

سماع جائز کے شرائط از سلطان نظام الدین اولیاء

ارشاد فرمایا کہ حضرت سلطان نظام الدین اولیاء نے ”فوانی الدفوا“ میں جائز سماع کی شرائط لکھی ہیں جن کا خلاصہ چار چیزیں ہیں جن کا تعلق سماع کے اركان اربعہ سے ہے یعنی سماع، مسمع، مسموع، آلات سماع۔ ہر ایک کے متعلق جواز کی شرائط حضرت نظام الدین اولیاء کے نزدیک یہ ہیں۔

سامع: اہل دل باشد از اہل ہوئی نباشد۔ یعنی سننے والا صاحب دل ہو، صاحب ہوئی نہ ہو، جو اپنی خواہشاتِ نفسانی کے پیچھے چلے۔

مسمع: (یعنی سننے والا) مرد باشد زن و کوک نباشد۔ یعنی سننے والا مرد ہونا چاہیے کوئی عورت یا امراء لڑکانہ ہو۔

مسموع: (یعنی جو نظم یا اشعار وغیرہ سنائے جائیں) ہرل و نخش نباشد۔ یعنی وہ کلام جو سنایا جائے ہر لیات اور نخش کلام نہ ہو۔

آلات سماع: اس کے متعلق فرمایا۔ چنگ و رباب درمیان نباشد۔ (یعنی چنگ و رباب وغیرہ مزامیر کے ساتھ گانا نہ ہو) نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ پہلے زمانے کے بعض صوفیاء سے جو سماع ثابت ہے وہ انہیں شرطوں کے ساتھ ہے۔ آج کل اہل ہوس نے گانا بجانا تو لے لیا۔ ان کے اصلی کمالات سے بالکل بیگانہ وہ اہل سماع بھی اہل سماء تھے اور اب اہل ارض ہیں جو اخذِ الارض کے مصدق نظر آتے ہیں۔

اہل کمال کے پہچانے کا حکیمانہ معیار

ارشاد فرمایا کہ کسی عالم کے علم کا مقام اور درجہ معلوم کرنا ہوتا طلباء سے دریافت کیا جائے اور کسی صوفی بزرگ کا درجہ معلوم کرنا ہوتا اس زمانے کے مشائخ اہل طریق کا معاملہ دیکھا جائے کہ

اس کے ساتھ کیا اور کیسا ہے وہ اس کو بزرگ صادق الحال سمجھ کر اسی طرح کا معاملہ کرتے ہیں یا نہیں۔

پھر فرمایا کہ اس پر ایک شاہی جام کا قصہ یاد آیا کہ ایک مرتبہ بادشاہ نے جام کو خط بنانے کے لئے طلب کیا وہ اس وقت حاضر نہ ہو سکا۔ یہ بڑا پریشان ہوا کہ اب اس کی تلافی کیسے کروں۔ اس نے شاہی خدام سے بات کر لی کہ جب بادشاہ سو جائیں تو مجھے موقع دیں کہ میں خط بنادوں۔ خدام شاہی نے اس کی ہمدردی سے اس کو منظور کر لیا۔ اس نے پہنچ کر سوئے ہوئے بادشاہ کا خط اس طرح بنادیا کہ اس کو کچھ خبر نہ ہوئی۔ وہ بیدار ہوئے تو خط بنانا ہوا دیکھا۔ درباریوں سے پوچھا تو انہوں نے پورا واقعہ سنادیا۔ بادشاہ اس کے کمال سے خوش ہوئے اور اس کو استاد کا شاہی خطاب دیا گیا۔ یہ معاملہ شہر میں مشہور ہوا تو ان کے رشتہ برادری کی عورتیں ان کے گھر میں یوں کومبار کباد دینے کے لئے جمع ہو گئیں۔ جب یوں کو معاملہ کی اطلاع ہوئی تو اس نے ایک بڑی داشمندانہ بات کہی وہ یہ کہ یہ خطاب اگر جاموں کی برادری یا کسی ماہر جام کی طرف سے ملتا تو مجھے خوشی ہوتی کہ وہ اس کے کمال کی دلیل تھی۔ بادشاہ اس فن کو کیا جانے۔ اس کے لقب و خطاب دینے سے نیرے نزدیک اس کی کوئی عزت نہیں بڑھی۔

جب خواب میں آنحضرت ﷺ کی زیارت حلیہ شریفہ کے خلاف ہو اس میں حضرت شاہ عبدالعزیز اور شاہ عبد القادر دہلوی کے درمیان اختلاف تھا کہ اگر کسی شخص نے آنحضرت ﷺ کی خواب میں زیارت کسی ایسی ہیئت و صورت میں کی جو منقول و مذکور حلیہ شریفہ کے خلاف ہے۔ خصوصاً جب کہ وہ شریعت کی مسنون ہیئت سے بھی مختلف ہو تو یہ روایا صادقہ ہے یا نہیں۔

شجاعت اور حرم عموماً متملاً زم ہوتے ہیں

ارشاد فرمایا کہ آجکل لوگوں نے ظلم و چوری اور بے رحمی کا نام شجاعت رکھ لیا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ جس شخص میں حقیقی شجاعت زیادہ ہوتی ہے اس میں ضعیفوں پر حرم بھی زیادہ ہوتا ہے۔ بے

رجی اور سنگدلي کا مظاہرہ ان ہی لوگوں سے ہوتا ہے جن میں شجاعت نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ بندوؤں میں رحم و ترس نہیں۔ جب مقابلہ پر آتے ہیں تو مخالف کے ساتھ ایسے برتابہ کرتے ہیں کہ انسانیت لرزائھتی ہے۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے حقیقی شجاعت عطا فرمائی ہے۔ تاریخ اس کی گواہ ہے کہ کمزور دشمن قبضہ میں آگیا تو اس کے ساتھ بھی بے رحمی کا معاملہ نہیں کرتے۔

جس شخص کی بیوی بے پردہ ہو، اس کی امامت

فرمایا کہ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحبؒ کے پاس ایک سوال آیا کہ جس شخص کی بیوی پردہ نہ کرتی ہو اس کی امامت جائز ہے یا نہیں؟ حضرتؒ نے تحریر فرمایا کہ جہاں مقتدی بھی سب ایسے ہیں ہوں وہاں جائز ہے جیسے نگلوں کی جماعت پھر فرمایا کہ پورا پردہ آج کل کہاں ہے کسی کی عورتیں باہر پھرتی ہیں اور کسی کے گھر میں اجنبی غیر محروم مردا آتے ہیں ان کی عورتوں کو دیکھتے ہیں ان دونوں شقوں سے کون خالی ہے۔ الاما شاء اللہ۔

سرسید اور حضرت مولانا محمد یعقوبؒ

جس زمانے میں سرسید نے علی گڑھ کالج کی بنیاد رکھی ہے اسی زمانے میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد اکابر علماء نے رکھی۔ سرسید کو خبر ملی تو کہنے لگے کیا ہوگا۔ مسجدوں کے نکڑے کھانے والے اور دوچار بڑھ چائیں گے حضرت مولانا محمد یعقوب صاحبؒ جو دارالعلوم دیوبند کے قرن اول میں اس کے صدر مدرس تھے ان کو سرسید کا یہ جملہ پہنچا تو دعا کی کہ یا اللہ اس کا عملی جواب تو آپ ہی دے سکتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ اس مدرسہ کا پڑھا بوا کوئی آدمی دس روپیہ سے کم کا ملازم نہ ہوگا۔ یہ اب سے تقریباً سال پہلے کی بات ہے جبکہ اس وقت کے دس روپیہ آجکل کے پانوں کے برابر تھے مراد غالباً یہ تھی کہ وہ معاشی پریشانی کا شکار نہ ہوگا۔

جن ملکوں میں عشاء کا وقت نہیں آتا صحیح ہو جاتی ہے، ان میں نماز کا مسئلہ اس مسئلے کے متعلق اس مجلس میں جوار شاد فرمایا اس کے نقل کرنے سے پہلے اصل مسئلہ سمجھ لیا

جائے وہ یہ ہے کہ قطب شمالی کی جانب کے بعض ملکوں میں رات اور دن کا یہ نظام نہیں ہے جو ہمارے عام بلاد میں پایا جاتا ہے۔ بلغار وغیرہ میں سال کے بعض ایام ایسے آتے ہیں کہ آفتاب غروب ہونے کے بعد بھی شفق سفید غائب نہیں ہوتا کہ پھر آفتاب نکل آتا ہے گویا عشاء اور وتر کی نمازوں کا وقت ان ایام میں آتا ہی نہیں۔ یہ سوال قدیم فقہاء کے زمانے میں زیر بحث آیا تو ان میں رائے میں مختلف ہوئیں۔ ایک جماعت نے فرمایا کہ ان پر بھی نمازِ عشاء فرض ہے۔ اگرچہ اس کی ادائیگی طلوع آفتاب کے بعد کرنا ہوگی کیونکہ ہر روز میں پانچ نمازوں کا فرض ہونا قرآن و سنت سے ثابت ہے اس میں کسی ملک یا کسی خطہ کو مستثنی نہیں کیا گیا اور اپنے اس فتویٰ پر انہوں نے زمانہ دجال کی ایک حدیث سے استدلال کیا ہے جسمیں آیا ہے کہ دجال کے زمانے میں ایک دن ایک سال کا ہوگا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ جو دن سال بھر کا ہوگا کیا اس دن میں بھی صرف پانچ نمازیں پڑھی جائیں گی۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ نہیں بلکہ اس میں اندازہ لگا کر ہر روز کی پانچ نمازیں ادا کرنا ہوں گی۔

دوسری جماعت فقہاء نے فرمایا کہ پانچ نمازوں کی فرضیت ان کے پانچ اوقات کے ساتھ مشروط ہے۔ جس جگہ کسی نماز کا وقت بالکل ہی نہ آئے وہ نماز ساقط ہو جائے گی۔ جیسے وضوء کے چار فرض ہیں لیکن اگر کسی کے پاؤں کئے ہوئے ہوں تو اس پر پاؤں دھونے کا فرض عدم نہیں ہوتا۔ صرف تین فرض رہ جاتے ہیں۔ اور حدیث دجال پر اس مسئلے کے قیاس کو صحیح نہیں قرار دیا۔

قطب شمالی کی جانب کے ملکوں میں لیل و نہار کے اوقات میں اس کے سوا اور بھی مختلف صور میں آفتاب کے طلوع غروب کی پیش آتی ہیں۔ ان سب میں نمازوں کے متعلق یہی دو نظریے فقہی ہیں۔ بعض فقہاء پانچوں نمازوں کو فرض قرار دیتے ہیں۔ بعض کے نزدیک جس نماز کا وقت وہاں نہ ملے وہ نماز ساقط ہو جاتی ہے فرض ہی نہیں ہوئی۔

علام ابن عابدین شامی نے ”رذ الحکار“ میں اس مسئلے کی تحقیق اور فقہاء کی دونوں جماعتوں کی تحقیقی بحثیں نقل فرمائی ہیں۔

حضرت حنفیم الامت قدس سرہ کے سامنے بھی یہ سوالات چند مرتبہ آئے جو امداد الفتاوی میوب جلد اول حصہ ۷۱ تا ص ۷۱ میں درج ہیں۔ حضرت نے فتویٰ ان حضرات فقہاء کے قول پر دیا ہے جن کے نزدیک ایسی صورت میں وہ نماز فرض ہی نہیں رہتی جس کا وقت نہ ملتا ہو۔ اس تفصیل کے بعد وہ ملعوظ لکھا جاتا ہے جو اس مجلس میں ارشاد فرمایا۔

فرمایا کہ شیخ اکبر مجی الدین ابن عربی نے فتوحات میں تصریح کی ہے کہ دجال کے زمانے میں جو دن ایک سال کا ہو گا وہ درحقیقت ایک سال نہیں ہو گا بلکہ نظامِ شمسی اپنی حالت پر بدستور رہے گا۔ طلوع غروب آفتاب کا اپنے مقررہ اوقات پر ہوتا رہے گا۔ مگر لوگوں کو دجال کے دجل کے سبب یہ طلوع غروب نظر نہ آئیں گے۔ وہ سال بھر تک مسلسل ایک ہی دن محسوس کریں گے۔ ابو حنفیہ عصر حضرت مولانا شیداحمد صاحب گنگوہی نے فتوحات کی اس تحقیق کی بناء پر فرمایا کہ اس سے واضح ہو گیا کہ اہل بلغار اور قطب ثمائی کی طرف ملکوں کے مسئلے کو زمانہ دجال کے مسئلے پر قیاس کرنا صحیح نہیں۔ کیونکہ وہاں درحقیقت ہر نماز کا وقت اپنے مقررہ وقت میں آئیگا۔ لوگوں کو نظر نہ آئیگا۔ اس لئے وہاں یہ حکم دیا گیا کہ اوقات کا اندازہ کر کے سال بھر کے دنوں کی نمازیں اس ایک دن میں پڑھیں۔ بخلاف اہل بلغار وغیرہ کے کہ ان پر وقت عشاء آتا ہی نہیں۔ اس لئے ان پر عشاء کی نمازان ایام میں فرض ہی نہیں ہوگی۔

پھر فرمایا کہ اصل مدارقرآن کریم کی آیت ان الصلوۃ کانت علی المؤمنین کتاباً موقوتاً کی تفسیر پر ہے۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک نمازم مونین پر ایک فرض موقت ہے۔ اس آیت کی تفسیر اگر یہ کی جائے کہ ہر چوبیس گھنٹے میں پانچ نمازیں فرض ہیں تب تو اہل بلغار وغیرہ پر ہر روز کی پانچ نمازیں فرض ہوں گی کسی نماز کا وقت ملے یا نہ ملے۔ لیکن اگر تفسیر آیت کی یہ ہو جیسا کہ الفاظ قرآن سے یہی ظاہر ہے کہ ہر روز کے مقررہ اوقات میں پانچ نمازیں فرض ہیں تو جن بلا د میں کسی نماز کا وقت ہی نہ آتا ہو وہ نمازان کے لئے فرض نہ ہوگی۔ (انٹی)

حضرت گنگوہی کی تحقیق تو شیخ اکبر کی تحقیق سے مستفاد ہے حضرت قاضی عیاض نے بھی

حدیث دجال کے متعلق تقریباً یہی موقف اختیار کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ حدیث دجال ایک خلاف قیاس حکم کو بیان کر رہی ہے اس لئے وہ صرف زمانہ دجال کے ساتھ مخصوص حکم ہو گا۔ جو صاحب شرع نے اس خاص زمانے کے لئے جاری فرمادیا ہے۔ اگر آپ یہ صریح حکم اس زمانے کے لئے ارشاد نہ فرماتے تو اجتہاد فقہی کے اعتبار سے وہاں بھی یہی کہا جاتا کہ اس ایک سال کے دن میں صرف پانچ ہی نمازیں اپنے وقت میں پڑھی جائیں گی۔ مگر حدیث صریح کی بناء پر وہاں قیاس کو چھوڑ دیا گیا اور جو حکم خلاف قیاس کسی خاص مسئلے میں وارد ہواں میں اصول یہی ہے کہ دوسرے مسائل کو اس پر قیاس نہیں کیا جاتا۔ (رد المحتار شامی ص ۳۲۷ ج ۱)

قاضی عیاض کی اس تحقیق کا حاصل یہ ہے کہ اگر زمانہ دجال کے یک سالہ دن کو اپنی حقیقت پر رکھ کر ایک ہی دن قرار دیا جائے اور شیخ اکبر کے قول کو نظر انداز کیا جائے پھر بھی حکم فقہی یہی ہے کہ ان ممالک میں جس نماز کا وقت نہ ملے وہ نماز فرض نہیں اس سے ساقط ہو جاتی ہے۔ واللہ اعلم یہ جگہ فقہی مسائل کی مکمل تحقیق و تفصیل بیان کرنے کی نہیں ہے وہ رد المحتار شامی وغیرہ کتب فقہ میں دیکھی جاسکتی ہے اس میں طویل النہار یا طویل الیل ملکوں میں نماز کے مسائل کے ساتھ روزے کے احکام بھی بیان کر دیئے ہیں۔

نتیجہ

اس مسئلے میں ان فقہاء کے اقوال کی ترجیح جو ایسے موقع میں سقوط فرض کے قائل ہیں۔ حضرت حکیم الامت قدس سرہ سے تو امداد الفتاوی میں بھی منقول ہے۔ اس ملعوظ میں اہم بات قابل یاد رکھنے کے یہ ہے کہ فقیہہ العصر حضرت مولانا گنگوہیؒ کے نزدیک بھی اسی کو ترجیح ہے۔

جو کشف تلمیس سے خالی ہو وہ بھی شرعی جحت نہیں

ذکورالصدر ملعوظ میں شیخ اکبر نے جو کچھ فرمایا وہ ظاہر ہے کہ ان کا ایک کشف ہے اس پر یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ اس سے احکام شرعیہ میں استدلال کیسے درست ہوا۔ اس پر فرمایا کہ حضرت گنگوہیؒ کا اصل استدلال اس کشف پر مبنی نہیں۔ بلکہ آیت قرآن کتاباً موقوتاً کی ظاہر تفسیر پر مبنی ہے ان کے

کشف کو محض تائید کے طور پر ذکر کیا گیا ہے۔

پھر فرمایا کہ حضرت شیخ اکبر کے بعض کشف تلپیس شیطانی سے پاک ہوتے ہیں جو تجربے سے ثابت ہے لیکن کسی کشف کا خالی از تلپیس ہونا اس کو متلزم نہیں کہ اس کو شرعی جلت بنالیا جائے۔ جیسے کسی شخص نے عید کا چاند تہاد یکھا ہو اور اس کو اس دیکھنے میں کوئی شبہ اور تلپیس بھی نہ ہو مگر اس کا تہاد یکھنا جلت شرعی نہیں اس کی بناء پر قاضی لوگوں کو عید کرنے کا حکم نہیں دے سکتا۔

مشنوی کے ایک شعر کی شرح و تقریر

مولانا رومی نے فرمایا۔

پس زبون و سوسہ باش دلا
گر طرب را باز دانے از بلا

نامرادی نے مراد دلبرست

فرمایا کہ مومن کی شان یہ ہونا چاہیے کہ جس طرح وہ اپنی خواہش کے مطابق کام ہونے پر خوش اور راضی رہتا ہے۔ خلاف طبع خلاف تہنا کام ہو جانے پر بھی اسی طرح دل سے راضی رہے جیسا کہ حدیث میں رضا بالقدر کی دعاء تلقین فرمائی گی یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے بندے کے لئے مقدر کر دیا ہے وہ اگرچہ اس کی طبیعت اور خواہش کے خلاف ہو مگر یہ تصور کرے کہ ہمارا رب کریم رحیم بھی ہے حکیم بھی۔ اس نے جو کچھ کیا وہ کسی حکمت و مصلحت پر مبنی ہے اور انعام کا رسیرے لئے رحمت ہے۔ اسی مضمون کو پہلے شعر میں اس طرح ادا کیا ہے کہ اپنی خواہش اور خوشی کو بہتر اور جو کچھ تقدیری طور پر سامنے آیا اس کو برا سمجھا۔ یہ وسوسہ شیطانی ہے۔

اور دوسرے شعر میں اسی رضاۓ بالقضاء کی تحریک کے لئے ایک عاشقانہ تصور یہ دیا ہے کہ تم غور کرو کہ تمھیں ایک چیز بھلی معلوم ہو رہی تھی اس کی طلب میں تھے۔ محبوب حقیقی کو وہ چیز پسند نہ تھی۔ اس نے دوسری صورت اختیار فرمائی تو عاشق کا فرض ہے کہ محبوب کی پسند پر اپنی پسند کو قربان کر دے۔ اور فرمایا کہ اگر تمھیں اپنی مراد اور خواہش شیرین معلوم ہوتی ہے اور تمھارے محبوب حقیقی کو تمھاری نامرادی اور ناکامی پسند ہے تو تم اپنی پسند کو اس کی پسند پر قربان کر کے دل سے راضی

رہو۔ ایک اور بزرگ نے بھی یہی مضمون اس شعر میں فرمایا ہے۔
 فراق وصل چہ باشد رضائی دوست طلب کہ حیف باشد از وغیرا و تناعے
 تقلیل کلام کے متعلق ایک حدیث کی شرح
 مشکلاۃ باب حفظ اللسان میں ایک حدیث ہے:-

یعنی ”بولنے اور کلام کرنے میں کمی اور
 العی من الایمان۔ رکاوٹ ایمان کا جزو ہے۔“

فرمایا کہ مومن کی اصل شان یہ ہوتا چاہیے کہ اس کا قلب فکر آخرت میں ہب و وقت مشغول ہو اور جب یہ حالت ہو گی تو اس کے ساتھ یعنی کلام کی بستگی لازمی ہے۔ طلاقت لسان اور بیان کی روائی ایسی حالت میں نہیں ہو سکتی۔ البتہ کسی عارضی ضرورت سے کوئی دوسرا حال غالب آجائے تو اس وقت طلاقت لسان اور بیان کی روائی اور خطابت کا ذریعہ بھی تقریر میں پیدا ہو جاتا ہے جیسا کہ رسول اللہ ﷺ کے خطبات کے وقت آپ ﷺ کی حالت کا بیان صحابہ کرام سے منقول ہے۔

طالبین کے لئے ایک حکیمانہ نصیحت

ارشاد فرمایا کہ اس عالم میں جیسے اسباب سے آثار پیدا ہوتے ہیں مثلاً گرم چیز کے استعمال سے گرمی اور سرد سے سردی پیدا ہوتی ہے اس طرح بعض اوقات آثار سے بھی اسباب پیدا ہوتے ہیں۔ دیکھو کھانا کھانے کا سبب بھوک اور کھانے کی رغبت ہے اور عموماً یہی ہوتا ہے کہ پہلے بھوک لگتی ہے اور کھانے کی رغبت پیدا ہوتی ہے پھر اس کے تقاضا سے کھانا کھایا جاتا ہے۔ مگر شیر خوار بچے کو دیکھیئے کہ جب ماں باپ اس کا دودھ چھڑانا چاہیں تو وہاں پہلے سے رغبت نہیں بلکہ نفرت و اعراض ہوتا ہے اس کی رغبت تو صرف ماں کے دودھ کی طرف ہوتی ہے مگر ماں باپ اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے کچھ کھلاتے چلتے ہیں۔ اس کھلانے سے بچے میں رغبت پیدا ہو جاتی ہے۔

جو لوگ تمبا کو کھانے یا پینے کے عادی ہیں ان سے پوچھیئے کہ تمبا کو کا عشق پہلے ان کے دل میں پیدا ہوا تھا اس کی مجبوری سے کھانا شروع کیا یا معاملہ برکش ہوا کہ پہلے کھانا شروع کیا اس سے

عشق کے درجہ تک رغبت پہنچ گئی اسی طرح جس طرح باطن میں کمال ایمان انسان کے اعمال صالیٰ کا سبب بنتا ہے اسی طرح بعض اوقات دل میں داعیہ نہیں ہوتا مگر عنی شروع کر دینے سے دل میں بھی شوق و رغبت پیدا ہو جاتی ہے اس لئے سالک اور طالب کو چاہیے کہ مرشد نے جو عمومات بتلادیئے ہیں ان کے پورا کرنے میں اس کا انتظار نہ کرے کہ دل لگے گا تو کروں گا بلکہ ہونا یوں چاہیے کہ ان کو کرنا شروع کر دے۔ آہستہ آہستہ دل بھی لگ جائے گا۔

۱۳۵۵ھ صفر ۱۶

ایک صاحب نے حضرتؐ کو خط میں لکھا کہ میں ذاہی منڈوا تا ہوں اور فلاں فلاں گنا ہوں کا مرٹکب ہوں مگر دل چاہتا ہے کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اگر ان حالات میں آپ اجازت دیں تو حاضر ہو جاؤں۔

حضرتؐ نے جواب میں تحریر فرمایا کہ آپ کا ظاہر خراب ہے اور باطن اچھا ہے اور میرا باطن خراب ہے ظاہر اچھا ہے اس سے معلوم ہوا کہ دونوں میں کوئی مناسبت نہیں۔ اگر دونوں کے عیوب ایک جیسے ہوتے تو مناسبت ہو جاتی اور عدم مناسبت کی صورت میں کام نہیں ہو سکتا۔ اس لئے تکلیف سفر ضائع ہوگی۔ مناسب نہیں۔

اور پھر خود ہی فرمایا کہ اسی طرح کا ایک مضمون ایک اور صاحب نے بھی لکھ کر اجازت مانگی۔ ان کو میں نے لکھ دیا تھا کہ جس حال میں بھی ہو آ جاو۔ وجہ یہ تھی کہ ان کا خط پڑھ کر فکر اپنالا مترشح ہوئی تھی اور ان کے خط سے اسکی امید نہ ہوئی اس لئے جواب مختلف ہو گئے۔

خطرات نفسانیہ اور شیطانیہ میں فرق

ارشاد فرمایا کہ اگر ایک ہی معصیت کا تقاضا نفس میں بار بار پیدا ہو تو یہ علامت اس کی ہے کہ یہ خطرہ نفسانی ہے اور اگر ہر مرتبہ مختلف قسم کے گناہوں کا تقاضا اور خطرہ دل میں پیدا ہو تو وہ خطرہ شیطانی سمجھا جائے۔ کیونکہ نفس کا خطرہ اپنی خواہش شہوت ولذت پورا کرنے پر منی ہوتا ہے اسی کو مکر ریش کرتا رہتا ہے اور شیطان کی غرض تو صرف یہ ہے کہ یہ کسی نہ کسی گناہ میں بتلا

ہو جائے۔ ایک گناہ کے خط و کواں نے دفع کر دیا تو وہ دوسرا گناہ کا خیال پیدا کر دیتا ہے اور جو خطرات عقائد کے متعلق ہوں وہ سب محض شیطانی ہوتے ہیں۔

۹ صفر ۱۳۵۵ھ کو میرے والد ماجدؒ کی وفات ہو گئی۔ اس کے بعد میں ۲۶ صفر ۱۳۵۶ھ کو تھانہ بھون حاضر ہوا تو حضرتؐ نے فرمایا کہ تم نے یہاں آنے میں اب بھی جلدی کی کیونکہ والدہ صاحبہ ابھی زیادہ پریشان ہوں گی۔ میرا تو دل چاہتا تھا کہ اگر میں سفر کے قابل ہوتا تو ایک دو روز کے لئے خود وہاں پہنچتا اور ان کو تسلی دیتا۔ مگر میں تو کسی کام کا نہیں رہا۔ اور فرمایا کہ دل تو یہی گواہی دیتا ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ والد صاحب مرحوم پرفضل ہوا ہو گا۔

شعر شاعری میں بزرگانِ دیوبند کی احتیاط اور اعتدال پسندی
حضرت مولانا محمد قاسم نافوتویؒ کے سامنے ایک فارسی قطعہ پیش گیا گیا جس کا تعلق ایسے لوگوں سے تھا جو بلا وجہ شرعی کسی مسلمان کو کافر کہا دیتے ہیں قطعہ یہ تھا۔

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| مرا کافر اگر گفتی غمے نیست | چراغ کذب را بود فروغ نے |
| مسلمانت بخونم در جوابش | دروغ نے را جزا شد دروغ نے |

حضرت مولانا نے سنا تو فرمایا کہ اس میں تو مخاطب کو کافر ہی کہا دیا گیا ہے کیونکہ اس کے مسلمان ہونے کو جھوٹ قرار دینا کافر ہی کہنا ہے۔ پھر خود اس میں ایک شعر کا اضافہ اپنی طرف سے اس طرح کر دیا۔

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| مرا کافر اگر گفتی غمے نیست | چراغ کذب را بود فروغ نے |
| مسلمانت بخونم در جوابش | دہم شکر بجائے تلخ دو غمے |
| اگر خود مومنی فبها والا | دروغ نے را جزا باشد دروغ نے |

تعویز گنڈا

ایک سلسلہ گفتگو میں ارشاد فرمایا کہ آج کل لوگ اپنے مقاصد میں اور دفع امر ارض و مصائب میں تعویز گنڈے وغیرہ کی تو بڑی قدر کرتے ہیں۔ اس کے لئے کوشش بھی کرتے ہیں اور جو اصل

تدبیر ہے یعنی اللہ سے دعاء اس میں غفلت بر تے ہیں۔ میرا تجربہ یہ ہے کہ کوئی نقش و تعریز دعاء کے برابر موثر نہیں۔ ہاں دعاء کو دعاء کی طرح مانگا جائے اور موافع قبول سے پرہیز کیا جائے۔ اسی سلسلے میں فرمایا کہ جب میں مدرسہ جامع العلوم کانپور میں مدرس تھا اتفاقاً کانپور میں طاعون کی وبا چھیلی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بزرگ فرمار ہے ہیں کہ کسانے پینے کی چیزوں پر تین مرتبہ سورہ قدر انا انز لناہ پوری پڑھ کر دم کر کے کھلایا پلایا جائے۔ مریض کو صحت ہو جائے گی اور تند رست محفوظ رہے گا اور فرمایا کہ پھر اس کا مشاہدہ تجربہ سے ہو گیا۔

انگریزوں کی دوستی بھی فتنہ ہے دشمنی بھی

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ انگریزوں کی دوستی فتنہ باطنہ ہے اور ان کی دشمنی (بجالت موجودہ کے مسلمانوں میں مقابلہ کی طاقت نہیں) فتنہ ظاہر ہے اور ہم دونوں سے پناہ مانگتے ہیں۔ جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک دعاء میں تلقین فرمائی ہے:-

اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن یعنی " یا اللہ ہم تمام فتنوں سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں جو ظاہر اور کھلے ہوئے فتنے ہیں یا جو چھپے ہوئے فتنے ہیں"۔

بڑھاپے میں بھی غیر محروم عورتوں اور امرد لڑکوں سے علیحدہ رہنے کا اہتمام

پورا کرنا چاہیے۔

بعض مشائخ سن رسیدہ بوڑھے ہو جانے کے وجہ سے یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اب غیر محروم عورتیں بے پرده سامنے آؤں یا امرد لڑکوں سے کام لیں تو کسی فتنہ کا اندیشہ نہیں۔

حضرتؐ نے ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ اس میں اکثر دھوکہ اور مغالطہ ہوتا ہے۔ بڑھاپا کتنا ہی چھا جائے مگر شہوت اور میلان باقی رہتا ہے۔ اور بوڑھوں کے لئے یہ میلان زیادہ مضر ہوتا ہے کیونکہ قوت مقاومت ضعیف ہو جاتی ہے۔ قلبی گناہ اور نظر کے گناہ میں ابتلاء تو ہو ہی جاتا ہے۔ اس لئے اس سے بہت پرہیز اور احتیاط کرنا چاہیے۔

اہل بدعت اور خلافِ مسلک لوگ جو عبادت گزار ہوں انکی شخصیات کے معاملہ میں احتیاط

اکابر دیوبندی کی جس طرح مسائل میں حق گولی اور صاف گولی معروف و مشہور ہے جس کو سب جانتے ہیں۔ اسی طرح ان کے تقویٰ اور توضیح کا ایک دوسرا رخ بھی ہے جس کو بہت کم لوگ جانتے وہ یہ کہ مسئلہ میں تو کسی کی رعایت نہیں۔ اپنے نزدیک جو حق بات ہے وہ صاف کہہ دیں لیکن اس کے خلاف کرنے والے حضرات کی شخصیات اور ذاتیات پر گفتگو آئے تو اس میں بڑی احتیاط کرتے ہیں۔ ان کی بد گولی سے خود بھی احتیاط کرتے ہیں دوسروں کو بھی احتیاط کی تلقین کرتے ہیں۔ جس پر ان کی زندگی کے واقعات بکثرت شاہد ہیں اسی مسئلے کا ایک واقعہ یہ ہے کہ حضرت مولانا محمد قاسمؒ سے کہی نے کہا کہ میرٹھ کے مولانا عبدالسمیع صاحب بیدل بکثرت میلاد پڑھتے اور پڑھواتے ہیں آپ کیوں نہیں کرتے۔ فرمایا کہ بھائی ان کو دب رسول ﷺ کا بڑا درجہ حاصل ہے دعا کرو مجھے بھی وہ حاصل ہو جائے۔ (ملفوظ حکیم الامت ۲۳۵۴ھ)

یہ سوال چونکہ دوسرے ایک عالم کی شخصیت اور اپنی ذلت کے مقابل کا تھا اس لئے اس وقت کسی مسئلہ کی تحقیق کی جاتی تو وہ اپنے نفس کی طرف سے مدافعت اور دوسرے عالم کی شخصیت پر جرح ہوتی اس سے اجتناب فرمایا اور توضیح کا پہلو اختیار کیا۔

اگر صرف مسئلہ پوچھا جاتا کہ مروجہ قسم کی محفل میلاد کا کیا حکم ہے تو وہی فرماتے جوان کی تحریرات اور فتاویٰ میں مذکور ہیں۔

ایک مشہور پیر صاحب بازاری عورتوں کو بھی مرید کر لیتے تھے۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانو تویؒ کی مجلس میں کچھ لوگ ان کو برا کہنے لگے تو حضرتؒ نے بہت خفا ہو کر فرمایا کہ تم نے ان کا عیب تو دیکھ لیا یہ نہیں دیکھا کہ وہ راتوں کو اللہ کے سامنے عبادت گزاری اور گریہ وزاری کرتے ہیں۔ لوگوں کو خاموش کر دیا اور اشارہ اس بات کی طرف کیا کہ کسی شخص کے اچھے عمل کو اچھا اور بُرے کو بُرا کہہ دینا تو دینی حق ہے لیکن کسی شخص کو برایا بھلا اس کے مجموعہ اعمال کی بناء پر کہا جا سکتا ہے

جس کا عموماً لوگوں کو علم نہیں ہوتا اس لئے کسی شخص کی ذات کو برا کہنے میں بہت احتیاط چاہیے۔

حضرت مولانا نانو تویؒ کے خاص بے تکلف مرید امیر شاہ خان نے ایک مرتبہ فضل رسول صاحب جو اس زمانے کے اہل بدعت میں سے تھے۔ ان کا نام بکاڑ کر فضل رسول کے بجائے فضل رسول حرف صاد کے ساتھ کہا۔ حضرتؒ نے ناراض ہو کر سختی سے منع فرمایا کہ وہ جیسے بھی کچھ ہوں تم تو آیت قرآن و لاتسابز وابالالقب خلاف کر کے گناہ گار ہوئی گئے۔ ایک معروف و مشہور اہل بدعت عالم جو اکابر دیوبندی کی تکفیر کرتے تھی اور ان کے خلاف بہت سے رسائل میں نہایت سخت الفاظ استعمال کرتے تھے۔ ان کا ذکر آ گیا تو فرمایا میں چ عرض کرتا ہوں کہ مجھے ان کے متعلق معدب ہونے کا گمان نہیں۔ کیونکہ ان کی نیت ان سب چیزوں سے ممکن ہے کہ تعظیم رسول ہی کی ہو۔

مجالس رمضان المبارک ۱۳۲۸ھ

ارشاد فرمایا کہ آج کل دو چیزیں منکرات میں سے بہت عام ہو گئیں۔ ایک تصویر، دوسرے اپرٹ اور الکھل کا استعمال۔ احقر نے عرض کیا کہ کیا اس ابتلاء عام اور عموم بلوے کی کوئی رعایت حکم میں کی جاسکتی ہے تو ارشاد فرمایا کہ حلّت و حرمت میں عموم بلوے معتبر نہیں بلکہ نجاست و طہارت میں معتبر ہے وہ بھی جبکہ کسی چیز کی نجاست و طہارت میں مجتہدین سلف کا اختلاف ہو۔

ارشاد فرمایا کہ جب میں مدرسہ دیوبند میں تعلیم پا کر فارغ ہوا تو یہ ارادہ تھا کہ اب اپنے اخراجات کا بار والد صاحب پر نہ ڈالوں گا۔ کہیں بقدر ضرورت ملازمت کر کے اپنی ضروریات پوری کروں گا۔ لیکن دس روپیہ سے زائد کی طرف کبھی دھیان بھی نہ جاتا تھا۔ (حالانکہ حضرت ایک متول گھرانے کے فرد تھے مگر اپنی زندگی سادہ رکھنے کے عادی)۔

پھر فرمایا کہ دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہونے کے فوراً بعد اپنے بزرگوں کی تجویز پر مدرسہ جامع العلوم کا نیپور میں مدرس مقرر ہو گیا اور میری تنخواہ وہاں پچیس روپیہ ماہوار تجویز ہوئی تو میں دل میں کہتا تھا کہ اتنا روپیہ کیا کروں گا۔

ارشاد فرمایا کہ انسان کے دل میں جو سوالات آتے رہتے ہیں ان کے جواب کبھی کسی عالم کی مجلس میں اور بیان میں خود بخود آجاتے ہیں مگر تجویز یہ ہے کہ خود سوال کرنا اور جواب حاصل کرنا زیادہ نافع بھی ہوتا ہے اور اس کا اثر بھی دریپا ہوتا ہے۔

قیافہ کے واقعات کا ذکر تھا۔ ارشاد فرمایا کہ نوشیرواں کے پاس آیا۔ پست قد آدمی آیا اور فریاد کی کہ مجھ پر فلاں شخص نے ظلم کیا ہے۔ نوشیرواں نے کہا تو غلط کہتا ہے۔ پست قد کا آدمی خود فتنہ ہوتا ہے۔ اس پر ظلم کون کر سکتا ہے۔ اس نے کہا بجا ہے مگر جس نے مجھ پر ظلم کیا ہے وہ مجھ سے زیادہ پست قد ہے۔ دیکھا گیا توبات صحیح نکلی۔

حضرت جن لوگوں کے نام خلاف شرع دیکھتے ان کو سنت کے موافق بدل دینے کا اہتمام فرماتے تھے مگر یہ کمال تھا کہ نام کی تبدیلی ایسی کردیتے تھے کہ نمایاں فرق معلوم نہ ہو اور نام بد لئے میں زیادہ الحسن نہ ہو۔

ایک انگریز خاتون کو مولا ناجیب احمد کیرانوی نے مسلمان کیا تھا۔ اس کا خاندانی نام نہادہ تھا۔ حضرت نے اس کا اسلامی نام نہیدہ رکھ دیا۔ اسی طرح ایک شخص کا نام پر بخش تھا حضرت نے اس کا نام کبیر بخش تجویز فرمادیا۔

ایک خاتون نے خط میں سوال کیا کہ ایام یہض میں قرآن مجید کی چند سورتوں کی تلاوت کا سونے کے وقت جو معمول ہے وہ جاری نہیں رہتا؟ تو اس وقت مجھے کیا پڑھنا چاہیے؟ حضرت نے تحریر فرمایا لا الہ الا اللہ، اور استغفار پڑھا کریں لیکن جس وقت نجاست کا تسلسل ہو اس وقت یہ بھی نہ پڑھیں کہ خلاف ادب ہے جیسے استنجا کے وقت۔

ارشاد فرمایا کہ ملازمت کا نپور کے زمانے میں ایک درویش کا نپور آئے۔ مجھ پر مہربان تھے۔ مجھے چار روپیہ روز ایک عمل دست غیب کا لکھ کر دے گئے۔ میں نے تحقیق کرنا چاہا کہ یہ چار روپیہ کہاں سے آئیں گے تو معلوم ہوا کہ اس عمل کے ذریعہ چار روپیہ مسخر ہو جاتے ہیں وہ جہاں کہیں جاویں۔ بعینہ پھر اس کے پاس واپس آجاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس میں جنات کے عمل کو

دخل ہوگا۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ تو چوری ہوئی۔ ہم نے یہ چار روپیہ گھر کا کوئی سامان کسی سے خریدا وہ چار روپیہ پھر واپس ہمارے پاس آگئے جو اس کا حق تھا اس لئے یہ عمل حرام ہے۔

افسوس ہے کہ بعض ناواقف درویش بھی اس کو کرامت سمجھ کر خوش ہوتے ہیں جو قطعی حرام اور گناہ ہے۔

حضرات انبیاء علیہم السلام کے معجزات ہر زمانے کے مناسب ظہور میں آئے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بے مثال سلطنت جن و انس اور وحش و طیور پر اور ہوا پر۔ یہ بھی بطور معجزہ تھی۔ اسی لئے سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ

هُب لِي ملکا لا ينبعى لاحد من بعدي۔ یا اللہ مجھے ایسی حکومت عطا فرما دیجئے جو
میرے بعد کسی دوسرے کو نہ ملے۔

اس کی وجہ یہی تھی کہ سلطنت و حکومت بطور مجزہ تھی اور مجزہ ہر پیغمبر کا غیر مشترک ہوتا ہے۔

جنکو کوئی کام کرنا ہوتا ہے انکو شبہات بہت کم ہوتے ہیں اور بہت جلد رفع ہو جاتے ہیں زیادہ تدقیق میں وہ پڑتے ہیں جنکو کام کرنا نہیں ہوتا۔

ارشاد فرمایا کہ یہرا تجربہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے پیش نظر کوئی مقصد ہوتا ہے اور وہ اس کے کام کرنا چاہتے ہیں ان کو شبہات بہت کم پیش آتے ہیں۔ اور ذرا سے اشارہ میں دفع ہو جاتے ہیں۔ سوالات اور شبہات کی بھرما رصرف وہ لوگ کیا کرتے ہیں جن کو کام کرنا نہیں ہوتا۔

یہاں سے دہلی جانے والے کو جب کہیں راستہ میں شبہ ہو جائے کسی سے راستہ پوچھتا ہے تو بقدر ضرورت معلوم ہو جانے پر چلتا شروع کر دیتا ہے، بہت زیادہ تدقیقات میں نہیں پڑتا نہ زیادہ قیل و قال کرتا ہے اسی طرح کسی بھوکے آدمی کو کھانا دیا جائے تو وہ بہت سوالات و تدقیقات میں نہیں پڑتا کہ گندم کہاں کا ہے چاول کہاں سے آیا ہے آٹا کہاں پیسا گیا ہے۔ وہ اپنے کام سے کام رکھتا ہے کہ کھانا بھوک کو رفع کرنے کے لئے اللہ نے دے دیا ہے اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔

حضرات صحابہ کرام کا دین کے معاملات میں یہی رنگ تھا کہ کام کی دھن لگی ہوئی تھی۔ گوش

برآواز رہتے جب کسی کام کا حکم ہوفور اس طرف چل دیں۔ اول تو دین کے معاملات میں ان کو شبہات و سوالات پیدا ہی نہ ہوتے تھے اور جو ہوتے تو ادنیٰ اشارہ اور مختصر تقریر سے کافور ہو جاتے تھے اور کیوں نہ ہو کہ پچی اور صحیح بات کا یہی طبعی اثر ہے۔ حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:-

یعنی "پچی بات اطمینان کا سبب نہیں
ہے اور جھوٹ شک و شبہ کا"۔

الصدق طمانينة والكذب ريبة

ایک طرف بات سیدھی پچی دوسری طرف قبول اور اطاعت کا جذبہ قوی، اس لئے شبہات کی کوئی عمر ہی نہ ہوتی تھی۔

حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظمؓ کے درمیان ایک معاملہ میں اختلاف رائے پیش آیا۔ صدق اکبرؓ نے ایک دو مرتبہ فرمادیا:-

یعنی "خدا کی قسم خیر اسی میں ہے"۔
والله ہو خیر، والله ہو خیر۔

فاروق اعظمؓ فرماتے ہیں کہ ان کلمات سے مجھے بھی اس معاملہ میں شرح صدر ہو گیا جس میں حضرت صدیقؓ کا شرح صدر پہلے ہو چکا تھا اور اختلاف رائے ختم ہو گیا۔
یہ ظاہر ہے کہ والله ہو خیر نہ کوئی معاملے اور مسئلے کی دلیل ہے نہ کسی بحث کا جواب ہے مگر مطالب حق کے لئے غور و فکر کی دعوت ہے وہ ہی اس جگہ کافی ہو گئی۔

باب جو بنیے کو نصیحت کرتا ہے عادة وہ دائم بیان نہیں کرتا۔ لمی تقریر نہیں کرتا۔ بنیے کی مصلحت کو مختصر لفظوں میں بتلاتا ہے وہی کافی ہو جاتی ہے قرآن کریم کے ارشادات عموماً اسی رنگ کے ہوتے ہیں۔

کسی مسلمان کی تکفیر یا تفسیق کے معاملہ میں بڑی احتیاط لازم ہے
ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو اپنے انجام اور آخرت کی فکر درپیش ہوتی ہے اس کی زبان دوسروں کے حق میں آزادانہ نہیں کھلتی۔ وہ کسی کافر کو بھی حقارت کی نظر سے نہیں دیکھتے کیونکہ اس

کے اور اپنے انجام کا علم نہیں۔

یقین کا فرما بخواری منگرید

کہ مسلمان بودنش باشد امید

پھر فرمایا کہ علماء اہل فتویٰ کو مجبور ہونا پڑتا ہے کہ یہ فیصلہ کرے کون مسلم ہے کون کافر۔ کون صالح ہے کون فاسق۔ مگر کسی معین شخص کے لئے ایسا حکم کرنا بڑا سخت ہے۔ بڑی احتیاط لازم ہے اور الحمد للہ علامے حق ہمیشہ اس کی رعایت رکھتے ہیں لیکن بے فکرے لوگ پھر بھی علماء پر زبان طعن دراز کرتے ہیں کہتے ہیں۔ کہ یہ علماء لوگوں کو کافر بناتے ہیں۔ میں ان کے جواب میں کہتا ہوں کہ کافر بناتے نہیں کافر بتاتے ہیں۔ یعنی جو شخص اپنے باطل عقیدے کے سبب کافر ہو چکا ہے مگر اس کافر تھی بے مسلمانوں کو تنبیہ کرنے کے لئے بتاتے ہیں کہ یہ اپنے عمل سے کافر ہو چکا ہے۔

تکبیر کی حقیقت اور ایک اشکال کا جواب

ارشاد فرمایا کہ اوصاف کمال میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے مختلف درجات رکھے ہیں کوئی ناقص ہے کوئی کامل کوئی اکمل۔ مثلاً ایک شخص کی نگاہ توی بہت باریک اور دور کی چیز کو دیکھتی ہے دوسرے کی ضعیف ہے جو ان کو نہیں دیکھ سکتی۔ ایک شخص کو دو آنکھیں سالم ملی ہیں دوسرے کی دونوں یا ایک آنکھ ضائع ہو چکی ہے۔ اب اگر کوئی یہاں آدمی اپنے آپ کو نا یہاں سے اکمل سمجھے یا قوی البصر بہ نسبت ضعیف البصر کے اپنے کو اکمل سمجھے تو یہ تکبیر میں داخل نہیں۔ اس کے خلاف پر مجبور کیا جائے تو تکلیف مالا یطاق ہو جائے گی۔ ایک شخص جو کسی کتاب کا ایک حرف نہ پڑھ سکتا ہو نہ لکھ سکتا ہو دوسرا آدمی عالم فاضل حافظ و قاری اور مفسر محدث ہے۔ وہ یہ کیسے باور کرے کہ ناخواندہ آدمی اس سے زیادہ کامل ہے۔ اس لئے اگر ایک عالم یہ سمجھے کہ مجھے لکھنا پڑھنا آتا ہے۔ اس وصف میں میں بہ نسبت دوسرے کے کامل ہوں اور یہ کمال بھی کوئی میری ذاتی جاگیر نہیں بلکہ اللہ جل شانہ کا انعام اور عطا یہ ہے تو یہ تکبیر میں داخل نہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اپنے کو کسی خاص وصف میں دوسرے سے اکمل جانا تکبیر نہیں۔ ہاں افضل اور بہتر جانا تکبیر ہے۔ کیونکہ افضل اور بہتر ہونے کا مدار اللہ

تعالیٰ کے نزدیک قبول اور انجام بخیر ہونے پر ہے اس کا کسی کو علم نہیں۔ اس لئے اپنے آپ کو کسی ادنیٰ سے ادنیٰ انسان سے افضل جانتا جائے نہیں۔

حاضرات مخصوص خیالی چیز اور مسموم ریزم کی قسم ہے

ارشاد فرمایا کہ بہت سے گندے والے حاضرات کے ذریعہ معلومات حاصل کرنے کے قائل ہیں میرا تجربہ یہ ہے کہ حاضرات مخصوص خیالات کا تصرف ہے اگر اس مجلس میں کوئی آدمی یہ خیال جما کر بیٹھے کہ یہ کچھ نہیں، بالکل باطل ہے تو حاضرات کا ظہوراً سے نہ ہو سکے گا۔ ہم نے خود اس کا تجربہ کیا ہے کہ جب تک یہ خیال جمائے بیٹھے رہے حاضرات والے عاجز ہو گئے کچھ نظر نہ آیا اور جب یہ خیال ہٹالیا تو سب کچھ نظر آنے لگا۔

علم کلام کا صحیح مقام

ارشاد فرمایا کہ علم کلام کی ضرورت بدعاۃ اعتقاد یہ کی وجہ سے پیدا ہوئی لوگوں نے عقائد اسلامیہ میں طرح طرح کے شبہات پیدا کرنے شروع کئے تو علماء کو شبہات دور کرنا ضروری ہو گیا اس سے علم کلام پیدا ہوا۔ اور یہ تھیک ایسا ہی ہے کہ جیسے ہمارے زمانے میں علم فقہ میں جزئیات فقہیہ ہے۔ اور یہ تحقیق کہ نماز میں فرض کرنے ہیں واجب کرنے اور سنت موقوکدہ کیا ہیں۔ اور مستحبات یا مکروہات کیا۔ جب لوگوں نے نماز کی ادائیگی میں کوتا ہیاں، اور ناقص پیدا کئے تو فقہا کے لئے ضروری ہو گیا کہ اعمال نماز کا تجزیہ کر کے بتائیں کہ اس میں کون سا فرض یا واجب ہے جس کے بغیر نماز ادا نہیں ہوتی۔ کون شامل مسنون یا مستحب ہے جس کے ترک کر دینے کے باوجود نماز ادا ہو جاتی ہے گونا قص بھو۔

حضرات صحابہ کرام کے زمانے میں نہ یہ بدعاۃ اعتقاد یہ پیش آئی تھیں اور نہ احکام شرعیہ میں اتنے ناقص اور کوتا ہیاں اس لئے اس وقت نہ علم کلام کی ضرورت تھی نہ موجودہ طرز کے علم فقہ کی۔ بعد میں جب ضرورت پیدا ہوتی تو یہ علوم و فنون ضروری سمجھے گئے مگر ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ علم کلام کی تحقیقات کو صرف مانع اصطلاحی کا درجہ دیا جائے جس کا حاصل ایک احتمال پیدا

کرنا ہے کہ یوں بھی ہو سکتا ہے اس کو عقیدہ کا درجہ دینا حد سے تجاوز کرنا ہے جن حضرات علماء نے علم کلام کے اشتغال کو منع کیا ہے وہ اسی غلو اور حد سے تجاوز کی بناء پر کیا ہے مثلاً حضرات متکلین نے فلاسفہ کے اس قول کو رد کیا کہ جسم ہیولی اور صورت سے مرکب ہے اس کے بالمقابل جسم کی ترکیب اجزاء لاستجزی سے قرار دی۔ تو جو لوگ جزء لاستجزی کے مسئلے کو مانع یعنی احتمال پیدا کرنے کے درجے میں رکھیں وہ کوئی خلاف شرع کام نہیں کر رہے لیکن اگر یہ عقیدہ بنالیں کہ جسم کی ترکیب اجزاء لاستجزی سے ہے تو شریعت میں اس کی کوئی دلیل نہ ہونے کی بناء پر ایسا عقیدہ رکھنا غلط اور ناجائز ہو گا۔

عمل میں احتیاط اور بدگمانی میں فرق

ارشاد فرمایا کہ گلستان اور بوستان کے دو شعروں میں تضاد ہے شیخ سعدیؒ نے گلستان میں تو یہ فرمایا کہ ۔

ہر کرا جامہ پارسا بینی
پار سادان و نیک مردان کار

اس کا حاصل یہ ہے کہ کسی کے باطنی معاملات کی تفتیش نہ کرے جو ظاہر میں نیک ہو اس کو نیک ہی سمجھے۔

اور بوستان میں فرمایا کہ ۔

نگہ دار دا ان شوخ در کیسہ ذر
کہ داند ہمہ خلق را کیسہ زر

اس کا حاصل یہ ہے کہ سارے لوگوں کو چور سمجھے۔

حضرتؒ نے فرمایا کہ در حقیقت یہ کوئی تضاد نہیں۔ پہلا شعر اعتقاد رکھنے کے متعلق ہے کہ جن کی ظاہری صورت نیک لوگوں کی دیکھو اس کو نیک ہی اعتقاد کرو۔ بلا وجہ بدگمانی نہ کرو۔ اور بوستان کا شعر عملی احتیاط اور معاملات میں بیدار مغزی کیلئے ہے کہ عمل میں ہر ایک نیک و بد سے اپنی چیز کی ایسی حفاظت کرو جیسے چوروں سے کی جاتی ہے۔ پھر فرمایا کہ حاصل یہ ہے کہ اعتقاد رکھنے کی

صورت میں تو گلستان پر عمل کرو اور معاملہ کرنے میں بوستان پر۔

احقر کہتا ہے کہ حدیث میں بھی اس طرح کے بظاہر مختلف ارشادات آئے ہیں۔ ایک حدیث میں اصل الجنتہ بلہ فرمایا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نیک لوگ سب بھولے جھالے ہوتے ہیں اور ایک دوسری حدیث میں ارشاد ہے کہ مومن ذہین صاحب فراست ہوتا ہے وہ کسی کے دھوکے میں نہیں آتا۔

ان دونوں حدیشوں کا بھی محمل ہے کہ پہلی حدیث میں مومن کا یہ حال بتایا ہے کہ وہ دوسروں کے عیوب پر نظر نہیں کرتا۔ اپنے کام سے کام رکھتا ہے اور دوسری حدیث میں معاملات کے اندر احتیاط کرنے کی تلقین ہے تا کہ دھوکہ نہ کھائے۔ واللہ اعلم

طريقِ تصوف میں ترک تعلقات اور ترک عزائم

ارشاد فرمایا کہ میرے نزدیک اس طریق کا پہلا قدم یہ ہے کہ آدمی تمام تعلقات سے بیکسو ہو کر اصلاح باطن کی فکر میں لگے اور اپنے سب عزم اور ارادوں کو بھی شیخ کے حوالے کر کے فارغ ہو جائے۔ تعلقات اس طریق میں سخت مضر ہیں بلکہ عزم تعلقات بھی مضر ہے۔

کسی شخص میں کوئی عیوب دیکھو تو اسکے دوسرے کمالات سے قطع نظر نہ کرو ارشاد فرمایا کہ میرا تجربہ ہے کہ جو عورتیں انتظام میں پھوہڑ (بدنظم) ہوتی ہیں ان میں جو ہر عفت پورا ہوتا ہے اگر کوئی شخص اسکیں بتلا ہو تو اس کو چاہیے کہ اس کی عفت و پاکدامنی کے اعلیٰ وصف کا استحضار کیا کرے تا کہ دل کی کدو رت دور ہو جائے۔ قرآن کریم کی یہی تعلیم ہے عسی ان یجعل اللہ فیہن خیراً کثیراً۔ یعنی ”کچھ بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان میں ہی خیر کثیر اور بڑی بھلائی عطا فرمادیں“۔

بیوی کو واجب نفقة سے کچھ زائد دینے کا مشورہ

ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے دوستوں کو مشورہ دیا ہے کہ بیوی کو جو تم بطور نفقة کے دیتے ہو وہ

اس کی شرما مالک نہیں ہوتی۔ اگر کچھ فوج جائے تو وہ شوہر کی ہی ملکیت ہوتی ہے بجز اس کے کہیے تصریح کر کے اس کے پرد کرے کہ یہ تمہاری ملکیت ہے اس لئے گھر کے خرچ کے لئے جو رقم اس کو دی گئی ہے وہ اس کو اپنی ضروریات سے زائد کسی کام میں خرچ کرنے کی مجاز نہیں۔ مثلاً وہ اپنے کسی حاجت مند عزیز کی یا اور کسی مسکین کی مدد کرنا چاہے تو گھر کے خرچ کے لئے دی ہوئی رقم سے خرچ کرنے کا اختیار نہیں۔ اس لئے مصلحت اس میں ہے کہ یہوی کو نفقة ضروریہ کے علاوہ بھی کچھ رقم مالک بنانے کا درجہ آزادی سے اس کو اپنی منشاء کے مطابق خرچ کر سکے۔ دوسروں کی دست نگرنہ رہے۔ اور فرمایا کہ یہوی کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ آپ کی خاطر اس نے اپنے سب تعلقات کو چھوڑ دیا۔ میں تو اہل طریق سے کہا کرتا ہوں کہ ایک نو عمر لڑکی جو کام ایک دن میں کر کے دکھادیتی ہے وہ تم نے برسوں میں بھی اللہ کے لئے کیا کہ سب تعلقات کو اس پر قربان کر دیتے۔

امراء دنیا کے ساتھ بزرگوں کا معاملہ

ارشاد فرمایا کہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر بلکی قدس سرہ کی خدمت میں جب امراء درویش میں سے کچھ لوگ آتے تھے تو ان کے ساتھ کبھی بے رخی کا معاملہ نہ کرتے بلکہ حسب حیثیت ان کا اکرام فرماتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ بعض جاہل یا مغلوب الحال صوفی دنیاداروں سے بے رخی اور اعراض کا معاملہ کرتے ہیں یہ سنت کے خلاف ہے کیونکہ جب یہ لوگ کسی عالم یا درویش کے پاس حاضر ہوں تو یہ ظاہر ہے کہ اس میں کوئی دنیوی غرض تو ہوتی نہیں، دین ہی کا فائدہ حاصل کرنے کے لئے آتے ہیں اس وقت وہ نعم الامیر (اچھا امیر) کہلانے کے مستحق ہیں بزرگوں نے فرمایا ہے:-

نعم الامیر علی باب الفقیر و بنیں الفقیر یعنی باب الامیر۔ یعنی ”وہ امیر بہت اچھا ہے جو کسی درویش کے دروازہ پر جائے اور وہ درویش بہت برا ہے جو کسی امیر کے دروازے پر (دنیا کی غرض کے لئے) جائے۔

البته یہ ضروری ہے کہ آنے والے امراء سے اپنی کوئی حاجت پیش نہ کرے سب سے استغنا کا معاملہ رکھے جب ہی ان کو کچھ فائدہ پہنچ سکتا ہے۔

دیانت و امانت وہ ہے کہ ہر قدم ہر معاملے میں اسکی فکر رہے

شاہ اطف رسول صاحبؐ ایک بزرگ حضرت کے خلیفہ مجاز تھے۔ تھانہ بھون ہی میں قیام رہتا تھا۔ صاحب کشف و کرامات تھے۔ ایک روز حضرتؐ نے ان کا واقعہ نقل فرمایا کہ ان کے پاس ایک کارڈ بیرنگ آیا۔ (پہلے کارڈ بھی لفافہ کی طرح بیرنگ چلتے تھے) انہوں نے بے ضرورت سمجھ کر اس کو بغیر پڑھنے ہوئے واپس کر دیا۔ حاضرین میں سے کسی نے کہا کہ آپ کارڈ کا مضمون تو پڑھ لیتے پھر ہی واپس کرتے تو شاہ صاحبؐ نے فرمایا کہ مضمون پڑھ لینے کے بعد واپس کرنا خیانت ہوتی کیونکہ کارڈ سے فائدہ اٹھانا مقصود ہے وہ فائدہ میں اٹھا لیتا اور ڈاک خانہ کو اس کی خدمت کا معاوضہ نہ ملتا۔ ایسے چھوٹے چھوٹے معاملات پر نظر انہی لوگوں کی جاتی ہے جن کے دل پر آخرت کی فکر اور خوف خدا چھایا ہوا ہو۔

ارشاد فرمایا کہ علماء کی ایک مجلس میں ایک سرکاری افسر موجود تھے ایک عالم نے اپنی بات ان سے چھپانے کے لئے عربی زبان میں بات شروع کی۔ یہ افسر بزرگوں کی صحبت میں بیٹھے ہوئے تھے اور عربی زبان جانتے تھے فوراً بول اٹھے کہ غالباً آپ عربی زبان میں جوبات کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کا کوئی راز ہے اس لئے میں اطلاع دیتا ہوں کہ میں عربی زبان سمجھتا ہوں اگر اس کا اظہار نہ کروں تو خیانت ہوگی۔ اس لئے میں یہاں سے اٹھ جاتا ہوں یہ عالم صاحب حیرت میں رہ گئے اور فرمایا کہ اب تک تو واقعی راز ہی تھا آپ سے اس کا اخفاء مقصود تھا۔ مگر اب آپ کی دیانت داری معلوم کر کے آپ بھی ہمراز ہو گئے۔ میں صفائی سے اردو ہی میں بات کرتا ہوں آپ تشریف رکھیں۔

یہ سب بزرگوں کی صحبت کا اثر تھا ورنہ آج کل تو لوگ اس کو بڑی عقائدی سمجھتے ہیں کہ کسی کا راز ان کو معلوم ہو جاتا اور پھر جاتے پھرتے ہیں کہ ہم نے ان کو بے وقوف بنایا ان کی سب باتیں

معلوم کر لیں۔ یہ ہیں آداب معاشرت جس سے مسلمان مسلمان بنتا ہے۔

مسئلہ تقدیر کی حقیقت اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی حقیقت معلوم ہونے پر موقوف ہے وہ کس کو حاصل نہیں ہو سکتی

فرمایا کہ ایک زمانے میں مسئلہ تقدیر میں مجھے ایسی الجھن پیش آئی کہ سخت پریشان رہتا تھا موت کو زندگی پر ترجیح دیتا تھا مگر پھر سکون ہوا تو اس طرح کہ اس کی حقیقت معلوم کرنے کے درپے ہونا ہی بے عقلی ہے کیونکہ تقدیر درحقیقت اللہ جل شانہ کی ایک صفت ہے اور جس طرح انسان کو حق تعالیٰ کی ذات کی کنہ اور حقیقت کا علم ناممکن ہے۔ اسی طرح اس کی کسی صفت کی اصل حقیقت کا ادراک بھی ناممکن ہے۔ جس طرح ہم ذات و صفات پر بغیر علم حقیقت کے ایمان لائے ہیں اسی طرح اس پر ایمان لانا اواجب ہے۔

جو کام لا یعنی (بے فائدہ) ہو وہ اگر چہ گناہ نہ ہو مگر مضمضہ بھی ہے ارشاد فرمایا کہ انسان کا ہر عمل خواہ دین کے متعلق ہو یا دنیا کے، سرسری نظر میں تجزیہ کیا جائے تو اس کی تین قسم معلوم ہوتی ہیں اور بعض حضرات نے تین ہی قسمیں لکھی بھی ہیں۔ ایک وہ عمل جو اس کے لئے مفید ہے دوسرے وہ جو مضمضہ ہے تیرے وہ جو نافع ہے نہ مضمضہ۔ لیکن غور کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ درحقیقت یہ تیسرا قسم بھی دوسری یعنی مضمضہ کی فہرست میں داخل ہے کیونکہ جتنا وقت اور تو انہی اس بے فائدہ کام میں صرف ہوئے اگر وہ کسی مفید کام میں صرف کئے جاتے تو اس سے بڑا فائدہ ہوتا اس فائدہ سے محرومی خود ایک مضمضہ اور خسارہ ہے جیسے کوئی تاجر اپنا سرمایہ کسی کام میں لگائے اور اس سے نفع ہونہ نقصان گزوہ پھر بھی اس کو اپنا نقصان اور خسارہ سمجھتا ہے کہ متوقع نفع سے محرومی ہو گئی۔

دین کے معاملے میں شبہات کا اصل سبب اللہ کی محبت و عظمت کی کمی ہے ارشاد فرمایا کہ دین کے احکام و معاملات میں شبہات پیدا ہونے کا اصل سبب یہ ہوتا ہے کہ

جس شخص کے دل میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ ﷺ کی عظمت اور محبت پوری نہیں ہوتی وہ طرح طرح کے شبہات کا شکار ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ صحابہ و تابعین کبھی اس طرح کے شبہات میں بتنا نہیں ہوئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شبہات کا اصل علاج بھی دو چیزیں ہیں۔ محبت و عظمت۔ اور ان دونوں کے حصول کا طریقہ اہل محبت و عظمت کے ساتھ جاگست ان کی محبت میں رہنا ہے جس کا جی چاہے تجربہ کر کے دیکھ لے کہ کسی محقق بزرگ اللہ والے کی خدمت میں چند روز عقیدت کے ساتھ بیٹھنے سے اکثر شبہات خود بخوبی دور ہو جاویں گے جو برسوں کے بحث و مباحثت سے کبھی دور نہ ہوئے۔

اور فرمایا کہ اگر کسی شخص کو طبعاً یہی پسند ہو کہ احکام دین کے اسرار اور حکمتیں اس کو معلوم ہو جاویں تو اس کا طریقہ بھی یہی ہے کہ اسرار کی تفتیش اور اس میں بحث و مباحثہ کو ترک کرے۔ ان قیاد و اطاعت میں لگ جائے تو یہ اسرار اس پر خود بخوبی مکشف ہو جائیں گے پھر فرمایا و اللہ ثم والله یہی طریق ہے۔

میں نے جب سے درس مدرس کا کام شروع کیا اس کا التزام کر لکھا ہے کہ جو بات مجھے معلوم نہ ہو صاف کہہ دیا کہ مجھے معلوم نہیں۔ خواہ شاگرد سوال کرے یا کوئی اور یہ بات مجھے اپنے استاذ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب سے حاصل ہوئی ہے۔

تجربہ شاہد ہے کہ دنیا میں اسلام مباحثوں اور تحقیقی مجلسوں سے نہیں پھیلا بلکہ عمل اور اطاعت سے پھیلا ہے ایک انگریز نے لکھا ہے کہ ہندوستان میں اسلام دو جمادات سے پھیلا ہے تجارت اور صوفیہ اور فرمایا کہ حقیقت میں دین کی سب سے بڑی تبلیغ یہ ہے کہ اپنے حالات معاملات اخلاق کو درست کر لیا جائے اس کو دیکھ کر لوگ خود بخوبی مسلمان اور نیک ہو جاویں گے۔

مدارس اسلامیہ کے لئے ایک مفید مشورہ

عام طور سے مدارس اسلامیہ کے منتظمین ان کی مشکلات کی وجہ سے مجبور ہوتے ہیں۔ اور خزانہ وقف سے قرض دینا درست نہیں۔ حضرت قدس سرہ نے دارالعلوم دیوبند کے ارباب انتظام

کو یہ مشورہ دیا کہ اس کام کے لئے الگ چندہ کر کے ایک قرضہ فنڈ قائم کر لیا جائے اسی میں سے قرض دیا جائے۔ اور خود پیش قدیمی کر کے اپنی طرف سے پانچ سور و پیسے اس مدد کے لئے عطا فرمادیئے (الحمد لله دارالعلوم کراچی میں بھی ایک بندہ خدا نے قرضہ کے لئے ایک رقم جمع کر دی ہے قرض اسی مدد سے دیا جاتا ہے۔ ۲۰ منہ)۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ میں تو سب اہل مدارس سے کہتا ہوں کہ مدرسین، ملازمین، طلباء کے متعلق جتنے معاملات اور حالات پیش آتے ہیں اہل فتویٰ علماء سے استفتاء کر کے ان سب کے احکام جمع کر لئے جاویں وہی مدارس اسلامیہ کا قانون ہو جاوے۔ اس میں سب سے بڑی مصلحت تو اتباع شریعت ہے اور اہل انتظام کے لئے بھی یہ سہولت ہے کہ جس شخص کی نشانہ کے خلاف ان کو کچھ کرنا پڑے گا۔ وہ شرعی قانون پیش کر کے اپنا عذر بتا سکیں گے اور دوسروں کے لئے بھی بجت ہو گا۔

حقیقی تصوف کے احکام و مسائل در حقیقت شرعی احکام ہیں مگر کتب فقہ میں

انکی تدوین ایک خاص وجہ سے نہیں ہوتی

عام طور پر لوگوں نے تصوف کی اصل حقیقت کو نہیں سمجھا۔ اور ادعا شغال اور کشف والہام یا اذواق و مواجهہ کا نام تصوف رکھ دیا ہے اسی سب سے وہ احکام شرعیہ سے الگ سامنوس ہوتا ہے در حقیقت طریقت نام ہے شریعت پر مکمل اور پورے پورے عمل کا جس میں اعمال ظاہرہ نماز روزہ وغیرہ کی طرح اعمال باطنہ کی اصلاح بھی ایک اہم جز ہے اعمال باطنہ میں سب سے پہلے عقائد کی درستی اس کے بعد اخلاق کی اصلاح ہے تکبیر، حسد، بغض، حرص، حب جادہ و مال وغیرہ سے بچنے، تواضع، قناعت اور صبر و شکر اللہ و رسول ﷺ کی کامل محبت وغیرہ حاصل کرنے کا اہتمام ہے۔

امام عبدالوهاب شعرائی نے اپنی کتاب ایسا واقعیت والجوہر جلد اول فصل سوم میں لکھا ہے کہ اعمال باطنہ اور ان کے احکام کی تدوین سلف صالحین صحابہ و تابعین پھر آئندہ مجتہدین کے زمانے میں اس لئے ضروری نہیں سمجھی گئی کہ ان کا اہتمام عملی طور پر ہر مسلمان کے گھرانے میں ایسا تھا کہ ان کا ہر شخص واقف اور ان پر عامل تھا۔ بعد میں جب لوگوں میں جہالت غفلت اور کوتا ہیاں شروع

ہوئیں تو عہد سلف ہی کے آخری دور میں اس کی تدوین بھی شروع ہو گئی۔ اور یہ معاملہ ایسا ہی ہے جیسے آنحضرت ﷺ کے عہد مبارک میں حدیث و فقہ کی تدوین نہیں ہوتی۔ اکابر امت نے جوں جوں ضرورت تدوین محسوس کی اسی تدریج سے حدیث کی پھر فقہ اور اصول فقہ کی تدوین ہوتی۔

خلاصہ یہ ہے کہ اعمال باطنہ کے احکام کتب فقہ میں مدون نہ ہونے سے اس دھوکے میں نہ پڑیں کہ شرعی احکام نہیں یا ان کی اہمیت نماز روزہ وغیرہ احکام سے کچھ کم ہے۔

شیخ کی مجلس میں بیٹھنے والوں کو کیا کرنا چاہیے

ارشاد فرمایا کہ جو طالب اپنے شیخ کی مجلس میں بیٹھنے اس کے لئے ادب یہ ہے کہ جب شیخ کچھ کلام کرے تو پوری توجہ سے اس کو سنے۔ اور جب خاموش رہے تو یہ ذکر اللہ میں مشغول رہے اگر چہ ذکر قلبی بھی اس وقت کافی ہے مگر میں ذکر اسلامی کو اس لئے ترجیح دیتا ہوں کہ ذکر قلبی میں اکثر غفلت پیش آ جاتی ہے اور یہ آدمی سمجھتا رہتا ہے کہ میں ذکر میں مشغول ہوں اور فرمایا کہ ذکر قلبی کی دو صورتیں ہیں ایک الفاظ متحیله یعنی اللہ تعالیٰ کے کسی نام کے الفاظ دھیان میں رہیں۔ دوسرے محض تفکر یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اس کی رحمت اور اس کی نعمتوں میں غور و فکر۔

نماز میں خشوع اور حضور قلب کا آسان نسخہ

ارشاد فرمایا کہ خشوع نماز کی روح ہے اس کے حاصل کرنے کے لئے مشائخ نے بہت سے طریقے اور اعمال لکھے ہیں تجربہ شاہد ہے کہ اس کی کوشش میں زیادہ کھپ جانے سے تکان پھر اکتا ہے پیدا ہو جاتی ہے اس میں اعتدال چاہیے اور اس کی حد یہ ہے کہ جو الفاظ نماز میں زبان سے ادا کرتا ہے وہ محض یاد سے پڑھتا نہ چلا جائے بلکہ ایک ایک لفظ پر اس طرح دھیان لگائے جیسے کچھ حافظ قرآن کے الفاظ کو سوچ کر نکالتا ہے اور اس میں بھی اگر کسی وقت غفلت ہو جائے تو اس کے قلق اور آئندہ کی فکر چھوڑ کر فوراً اسی طریقہ پر آ جائے کہ جو الفاظ زبان سے ادا کر رہا ہے اس پر دھیان لگادے۔ نماز میں استغراق کی کیفیت مطلوب نہیں کہ اس کو اور کسی چیز کی

خبر ہی نہ رہے۔ استغراق اور چیز ہے خشوع اور چیز۔ رسول اللہ ﷺ کو نماز میں استغراق نہیں ہوتا تھا۔ اس پر وہ حدیث شاہد ہے جس میں فرمایا ہے کہ جماعت نماز کے وقت اگر کسی بچے کے رونے کی آواز آتی تھی تو آنحضرت ﷺ نماز کو محض فرمادیتے تھے کہ بچے کی ماں اس کے رونے سے نماز میں پریشان ہوگی۔ اگر استغراق کی کیفیت ہوتی تو بچے کے رونے کی آواز کیسے آپ کو معلوم ہوتی۔ اور حقیقت بھی یہ ہے کہ استغراق ایک غیر اختیاری حالت ہے اس میں ترقی نہیں ہوتی ترقی انہی اعمال میں ہوتی ہے جو اپنے اختیار سے کئے جاویں۔ خشوع بھی ایک اختیاری عمل ہے وہی مطلوب ہے۔

علماء کو صوفیاء پر ترجیح

ارشاد فرمایا کہ میں ہمیشہ علماء کو صوفیہ پر ترجیح دیتا ہوں کیونکہ دین اور اس کی حدود کے محافظ علماء ہی ہیں اسی لئے میں علماء کے لئے خلوت نہیں پر اس کو ترجیح دیتا ہوں کہ وہ درس تدریس و ععظ و تبلیغ یا تصنیف و فتویٰ میں اپنا زیادہ وقت صرف کیا کریں۔ یہ میرا فیصلہ عقلی ہے ورنہ طبعی طور پر میں صوفیاء سے عشق رکھتا ہوں۔

اہل طریقت کے لئے ہدایت

فرمایا کہ ذکر اللہ اور توافل و عبادت میں ایک خاص لذت ہے جو دنیا کی ساری لذتوں سے فاقد ہے مگر مبتدی کو اس لذت و حلاوت کی فکر میں نہ رہنا چاہیے کیونکہ اعمال دین مبتدی کے لئے دواء کا حکم رکھتے ہیں۔ دواؤں میں مزا اور لذت کہاں۔ البتہ منہجی کے لئے یہی اعمال غذالذیذ بن جاتے ہیں پھر فرمایا کہ لوگ اس طریق میں مزے کے طالب ہیں حالانکہ یہاں تولو ہے کے پختے چباتے ہیں جب تک اس منزل سے نہ گزر جائے لذت و حلاوت حاصل نہیں ہوتی۔

جس کسی کو کوئی کام بتاؤ آسان کر کے بتاؤ خواہ وہ اپنا نوکری ہی ہو

ارشاد فرمایا کہ عام طور پر لوگ کسی کو کام کے لئے مامور کرتے ہیں اور پوری بات بتاتے نہیں

پھر وہ گز بڑ کرتا ہے تو خفاء ہوتے ہیں۔ خصوصاً شاگردوں اور گھر بیوکروں کے معاملے میں یہ بہت پیش آتا ہے ادب کی بات یہ ہے کہ کسی کام پر مأمور کرنے کے وقت پوری بات صاف اور سہل طریقے سے سمجھادی جائے۔

کشف والہام کے ذریعہ جو علم حاصل ہو قابلِ اطمینان نہیں اطمینان صرف اس علم سے ہو سکتا ہے جو بواسطہ نبی کریم ﷺ ملا ہے

ارشاد فرمایا کہ شیخ اکبر مجی الدین ابن عربی کی تحقیق اگرچہ یہ ہے کہ مشائخ کاملین کے کشف والہام میں غلطی نہیں ہوتی۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے فرمایا ہے کہ جو علم کسی امتی کو کشف والہام کے طریقے سے حاصل ہوتا ہے وہ مستحکم قابلِ اطمینان نہیں بلکہ مکمل اطمینان اس علم پر ہو سکتا ہے جو رسول اللہ ﷺ کے واسطے سے ملتا ہے۔ فرمایا کہ کشف والہام میں بعض اوقات صاحبِ کشف کا امتحان بھی مطلوب ہوتا ہے اور نبی کریم ﷺ کی تعلیم میں ابتلاء و امتحان کا امکان نہیں کیونکہ نبی کی شان صرف ہادی کی ہوتی ہے۔

ضلالت و گمراہی اس کے راستے میں نہیں آ سکتی۔ بخلاف کشف کے کہ اس کا تعلق تکوینی امور سے ہے اور تکوین و تقدیر میں ہدایت و ضلالت دونوں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی شان جدا ہے۔ ہدایت اور ضلالت دونوں ان کی قدرت و مشیت سے ہوتی ہیں اسی لئے خواب میں شیطان ملعون اپنی خدائی کا دعویٰ تو کر سکتا ہے مگر خواب میں بھی اس کو یہ کہنے کی قدرت نہیں دی گئی کہ وہ اپنے آپ کو نبی یا رسول ظاہر کرے۔ کیونکہ ایسی صورت میں انسان دھوکہ کھا سکتا ہے اور خدائی کے دعویٰ میں ایسا دھوکہ نہیں ہو سکتا ادنیٰ عقل والا بھی خود اس کو باطل سمجھے گا۔

طریق میں مبتدی اور منتمی کے حالات کا فرق

ارشاد فرمایا کہ ابتداء میں انسان کا قلب اُسکی نظر کے تابع ہوتا ہے جس طرف نظر جاتی ہے اسی طرف قلب کا دھیان لگ جاتا ہے اور رسوخ کے بعد معاملہ بر عکس ہو جاتا ہے کہ نظر قلب کے تابع ہو جاتی ہے اسی لئے مبتدی کے پئے خشوع حاصل کرنے کے واسطے آنکھ بند کرنے کی

اجازت دی گئی ہے۔ کامیں کو اس کی ضرورت نہیں رہتی۔

جذب و سلوک کے معاملے میں رحمتِ حق کا ایک خاص مظہر

ارشاد فرمایا کہ مولانا صدیق احمد صاحب انہبھوئی (غایفہ حضرت گنگوہی) فرمایا کرتے تھے کہ صوفیائے کرام کی اصطلاح میں جس چیز کو وصول الی اللہ (اللہ تک پہنچنا) کہا جاتا ہے اس کے لئے عادة اللہ یہ ہے کہ پہلے بندہ کی طرف سے سلوک ہوتا ہے یعنی اپنی سعی و عمل کے ذریعہ اللہ کا راستہ طے کرنا جب انسان اپنے حد اختریار تک یہ کام کر لیتا ہے تو پھر حق تعالیٰ کی طرف سے جذب ہوتا ہے اور اسی جذب سے منزل مقصود تک رسائی ہوتی ہے۔ بغیر جذب حق کے سلوک محض کافی نہیں ہوتا۔ مگر قدیم زمانے میں اس سلوک کے لئے محنت شاقہ اور بڑے مجاہدات شرط تھے اس کے بعد جذب کی نوبت آتی تھی۔ اس زمانے میں انسانی قوی کا انحطاط ہے۔ اس لئے مجاہدات شاقہ کے بغیر ہی جذب حق نصیب ہو جاتا ہے شرط یہ ہے کہ اتباع سنت کا پورا اہتمام کرے کیونکہ جذب علامت محبوبیت ہے اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:-

قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله۔ (اس میں رسول اللہ ﷺ کو خطاب ہے) آپ ﷺ لوگوں سے کہہ دیں کہ اگر تم کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو میرا اتباع کرو۔ اس اتباع سنت کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہو جاؤ گے۔

آنکہ مجتہدین سب کے سب صاحب مقامات اولیاء اللہ تھے

امام غزالی نے اپنی کتاب فاتحة العلوم میں اکثر آنکہ مجتہدین ابوحنیفہ، شافعی، مالک، احمد بن حنبل، حبیم اللہ وغیرہ کے متعلق ثابت کیا ہے کہ یہ حضرات صحابہ و تابعین کی طرح ظاہر و باطن ہر حیثیت سے مکمل اولیاء اللہ تھے۔ اگرچہ ان کو اسی طرح کی رسمی مجاہدات کو نوبت نہیں آئی جو عموماً صوفیاء کرام میں معروف تھے۔ اسی سلسلہ ذکر میں ارشاد فرمایا کہ مولانا رومی کے ایک شعر کا عام لوگ غلط مفہوم لے کر یہ ثابت کرنا جا بنتے ہیں کہ شریعت اور چیز ہے طریقت دوسری چیز یہ آنکہ مجتہدین اصحاب شریعت تھے اصحاب طریقت نہ تھے۔ وہ شعر یہ ہے -

زان طرف کے عشق می افزود در

بوحنیفہ شافعی در سے نہ کرد

فرمایا کہ ہمارے حضرت حاجی صاحب قدس سرہ نے اس شعر کے میں اس طور میں دو لفظ لکھ کر سارا اشکال ختم کر دیا ہے وہ یہ کہ ابوحنیفہ شافعی کے نیچے لکھ دیا۔ اے علماء ظاہر مقصود یہ ہے کہ اس شعر میں ابوحنیفہ شافعی کی ذات مراد نہیں۔ بلکہ اس کا وصف مشہور مراد ہے یعنی ظاہر شریعت کا علم رکھنے والے جیسے مشہور ضرب المثل میں لکل فرعون موسیٰ کہا جاتا ہے وہاں خاص فرعون اور حضرت موسیٰ کی ذات مراد نہیں ہوتی بلکہ فرعون سے مراد مطلق گمراہ اور موسیٰ سے مراد مطلق ہادی ہوتا ہے۔ اس نے معلوم ہوا کہ مفہوم شعر کا یہ ہے جو شخص صرف جزئیات فقہیہ کو یاد کر لے اور صرف ظاہر شریعت پر عامل اور باطن کے فرائض اور محمرمات و مکروہات سے واقف نہ ہو۔ اور ان حضرات آئندہ مجتہدین کا یہ حال نہ تھا کہ باطن کے احکام سے ناواقف یا عامل ہوں کیونکہ وہ بھی قرآن و سنت کے ایسے ہی ضروری احکام ہیں جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ کے احکام۔

تقلید شخصی

ارشاد فرمایا کہ نفس کی آزادی اور بے راہ روی کا علاج تقلید شخصی سے بہتر کوئی نہیں۔ ہمارے استاد حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب تو اپنے معاصرین کی بھی تقلید کرتے تھے۔ صوفیے کرام کی اصطلاح میں تقلید شخصی ہی کا نام وحدت مطلب ہے یعنی کسی ایک شیخ کو اپنا مرتبی و مصلح بنانے کا تمام معاملات میں اسی کے تابع عمل کیا جائے۔ مختلف مشائخ اور بزرگوں کے اعمال پر نظر ڈال کر اپنے لئے کوئی راہ عمل تجویز کرنے والا نفس کے دھوکے سے بکھری محفوظ نہیں رہ سکتا۔

عورتوں میں علم دین

فرمایا کہ قصہ کاندھلہ کی اکثر عورتیں مشکلوٰۃ اور درختار تک پڑھی ہوئی ہیں اور بہت کم عورتیں ہیں جو حافظتہ ہوں اور رمضان میں تمام رات سوتی ہوں۔

خط کا جواب اُسی کا غذ پر لکھنا

حضرتؐ کا بڑا حکیمانہ معمول تھا کہ ہر خط کا جواب اُسی خط کے حاشیہ پر لکھتے تھے تاکہ سوال جواب دونوں ساتھ رہیں اور جواب لکھنے میں بھی تطویل کی ضرورت نہ ہو۔ اس پر ارشاد فرمایا کہ لوگ میرے اس معمول کو اہانت سمجھتے ہیں اور میں اس کو اعانت سمجھتا ہوں۔

مدارک اسلامیہ کے چندہ کے متعلق اہم مشورہ

ارشاد فرمایا کہ ان مدارک دینیہ کا وجود بھی ضروری ہے اور ان کی بقاء بھی چندہ پر موقوف ہے (مگر چندہ جمع کرنے میں آج کل بیشمار خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں جن میں سب سے بڑی خرابی چندہ جمع کرنے والے علماء کا وقار محروم ہوتا ہے جو عوام کے لئے زہر ہے اور پھر چندہ کرنے والے حضرات بھی اکثر احتیاط نہیں ہوتے ایسے طریقے اختیار کرتے ہیں کہ دینے والا شرماشی پکھدے نکلے اس کا اخلاص ختم ہوا۔ ان کے لئے ایسا چندہ لیتا جائز نہیں)۔ اس لئے مناسب صورت یہ ہے کہ چندہ کی تحریک عام کی جائے۔ خطاب خاص سے پہیز کیا جانے اور خطاب خاص صرف اس صورت سے جائز ہے کہ خطاب کرنے والا کوئی با ارشاد شخصیت کا مالک نہ ہو جس کے اثر سے مغلوب ہو کر لوگ چندہ دینے پر مجبور ہو جاویں۔

مسئلہ جبر و اختیار مختصر الفاظ میں

ارشاد فرمایا کہ ہمارے افعال تو ہمارے اختیار میں ہیں مگر اختیار ہمارے اختیار میں نہیں اور اس سے جبرا لازم نہیں آتا۔ دیکھو حق تعالیٰ مختار مطلق ہیں مگر اختیار حق خود محدود نہیں۔ بلکہ لازم ذات ہے۔

انا بَتَ إِلَى اللَّهِ كَيْ بَرَكَتْ عَلَمَ وَ فَنَونَ مِنْ

ارشاد فرمایا کہ ہمارے حضرت حاجی صاحبؒ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے چار مسائل میں اللہ تعالیٰ نے شرح صدر عطا فرمایا ہے ان میں کبھی کوئی شک شبہ نہیں پیش آتا۔ اول مسئلہ تقدیر، دوم

مسئلہ حقیقت روح، سوم مشاجرات صحابہ، چارم وحدت الوجود۔ ظاہر ہے کہ یہ شرح صدر کتابی علوم میں بڑی محنت اٹھانے کا نتیجہ نہ تھا بلکہ توجہ الی اللہ اور اپنے آپ کو اس کی فکر میں لگائیں کا شرط تھا۔

حکیمانہ جواب

ایک صاحب نے خط میں دریافت کیا کہ آپ کے یہاں رویت ہلال کس دن ہوئی۔ حضرت نے جواب میں تحریر فرمایا کہ اگر میں لکھ دوں تو کیا یہ آپکے لئے جلت ہو گا کہ اس پر عمل کر سکیں۔ (اور جب یہ نہیں تو سوال جواب فضول ہے)۔

دلائل الخیرات اور ما ثورہ درود وسلام

ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ جتنی دیر میں آدمی دلائل الخیرات کی ایک منزل پڑھتا ہے اتنی دیر تک درود وسلام کے وہ الفاظ پڑھ لیا کرے جو احادیث میں منقول و ما ثور ہیں۔

ملفوظ حضرت شاہ ولی اللہ

ارشاد فرمایا کہ حضرت شاہ ولی اللہ نے فرمایا ہے کہ:-
 نسبت صوفی غنمت است کبریٰ و مارسوم شان یقینہ زیز نہ
 ہندوستان کے مشہور بزرگوں کی تاریخ ایک انگریز کے قلم سے
 انگریز دنیا کے کاموں میں بڑے ہشیار ہیں جب ہندوستان میں آنا شروع کیا تو فارسی زبان یکجہی یہاں تک کے امراء و سلاطین کے آداب سکھئے۔ پھر حکومت ہند پر غالب آنے کے بعد بھی ایک زمانے تک سلاطین اسلام کی رسوم کو جاری رکھا۔ حضرت نے فرمایا کہ ایک انگریز نے جنگ ۱۸۵۷ء سے پہلے ہندوستان کے مشہور بزرگوں کی تاریخ فارسی زبان میں لکھی تھی۔ جس کا نام مفتاح التواریخ رکھا تھا۔

بعض ارشیاء اللہ کی سادگی

حضرت حافظ ضامن صاحب شہید جو تھانہ بھون کے اقطاب ثلاثة میں سے ایک تھے انکا

رنگ عجیب تھا کہ اُنکے ظاہری حالات کو دیکھ کر کوئی پہنچان نہ سکتا تھا کہ یہ کوئی صاحب نسبت بزرگ اور ولی اللہ ہیں۔ ان کے صاحبزادے مولوی محمد یوسف صاحب کا بھی یہی رنگ تھا کہ صاحب نسبت بزرگ اور ولی اللہ ہونے کے باوجود عام لوگوں کی صفائی انہی کی طرح رہتے تھے۔ بھوپال میں تحصیلدار کی حیثیت سے ملازم رہ کر وقت گزارا ہے۔ حضرتؐ نے ان کا واقعہ ذکر فرمایا کہ ایک مشاقِ فقیر جس نے مسمریزم کی مشق کی ہوئی تھی اپنی خیالی قوت اور توجہ سے لوگوں پر اثر ڈالتا تھا۔ ایک دن مولوی محمد یوسف صاحب کی مجلس میں پہنچ گیا اور اپنا باطنی تصرف کرنے کا قصد کیا۔ مولوی صاحب کو فوراً حساس ہو گیا تو یہ شعر پڑھا۔

سنجل کے رکھنا قدم دشت خار میں مجنون

ملفوظات ۱۳۲۸ء پنے کمالات کے اخفاء و اظہار میں معتدل فیصلہ
بعض اکابر اولیاء اللہ اس کا بڑا اہتمام فرماتے تھے کہ جو عبادت کریں، چھپ کر کریں جو
نیک کام کریں کسی کو خبر نہ ہو۔ بعض حضرات تو لوگوں کے سامنے ایسے کام کرتے تھے جو دیکھنے
والوں کی نظر میں عیب اور گناہ ہوں حالانکہ وہ درحقیقت گناہ نہیں ہوتے تھے۔ مشاء یہ تھا کہ لوگ
ہمارے معتقد نہ ہیں بدگماں ہو جائیں۔

حضرتؐ فرماتے تھے کہ سنت کا معتدل طریق یہ ہے کہ اپنے کام سے کام رکھنے اخفاء کا
اہتمام کرے نہ اظہار کا۔

اور فرمایا کہ میرا تو یہ دل چاہتا ہے کہ میرے کسی قول فعل سے کسی کو دھوکہ نہ ہو کہ کسی غیر واقعی
کمال کا کوئی معتقد ہو جائے۔ بلکہ غیر واقعی عیب کا کوئی معتقد ہو جائے تو کوئی مضاائقہ نہیں۔

علماء کے درمیان اختلافی مسائل میں توسع

فرمایا کہ ہمارے استاد حضرت مولانا محمد یعقوب صاحبؐ کے مزاج میں ایسے اختلافی
مسائل کے بارے میں بڑا توسع تھا۔ میں نے (یعنی حضرت حکیم الامات نے) ان سے ایک مسئلہ
پوچھا جس میں مولانا کا فتویٰ حضرت گنگوہیؒ کے فتوے سے مختلف تھا۔ اپنی تحقیق کے مطابق مسئلہ

بتلا دیا اور پھر یہ بھی فرمادیا کہ مولانا گنگوہی کا فتویٰ اس معاملے میں اس طرح ہے اب تمہیں اختیار ہے جس کو چاہو اختریار کرلو۔

خلق خدا کو فائدہ نہیں علمی تحقیق سے نہیں بلکہ عملی تقدس سے پہنچتا ہے ارشاد فرمایا کہ مولانا عبد اللہ سندھی نے نقل کیا کہ علامہ شبلی نعماںی نے ان کے سامنے فرمایا کہ تجربہ سے یہ بات ثابت ہوئی کہ قوم کو اصلاحی فائدہ وہ شخص پہنچا سکتا ہے جس میں تقدس و تقویٰ ہو۔ اس کے بغیر کتنا ہی بھاری عالم اور محقق ہوا صلاح خلق اس سے نہیں ہو سکتی۔

عمر رفتہ پر چند آنسو

درست ۱۳۹۰ھ

اس وقت کہ مجلس حکیم الامم کے یہ صفات زیر قلم ہیں:-

۲۱ شعبان ۱۳۹۰ھ کو میری عمر کے پچھتر سال پورے ہو کر چھپھڑویں منزل شروع ہوئی۔ پون صدی کی عمر طویل اور مہلت حق تعالیٰ نے اپنے فضل سے عطا فرمائی اور ہر قدم پر اپنے بیشمار انعامات و احسانات سے نواز۔ حق تعالیٰ کی بیشمار نعمتوں کے سایہ میں پل کراس کی تافرمانیوں، گناہوں، غفلتوں میں اس پون صدی کے مہلت ضائع ہو جانے کے وقت استحضار نے چند اشعار لکھوا دیئے جن میں میرے اپنے تو صرف ابتدائی دو شعر ہی ہیں باقی سب دوسرے بزرگوں کے دعا سائیہ اشعار ہیں جو مختلف مقامات سے لئے ہوئے حسب حال سمجھ کر اس لئے لکھے لئے ہیں کہ بزرگوں کے دل سے نکلے ہوئے کلمات ہیں۔ شاید ان کے بار بار پڑھنے سے ہی کچھ اصلاح عمل کی توفیق اور فکر آخرت پیدا ہو۔ اسی فائدے کے پیش نظر ان اشعار کو اس مجموعہ "مجلس حکیم الامم" میں شائع کیا جا رہا ہے:-

عمل بے علم بے رشد و تمیز
دادہ ام در غفلت و در حرص و آزار

۱۔ پنج و ہفتاد آمد از عمر عزیز
۲۔ وای بر من فرصت عمر در راز

با حضور دل نہ کردم طاعنے
 ما چو مرغان حریص بے نوا
 سوئی دامے می رویم ای بینیاز
 کہ کشاید جز تو ای سلطان بخت
 امتحان نا ممکن اے شاہ بیش
 وہ امام نم زین دو شاخہ اختیار
 بے ز دورا ہبہ تردد اے کریم
 مصر بودیم ویکے دیوار ماند
 تانہ گرد دشاد کلی جان دیو
 بار دیگر ما غلط کر دیم راہ
 چون تو بامائی نباشد پیچ غم
 بے پناہت غیر پیچا پیچ نیست
 کار ما سہوست و نیان و خطا
 من ہمہ جہلم مرادہ صبر و حلم
 گرچہ جوئی خون بود نیلش کنی
 ما گنہ گاریم و تو آ مرز گار
 آ بروئی خود بھیان رینختہ
 ز انکہ خود فرمودہ لا تقطروا
 پیش ازین کاندر لحد خاکم کنی
 اے خدا بانورا یمانم بری

بندہ محمد شفیع

- ۳۔ بے گنہ گلذشت بر من ساعتے
- ۴۔ صد هزار ان دام دوان است ای خدا
- ۵۔ می رہانی ہر دے مارا و باز
- ۶۔ از چو ما یچار گان این بد سخت
- ۷۔ خویش را دیدیم ورسوائی خویش
- ۸۔ اے خداوند کریم بُردار
- ۹۔ جذب یک را بہ صراط مستقیم
- ۱۰۔ ہیں کہ از آقطع مایک تار ماند
- ۱۱۔ البقیہ البقیہ اے خدیو
- ۱۲۔ ای بیش حاجت مارا پناہ
- ۱۳۔ گر هزار ان دام باشد ہر قدم
- ۱۴۔ تلخ تراز فرقہ تو پیچ نیست
- ۱۵۔ کارت تو تبدیل اعیان و عطا
- ۱۶۔ سہو و نیان را مبدل کن بعلم
- ۱۷۔ کیمیا داری کہ تبدیل ش کنی
- ۱۸۔ بادشاہا جرم مارا در گزار!
- ۱۹۔ بر در آمد بندہ بگرینختہ
- ۲۰۔ مغفرت دار دامید از لطف تو
- ۲۱۔ چشم دارم کر ز گنہ پا کم کنی
- ۲۲۔ اندر آندم کر ز بدن جانم نبری

یکم رمضان ۱۴۹۰ھ

اولیاء اللہ سے خلق خدا کو بلا ارادہ بھی فائدہ پہنچتا ہے

ارشاد فرمایا کہ جس شخص کا تعلق حق تعالیٰ کے ساتھ درست اور قوی ہو جاتا ہے اس سے مسلمانوں کو بلا قصد بھی نفع پہنچتا ہے اس کی مثال آفتاب جیسی ہوتی ہے کہ خود آفتاب کو بھی خبر نہیں نہیں کہ اس سے کس کس کو کیا کیا فائدے پہنچ رہے ہیں اور جن کو فائدہ پہنچتا ہے وہ بھی کچھ قصد و ارادہ نہیں کرتے اس کے باوجود فوائد پہنچتے ہیں اور فرمایا کہ بحمد اللہ ہمارے بزرگوں کا یہی حال تھا۔

صحبت شیخ کا ایک خاص ادب

ارشاد فرمایا کہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ مرید کو اپنے شیخ سے بھی بہت اپتنانہ چاہیے کہ ہر وقت ہر حال میں ساتھ ہی لگا رہے۔ وجہ یہ ہے کہ انسانی کمزوریوں سے کوئی بشر خالی نہیں ہوتا۔ مرید کی نظر جب ایسی کمزوریوں پر پڑتی رہے گی تو دل میں بے اعتقادی پیدا ہو گی اور وہ اس کے لئے سخت معذر ہے کہ وہ ایک دیوار بن کر درمیان میں حائل ہو جاتی ہے۔ شیخ سے استفادہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ (انتہی)

یاد آیا کہ حضرت شیخ عبدالوهاب شعرانی کی کسی کتاب میں نظر سے گزر رہے کہ شیخ الاسلام محی الدین نووی شارح مسلم جب اپنے استاد کی خدمت میں حاضر ہوتے تو راستہ میں یہ دعا کرتے جاتے تھے کہ یا اللہ شیخ کے کسی عیب و کمزوری پر میری نظر نہ پڑے تاکہ ان سے استفادہ میں محل نہ آئے۔ طالب مرید کے لئے یہ نصیحت بہت اہم ہے لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ استاد یا پیر سے کھلے طور پر گناہ کبیرہ اور حرام چیزوں کا ارتکاب دیکھتا رہے اور اعتقاد میں فرق نہ آئے۔ ایسے حالات میں اس کی بزرگی کا اعتقاد حرام اور اس سے بیعت فتح کرنا واجب ہے حضرت نے ایک اور موقع پر ایسے ہی معاملے میں فرمایا تھا کہ ایسے حال میں عقیدہ کا زائل ہو جانا واجب ہے مگر اس کی بھی بے ادبی سے اور گستاخی سے پہنچا چاہیے۔ (محمد شفیع)

اہل معصیت سے بغض بھی ضروری ہے اور اپنے کو سب سے مکتر سمجھنا بھی،

دونوں کو کس طرح جمع کیا جائے

سوال کیا گیا کہ معصیت اور گناہوں بغض و نفرت اور اہل معصیت سے اجتناب اور قدرت ہونے کی صورت میں ان کو سزادینا بھی واجب ہے اور تواضع بھی واجب ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ ان دونوں چیزوں میں کھلا ہوا تضاد ہے ان کو کس طرح جمع کیا جائے اس پر فرمایا کہ جس شخص کو کسی گناہ کی بناد پر سزادے رہا ہے یا اس سے قطع تعلق کر رہا ہے اس کی مثال ایسی سمجھنے کے کسی شہزادہ سے کوئی جرم صادر ہو اور سرکاری حکم اس کو سزادینے کا جاری ہو سزادینے والے عموماً جلاد ہوتے ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ خصوصاً شہزادے کے مقابلہ میں۔ مگر اس کے دل میں کبھی یہ وسوسہ بھی نہیں آتا کہ میں شہزادہ سے افضل اور برتر ہوں کہ اس کو کوڑے لگا رہا ہوں۔ یہی مثال ہر مصلح اور احکام شرعیہ کی تنقید کرنے والے کو اپنے لئے سمجھنی چاہیے کہ جس گنہگار سے اجتناب کر رہا ہے یہ سمجھ کر کرے کہ میں اللہ کی طرف سے اس پر مأمور ہوں کہ اس سے خصوصی تعلق نہ رکھوں لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک مجھ سے افضل و برتر ہو۔ اور اس کا کوئی عمل ایسا مقبول ہو جو اس کو مجھ سے بڑھادے یا میرا کوئی عمل خداخواستہ ایسا براہو جو مجھے اس کے درجہ سے بھی گراوے۔ اسی طرح تواضع بھی پوری قائم رہتی اور اہل فتن و فجور سے جو معاملہ شرعی کیا جاتا ہے وہ بھی اپنی جگہ رہتا ہے۔ اس کا دوسرا عنوان یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بغض و نفرت اور قطع تعلق دراصل فساق فارکے اعمال سے ہے خود ان کی ذات سے نہیں۔

(انتہی)

یاد آیا کہ حضرتؐ نے ایک اور موقع پر کسی کالج میں اپنا وعظ ہونے کا ذکر فرمایا اور یہ کہ وعظ کے بعد ایک نو تعلیم یافتہ صاحب کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ میں نے ساہے کہ آپ کو انگریزی تعلیم یافتہ لوگوں سے بڑی نفرت ہے تو حضرتؐ نے جواب دیا کہ ان سے تو نہیں ہاں ان کے بعض اعمال سے ضرور نفرت ہے۔ یہ صاحب کہنے لگے کہ وہ اعمال کیا ہیں؟ حضرتؐ نے فرمایا کہ سب کا کوئی ایک عمل نہیں۔ ہر شخص کے اعمال و احوال مختلف ہیں ان کے احکام بھی مختلف ہیں۔ خلاصہ یہ

کہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ کوئی کتنا ہی برا اور فاسق فاجر آدمی ہواں کی ذات سے نفرت مقصود شرعی نہیں بلکہ اس کے تاجائز عمل سے بعض نفرت مقصود شرعی ہے۔ (محمد شفیع)

کسی کی آزادی میں خلل نہ ڈالو

ارشاد فرمایا کہ آزادی بڑی نعمت ہے اس لئے کسی کی آزادی میں ہرگز خلل انداز نہ ہونا چاہیے۔ لوگوں کے سونے آرام کرنے یا کوئی درود و نظیفہ پڑھنے اور لکھنے پڑھنے کے اوقات میں بلا ضرورت شدیدہ ان کی ملاقات کے لئے جانا یا کسی کام کو کہنا ان کی آزادی سلب کرنا ہے اس میں بڑی احتیاط چاہیے جس سے کوئی کام ہو یا ملاقات مقصود ہواں کی فرصت کا وقت معلوم کر کے جانا چاہیے۔ اور فرمایا کہ میں ایک مجلس یا ایک کھانے پر مختلف اجنبیاں کے لوگوں کو جمع کرنا اسی لئے پسند نہیں کرتا کہ ان کی آزادی میں خلل پڑتا ہے۔ ان کی باہم مناسبت اور بے تکلفی نہیں ہوتی سب ایک قیدی محسوس کرتے ہیں۔ اسی لئے میں سفر میں یہ بھی شرط لگاتا تھا کہ کھانا سب کے ساتھ کھانے کا پابند نہ رہوں گا۔

اسی پر فرمایا کہ جن کاموں میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ نے انسان کو آزاد رکھا ہے ان میں اپنی طرف سے نئی قیدیں بڑھاتا خود اپنی آزادی کو سلب کرنا ہے مثلاً اللہ تعالیٰ نے ذکر اللہ کے لئے کوئی قید و ضوبے و ضوکی نہیں رکھی۔ اسی طرح کھڑے بیٹھے لیٹھے ہر حال میں ذکر اللہ کی اجازت ہے تو اگر کوئی شخص اپنے اوپر یہ پابندی لگائے کہ جب کوئی ذکر اللہ کرے تو باوضو ہی کرے یا کھڑے ہی ہو کر کرے یہ خود اپنی خدا داد آزادی کو سلب کر کے اپنے آپ کو مصیبت میں بتلا کرنا ہے کیونکہ انسان پر شرعی مقاصد کے ماتحت خود بہت سی پابندیاں عائد ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے کوئی پابندی نہیں لگائی وہاں بھی پابندی اپنے اوپر عائد کر لی جاوے تو عادةً اس پر دوام والتزام نہ ہو سکے گا کیونکہ شریعت کی عائد کردہ پابندیوں کو بھانا بھی کوئی آسان کام نہیں۔ حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:-

لن تحصوا ولکن سددوا وقاربوا۔ یعنی ”تم ان تمام پابندیوں کو مکمل طور پر پورا نہ کر سکو گے جو تم پر عائد کی گئی ہیں لیکن اپنے آپ کو درست رکھنے اور قریب قریب رہنے کا انتظام و اہتمام کر لو تو یہ بھی کافی ہے۔“

پھر فرمایا کہ بدعت کے منوع و ناجائز ہونے کی ایک ذمہ کی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ انسان کی خداداد آزادی کو سلب کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صدقہ کا ثواب کسی کو پہنچانے کے لئے کوئی قید نہیں رکھی بس دل میں نیت کر لینا یا زبان سے کہہ دینا کہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچے یہ کافی ہے اس پر کچھ قرآن کی سورتیں پڑھنے پڑھوانے کی پابندیاں جو لوگوں نے اپنے اوپر لگائیں خود بھی اس سے کافی پریشان ہوتے ہیں۔

کسی کی تعظیم کے لئے کھڑا ہونا فرمایا کہ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب ”اس شخص پر بہت خفا ہوتے تھے جوان کی تعظیم کے لئے کھڑا ہو۔ (انجی)

(جو حضرات مقتداء ہیں ان کے لئے یہی مناسب ہے کہ اس فعل پر ناپسندیدگی اور ناراضی کا اظہار کریں اگر چہ دوسروں کے لئے ایسے وقت جب کوئی بزرگ عالم مجلس میں آئے تعظیماً کھڑا ہو جانے کی اجازت ہے)

حنفی اور محمدی

فرمایا کہ بہت سے غیر مقلد حضرات اپنے کو محمدی کہتے اور لکھتے ہیں اور حنفی شافعی کہنے کو شرک قرار دیتے ہیں۔ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نے فرمایا کہ اگر حنفی شافعی شرک ہے تو محمدی کہنا کیوں شرک سے خارج ہو گیا۔

جہاد ۱۸۵

فرمایا کہ تھانہ بھون اور شاطی میں جو اس وقت جہاد ہوا اس کے امیر المؤمنین ہمارے سید

الطاائف حضرت حاجی امداد اللہ تھے۔ ان کے سب متعلقین شریک جہاد تھے۔ بحکم قضا و قدر مسلمانوں کو آخونا اس میں ناکامی ہوئی۔ مجاہدین کی گرفتاری کے احکام انگریزوں کی طرف سے جاری ہوئے۔ حضرت گنگوہی گرفتار ہو کر جیل بھیج دیئے گئے۔ حضرت مولانا محمد قاسم روپوش ہو گئے مگر تین روز کے بعد خود ہی ظاہر ہو گئے اور فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ جبل ثور میں تین روز روپوش رہے تھے۔ یہ سنت پوری کر لی۔ اب روپوش نہ رہوں گا۔ گرفتاری مقدر ہے تو ہو جائیگی مگر اللہ تعالیٰ نے ایسے سامان پیدا فرمادیئے کہ گرفتاری سے بھی بچ گئے۔ حضرت سید الطائف روپوش رہے اور اسی حال میں ایک روز گنگوہ تشریف لے گئے۔ حضرت گنگوہی جیل میں تھے ان کے گھروالوں کو تسلی دینا مقصود تھا۔ حضرت گنگوہی کی صاحبزادی صفیہ چھوٹی بچی تھی ان کو گود میں بٹھایا اور درود روپیہ ان کو دیئے۔ انہوں نے یہ روپیہ لے کر حضرت ہی کے قدموں پر رکھ دیئے۔ حضرت حاجی صاحب نے فرمایا کہ یہ لڑکی زاہدہ ہو گی۔ حضرت گنگوہی اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حاجی صاحب کے ارشاد کے مطابق اس لڑکی کو زاہدہ ہی بنایا ہے اس پر کبھی زکوٰۃ فرض ہونے کی نوبت نہیں آتی کیونکہ جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے سب غریبوں اور عزیزوں پر خرچ کر دلتی ہیں۔

زمی اور سختی

فرمایا کہ میں زمی چھوڑنے کو سختی کے ساتھ روکتا ہوں تو یہ سختی ظاہر میں تو سختی ہے مگر درحقیقت زمی پر مجبور کرنا اور اس کا خوگر بنانا ہے۔

محفل میلاد

فرمایا کہ اس کے متعلق پہلے میرا یہ خیال تھا کہ اس محفل کا اصل کام ذکر رسول ﷺ تو سب کے نزدیک خیر و سعادت اور مستحب ہتی ہے۔ البتہ اس میں جو منکرات اور غلط رسمیں شامل کر دی گئی ہیں ان کے ازالہ کی کوشش کرنی چاہیے۔ اصل امر محفل مستحب کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ دراصل ہمارے حضرت حاجی صاحب قدس سرہ کا مسلک تھا۔ حضرت کی غایت شفقت و عنایت اور محبت کے سبب میرا بھی ذوق یہی تھا۔ اور یہی عام طور پر حصوفیا نے کرام کا مسلک ہے۔ حضرت

مولانا رومی بھی اسی کے قائل ہیں انہوں نے فرمایا۔

بہر کیکے تو گلے راموز

لیکن ہمارے فقہاء حنفیہ کا مسلک ان معاملات میں یہ ہے کہ جو مباح یا مستحب مقاصد شرعیہ میں سے ہواں کے ساتھ تو یہی معاملہ کرنا چاہیے کہ اگر اس میں کچھ منکرات شامل ہو جائیں تو منکرات کے ازالہ کی فکر کی جائے اصل کام کونہ چھوڑا جائے۔ مثلاً مسجدوں کی جماعت میں کچھ منکرات شامل ہو جائیں تو اس کی وجہ سے جماعت چھوڑ دینا جائز نہیں ہو گا بلکہ منکرات کے ازالہ کی کوشش مقدور بھروسہ اجنب ہو گی۔ اسی طرح اذان تعلیم قرآن وغیرہ کا معاملہ ہے کہ وہ مقاصد شرعیہ میں سے ہیں اگر ان میں سے کچھ منکرات شامل ہو جاویں تو ازالہ منکرات کی کوشش کی جاوے گی اصل کام کونہ چھوڑا جاوے۔ لیکن جو مستحبات ایسے ہیں کہ اصل مقاصد شرعیہ ان پر موقوف نہیں۔ اگر ان میں کچھ منکرات و بدعتات شامل ہو جاویں تو ایسے مستحبات ہی کو ترک کر دینا چاہیے مثلاً زیارت قبول ذکر رسول ﷺ کے لئے کسی محفل و مجلس کا انعقاد کہ اس پر کوئی مقصد شرعی موقوف نہیں۔ وہ بغیر اس مجلس خاص صورت کے بعد پورے کر سکتے ہیں اگر ان میں منکرات و بدعتات شامل ہو جاویں تو یہاں ایسی مجالس اور ایسے اجتماعات ہی کو ترک کر دینا لازم ہو جاتا ہے احادیث اور آثار صحابہ اور اقوال آئمہ میں اس کے بہت سے شواہد موجود ہیں جن کو علامہ شاطبی نے کتاب الاعتصام میں جمع فرمادیا ہے۔

جس درخت کے نیچے رسول اللہ ﷺ کا بیعت لینا اس پر اللہ تعالیٰ کی رضا قرآن میں مذکور ہے جب اس کے نیچے لوگوں کا اجتماع اور بعض منکرات کا خطرہ حضرت فاروق اعظم نے محسوس فرمایا تو اس درخت ہی کو کٹوادیا حالانکہ اس کے نیچے جمع ہونے والے حضرات صحابہؓ کوئی ناجائز کام نہ کرتے تھے مغض تبرکات جمع ہوتے اور ذکر اللہ و ذکر رسول ﷺ ہی میں مشغول رہتے تھے مگر چونکہ ایسا اجتماع مقصود شرعی نہیں تھا اور آئندہ اس میں شرک و بدعت کا خطرہ تھا اس لئے اس اجتماع ہی کو ختم کر دیا گیا۔ اس طرح کے اور بھی متعدد واقعات حضرت فاروق اعظم اور دوسرے

حضرات صحابہ سے بکثرت منقول ہیں۔ کتاب الاعتصام میں وہ مستند کتابوں کے حوالے سے نقل کئے گئے ہیں ان احادیث و آثار کی بناء پر فقہاء حنفیہ کا مسئلک ایسے معاملات میں یہی ہے کہ جو امر اپنی ذات میں منتخب ہو مگر مقصود شرعی نہ ہو۔ اگر اس میں منکرات و بدعتات شامل ہو جائیں یا شامل ہونے کا خطرہ قوی ہو تو ایسے منتخبات کو سرے سے ترک کر دیا جائے۔ لیکن جو امر منتخب مقاصد شرعیہ میں سے ہو یا اس پر کوئی مقصود شرعی موقوف ہو تو اس کو شامل منکرات کی وجہ سے ترک نہ کیا جائے بلکہ ازالہ منکرات کی کوشش کرنا چاہیے۔

حضرت گنگوہی اسی مسلک حنفی کے پابند تھے اس لئے مروجہ محفل میلاد جو بہت سے منکرات و بدعتات پر مشتمل ہو گئی ہے اس میں شرکت کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ کچھ زمانے تک اس مسئلہ میں حضرت گنگوہی سے بھی میرا اختلاف رہا مگر بالآخر دلائل کی قوت اور دین کی حفاظت کے پیش نظر یہی مسلک احوط اور اسلام نظر آیا اسی کو اختیار کر لیا یا لیکن جو مسلک صوفیائے کرام نے اختیار فرمایا ہے میں اس کو بھی بے اصل نہیں جانتا۔ فقہاء مجتہدین سے حضرات شافعیہ کا بھی یہی مسلک ہے۔ علامہ شامي نے مصاف بعد الصلوٰۃ کے مسئلے میں شیخ محی الدین نووی شافعی کا یہی مسلک نقل کیا ہے اس لئے جو صوفیائے کرام محفل میلاد خالی از منکرات پر عامل ہیں ان پر بھی اعتراض اور بدگمانی نہیں کرنا چاہیے۔ (اس ملفوظ میں سب حضرت کے الفاظ نہیں۔ شرح و توضیح احرار کی طرف سے شامل ہے) (محمد شفیع)

رذائل کی اصلاح کا ایک خاص طریقہ

ارشاد فرمایا کہ میں اپنے نفس میں جس رذیلہ (یعنی بری بات) کو محسوس کرتا ہوں کبھی کبھی اس کا علاج اس طرح بھی کرتا ہوں کہ اس کے متعلق عام مجلس میں ایک وعظ کہہ دیا۔ اس سے اس رذیلہ کا داعیہ قلب میں مضمحل ہو جاتا ہے اور اس سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔

خوف صرف اللہ سے اور اپنے نفس سے چاہیے

ایک مرتبہ مکہ مעתظہ کے حکام حضرت حاجی صاحبؒ سے ناراض ہو گئے اور مکہ مکرمہ سے ان

کے اخراج کا ارادہ کر لیا۔ حضرتؐ کو جب اس کا علم ہوا تو فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ اور اپنے نفس کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا تو عین ایمان ہے۔ بھی جانتے ہیں نفس سے ڈرتا اس لئے کہ سب سے بڑا شمن انسان کا وہی ہے جو اس کو بے راہی پر ڈالتا اور برا یوں میں بتا کرتا ہے۔

مطالعہ کتب کے لئے ایک ہدایت

فرمایا کہ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحبؒ فرمایا کرتے تھے کہ جب کسی کتاب کے مطالعہ کا ارادہ کرو تو پہلے اس کے نام کو دیکھو اگر نام ہی اصل مضمون کتاب کے مناسب نہ ہو تو اس کو چھوڑ دو پھر تمہید کو دیکھو اگر وہ مضمون کتاب کے مناسب نہیں ہے تو چھوڑ دو۔ اس کے مطالعہ میں وقت ضائع نہ کرو جب نام اور تمہید متناسب دیکھ لو تب آگے بڑھو۔

قواعد فقہیہ اور اختلاف علماء

فرمایا کہ بعض اوقات قواعد فقہیہ کسی خاص واقعہ میں متعارض ہو جاتے ہیں۔ ایک عالم کی نظر ایک ضابطہ پر ہوتی ہے۔ دوسرے کی نظر دوسرے ضابطے پر اس لئے اختلاف رائے پیدا ہوتا تاگزیر ہو جاتا ہے سورہ عبس میں جس واقعہ کے متعلق رسول اللہ ﷺ پر عتاب آیا کہ آپ ﷺ نے ایک غریب نا بینا مسلمان کی طرف زیادہ توجہ دینے کی بجائے رؤسائے مشرکین کی طرف زیادہ توجہ کیوں فرمائی۔ یہاں بھی یہی صورت پیش آئی کہ رسول کریم ﷺ کے پیش نظر یہ قاعدہ تھا کہ اصول دین کی تعلیم مقدم ہے۔ فروع کی تعلیم پر رؤسائے مشرکین سے جو خطاب ہو رہا تھا وہ اصولی تعلیم کا تھا نہ نا بینا صحابی جو کچھ بات کرتے وہ فروع دین کے متعلق ہوتی۔ کیونکہ وہ مؤمن اور اصول دین کے پہلے سے پابند تھے۔ اس لئے رسول اللہ ﷺ نے ان کو ان سے مقدم کر دیا لیکن اس کے مقابل ایک دوسرا ضابطہ بھی تھا۔ جس پر آنحضرت ﷺ کی اس وقت نظر نہ گئی وہ یہ کہ وہ کام مقدم رکھنا چاہیے جس کا نفع متوقع اور اس کے کامیاب ہونے کی امید زیادہ ہو بمقابلہ اس کام کے جس کا نفع موہوم اور کامیابی کی توقع کم ہو۔ یہاں معاملہ ایسا ہی تھا کہ رؤسائے مشرکین کے لئے تعلیم اصول کا اثر موہوم تھا اور مسلمان کے لئے تعلیم فروع کا نفع یعنی اس لئے قرآن کریم

نے اس کو ترجیح دینے کی ہدایت فرمائی۔ اور عتاب اس پر ہوا کہ آپ ﷺ نے اس ضابطہ پر توجہ کیوں نہ فرمائی۔

حضرت معاویہؓ

حضرت معاویہؓ کے متعلق ایک صاحب کے سوال پر حضرتؐ نے فرمایا کہ انتہائی بات یہ ہے کہ حضرت معاویہؓ سے گناہ ہو گیا اور فرض کرو کہ گناہ بھی کبیرہ ہو اگر اب یہ فیصلہ کرو اگر کسی صحابی سے گناہ سرزد ہو جائے تو ہمیں ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتا چاہیے کیا ان کی بدگوئی اور غیبت جائز ہو جاوے گی۔ دیکھو حضرت ماعز رضی اللہ عنہ کا گناہ کبیرہ یعنی زنا پھر خود رسول ﷺ سے ان پر سزاۓ رجم جاری کرنا مخصوص احادیث سے ثابت ہے مگر جب ایک صحابی نے حضرت ماعزؓ کی غیبت کی تو حضور ﷺ نے بختنی سے منع فرمایا۔

الفاظ اور ناموں میں بھی اللہ تعالیٰ نے تأشیر کھی ہے

امام اعظم ابوحنیفہ کے پڑوس میں ایک رافضی نے اپنے دو خپروں کا نام ابوکبر اور عمر رکھا تھا (روافض کی ایسی ذلیل حرکتیں بہت معروف ہیں) ایک روز ایک خپر نے لات مار کر اس رافضی شخص کا پیٹ پھاڑ دیا۔ امام اعظمؓ کو خبر ہوئی تو فوراً فرمایا کہ یہ وہ خپر ہو گا جس کام نام اس نے عمر رکھا تھا۔ اس نام کا یہی اثر ہونا چاہیے تھا۔ تحقیق کی گئی تو اس کی تصدیق ہو گئی۔

حضرتؐ نے فرمایا کہ ناموں اور الفاظ میں بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی تأشیر کھی ہے۔ ایک لڑکے کا نام والدین نے کلیم اللہ رکھا وہ اکثر بیمار رہتا تھا میں نے اس کا نام بدل کر سلیم اللہ رکھ دیا اس وقت سے تدرست رہنے لگا کیونکہ کلیم کے معنی معروف مجروح اور زخمی کے ہیں۔

حضرت شاہ عبدالعزیزؒ کی انتہائی زکاوت

مولانا فضل حق نیر آبادی اور مولانا صدر الدین صاحب جو علوم عقلیات فلسفہ منطق وغیرہ کے بڑے امام مانے جاتے تھے اور دونوں عربی ادب کے بھی ماہر ادیب تھے ایک مرتبہ ان دونوں

نے ارادہ کیا کہ شاد عبد العزیز دہلویؒ کے علم و فضل کا بڑا چرچا ہے چلو ذرا امتحان کریں کتنا اور کیا علم رکھتے ہیں۔ راستے میں دونوں نے عربی زبان میں دو قصیدے لکھے اور آزمائش کے لئے آپس میں یہ قصیدے باہم بدل لئے ایک کا قصیدہ دوسرے نے لے لیا۔ حضرت شاہ صاحبؒ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے حضرت ہم نے کچھ بکا ہے ذرا اس کو سن لیجئے۔ حضرت نے فرمایا سنائے۔ دونوں نے یہ دو قصیدے پڑھ کر سنائے۔ حضرت شاہ صاحبؒ خاموش بیٹھے سنتے رہے۔ ان دونوں نے آپس میں ایک دوسرے کو اشارے کئے کہ بڑے میاں کچھ سمجھے ہی نہیں، بولتے کیا۔ پھر عرض کیا کہ حضرت آپ نے ان قصیدوں کے متعلق کچھ فرمایا نہیں۔ حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ کچھ کہہ دوں گا مگر پہلے یہ تو بتلا وہ کہ قصیدوں میں تبدیلی کہاں اور کیوں ہوتی۔ اب تو انہوں نے حیرت سے سوال کیا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ فرمایا کہ میں نے آپ دونوں کی گفتگو اور طرزِ کلام سے دونوں کے مزاجِ مذاق کا جواندazہ لگایا تھا ان قصیدوں کو اس سے مختلف پایا اس سے اندازہ ہوا کہ ان میں تبدیلی ہو گئی ہے۔ اس کے بعد قصیدوں کے ایک ایک شعر پر اصلاح کے لئے فرمانا شروع کیا تو کوئی شعر بغیر اصلاح کے نہیں چھوڑا۔

غیر اللہ کے لئے نذر اور متن کے ایک مسئلہ کی تحقیق

ارشاد فرمایا کہ حیوانات کے علاوہ جس کھانے یا منہماںی وغیرہ کی کسی غیر اللہ کے نام پر نذر مانی جائے اس کو بھی فقہاء نے حرام و نجس قرار دیا ہے؛ جیسے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جانو حرام ہے۔ میں بھی اس کو صحیح سمجھتا ہوں مگر اس کو ماہل بہ لغير الله کے تحت میں داخل نہیں کرتا کیونکہ ما اهل بہ لغير الله حیوانات کے معاملہ میں تو نص قطعی ہے مگر غیر حیوانات کو شامل نہیں۔ اس لئے غیر حیوانات میں یہ حرمت قیاسی ہے کہ قیاس فقہی سے دونوں کا حکم مشترک معلوم ہوتا ہے۔ اور میں نہیں کہتا کہ ما اهل میں لفظ مکار کے عموم میں غیر حیوانات بھی داخل ہیں کیونکہ عموم الفاظ سے اصولی طور پر اسی حد تک عموم لیا جا سکتا ہے جہاں تک مقصود متكلّم سے تجاوز نہ ہو۔ اس سے زیادہ عموم معتبر نہیں۔ اگر کوئی مریض اپنے معانج سے پرہیز کے متعلق پوچھے اور وہ یہ کہہ دے

کہ تیل اور ترشی کے سوا سب چیز کھا سکتے ہو تو اس سب چیز کے عوام میں لوہا، پتھر، مٹی وغیرہ داخل نہیں مانی جائیں گی کہ مقصود متكلم سے تجاوز ہے۔ نص قطعی حیوانات کے بارہ میں نازل ہوئی ہے اس کے عوام کو غیر حیوانات میں متجاوز کرنا میرے نزدیک اسی کی مثال ہے اس لئے میرا خیال یہ ہے کہ نص ما اهل بہ سے تصرف وہ حیوانات حرام ہیں جن کو غیر اللہ کے لئے ذبح کیا گیا ہو باقی رہی دوسری اشیاء غیر حیوانات کی قسم سے جیسے کھانا اور مٹھائی وہ اگر چہ اس عوام لفظ میں داخل نہیں۔ مگر باشتراک علت ان کی حرمت بھی اس پر قیاس فقہی سے ثابت کی گئی ہے۔

(از محمد شفیع بتوضیح الفاظ)

حضرات صوفیہ کے مجاہدات اصل مقصود نہیں بلکہ ذریعہ مقصود ہیں ان میں کمی بیشی اور تبدیلی مزاج کے مناسب کی جانی چاہیے

حضرات صوفیاء کرام میں جو مجاہدات شب بیداری بہت کم کھانا بہت کم بولنا وغیرہ معروف و مشہور ہیں وہ کوئی شرعی حکم ہے نہ اصل مقصود ہیں بلکہ ان مجاہدات کا مقصد نفس کو ایسی ریاضت کرانا ہے جس سے وہ بے قابو نہ ہو۔ شرعی حدود کے دائرہ میں رہے۔ اس لئے شیخ مصلح اور مریم کا فرض ہے کہ طالب کی طاقت فرصت اور مزاج کو دیکھ کر اس کے مطابق مجاہدات تجویز کرے۔ پہلے زمانے کے مشائخ نے جو شدید مجاہدات تجویز کئے تھے وہ اس زمانے کے مناسب تھے کیونکہ طبائع میں قوت و شدت تھی بغیر شدید مجاہدات کے نفس کو اعتدال پر قائم کرنا مشکل تھا۔ حضرتؐ نے فرمایا کہ آج کل طبائع میں خود ضعف ہے قوی عام طور پر کمزور ہیں پہلے چالیس روز کے مجاہد سے جتنا اثر ہوتا تھا وہ اب طبعی ضعف کے سبب خود بخود حاصل ہے اس لئے اس زمانے میں تقلیل طعام اور تقلیل منام کے مجاہدات نہ کرانے چاہیں کہ دوسری صحت مختل ہو جاتی ہے پھر کوئی بھی کام نہیں ہوتا۔

فرمایا کہ اطباء سے معلوم ہوا ہے کہ پہلے زمانے کے نخنوں میں ایک آدمی کے لئے دواوں کی جو مقدار لکھی جاتی تھی وہ اب چار آدمی بھی نہیں کھا سکتے اب تقریباً اس مقدار کا چوتھائی لکھا جاتا

ہے۔ یہی حال مجاہدات صوفیہ کا بھی ہے کہ وہ دراصل دوائیں ہیں غذاء نہیں۔ ان کو بقدر ضرورت مزاج و طبیعت کی مناسبت سے استعمال کرانا چاہیے۔ غرض یہ ہے کہ مجاہدات مقصود نہیں بلکہ طریق مقصود اور ذریعہ ہیں طریق اور مقصود میں امتیاز کرنا چاہیے۔

۱۳۲۸ھ کے ارمضان

دو بزرگوں کا ایک مسئلہ میں مکالمہ رخصت اور عزیمت سے متعلق فرمایا کہ حضرت مولانا محمد قاسم نانو توی مرض وفات میں باوجود شرعی گنجائش کے تینم نہ کرتے تھے بلکہ تکلیف کے ساتھ وضوء ہی کا اہتمام فرماتے تھے۔ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ دیکھ کر فرمایا کہ آپ تو اس کو کمال بحثتے ہو گئے کہ تینم کی رخصت ہونے کے باوجود وضو کرتے ہیں مگر میرے خیال میں یہ کمال نہیں بلکہ ایک نفس ہے کہ تینم جو اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت کے طور پر بیمار کے لئے مشروع اور جائز قرار دیا ہے اللہ کے اس انعام سے دل میں تنگی پیدا ہونا کوئی کمال نہیں ہو سکتا بلکہ ایک روگ ہے۔ حضرت نانو توی نے ان کی رائے کو پسند فرمایا اور اس کے مطابق عمل کرنے لگے۔

حضرت نے فرمایا کہ شرعی رخصتوں سے دل میں عقلی انقباض اور تنگی محسوس ہو تو وہ مذموم ہے طبعی انقباض کا مضاف ائمہ نہیں۔

ایک اور مقام پر حضرت نے فرمایا کہ عبدیت کا تقاضا تو یہی ہے کہ یہاں اپنی کمزوری اور ضعف کا اعتراف کرے۔ اللہ کی دی ہوئی رخصتوں پر خوشدنی سے عمل کرے کیونکہ حدیث میں ارشاد ہے:-

ان الله يحب ان توتى رخصه كما يحب ان توتى عزائمہ۔ یعنی ”الله تعالیٰ اپنی دی ہوئی رخصتوں پر عمل کو بھی ایسا ہی پسند فرماتے ہیں جیسا کہ عزیمت پر عمل کرنے کو پسند فرماتے ہیں۔“

مولانا رومی نے اسی مضمون کو خوب انداز میں فرمایا ہے۔

چون کشايد چا بک و بر جتہ باش

عورت کو غیر محرم سے چہرہ کا پردہ بھی واجب ہے

حضرات فقہاء نے عورت کے چہرہ اور باتھ کی تھیلیوں کو ستر سے مستثنی فرمایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں یہ چیزیں کھلی رہیں تو نماز ہو جائے گی اس میں خلل نہ آئے گا۔ اس میں فقہاء نے قدموں کا بھی یہی حکم بتالا یہ اس کے علاوہ عورت کا سارا بدن ستر میں داخل ہے اس میں سے کوئی بھی عضو نماز میں کھلا رہا تو نماز نہ ہوگی۔ یہ مسئلہ ستر پوشی کا ہے غیر محرومین سے عورت کا پردہ الگ مسئلہ ہے اس کا مدارفتنہ کے اندر یہ پڑھے اور ظاہر ہے کہ عورت کا چہرہ اس کے بدن کا ممتاز حصہ ہے اس کے غیر محرومین کے سامنے کھولنے میں بڑا فتنہ ہے اسی لئے حضرات فقہاء نے غیر محروم مردوں کے سامنے عورت کو چہرہ کھولنے کی اجازت نہیں دی۔ اس مسئلے کے متعلق حضرت نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم کی نص قطعی میں ہے۔

یعنی ”عورتوں کو حکم ہے کہ اپنے پاؤں کو ولا یضر بن بار جلہن:-
ز میں پر اس طرح نہ ماریں کہ اس سے زیور
و غیرہ کی آواز نکلے اور غیر محرومین تک پہنچے۔“

یہ ظاہر ہے کہ زیور عورت کا کوئی جزو نہیں بلکہ ایک منفصل چیز ہے۔ اور اس کی آواز سے اتنا فتنہ پیدا ہونے کا خطرہ بھی نہیں جتنا چہرہ کھولنے سے ہے تو جب ایک منفصل چیز کی آواز سے پیدا ہونے والے فتنہ کو اس نص قرآنی میں روکا گیا ہے یہ کیمکن ہے کہ عورت کے زینت کے ممتاز حصے یعنی چہرہ کھولنے کی اجازت دے دی جائے۔

استغناء کا بڑا اکمال جب ہے کہ انسان عمرت اور تنگدستی میں بنتا ہو پھر غیر اللہ سے مستغنى رہے

ہمارے سابق بزرگوں نے اپنی عمر میں بڑی عمرت اور افلاس میں گزاری ہیں اگرچہ آپ کا

یہ فقر و فاقہ اور افلاس سنت نبوی کے مطابق اختیاری تھا وہ اگر چاہتے تو بڑی سے بڑی دولت جمع کر سکتے تھے مگر کبھی اس کی طرف التفات نہیں ہوا اور جو کچھ اللہ نے دیا اس کو غرباء فقراء اور دینی کاموں پر خرچ کر دیا پھر خود مفلس کے مفلس رہے۔

حضرتؐ نے فرمایا کہ حضرت نانو تویؓ کے پاس کبھی کپڑوں کے دوجوڑے سے زیادہ نہیں رہے ایک بدن پر رہتا تھا وہ سراہ حلنے کے لئے دیا جاتا تھا۔ اور آج کل کے مشائخ تو نوابوں کی زندگی گزارتے ہیں وہ اگر لوگوں سے استغناء بھی برٹیں اور برتنا چاہیے مگر یہ استغناء اس درجہ کا کمال نہیں جو پچھلے بزرگوں کا تھا کہ فقر و افلاس میں رہتے اور پھر استغناء کا معاملہ فرماتے تھے۔

ایک لطیفہ

حضرتؐ نے فرمایا کہ مراد آباد کے ایک جلسہ میں کسی دینی کام کے لئے چندہ کی تحریک کرنا تھی۔ حضرتؐ نے فرمایا کہ میں تو اور کچھ نہیں کہتا۔ صرف یہ کہتا ہوں کہ یہ ”پن چکیاں“ بند کر دی جاویں۔ جن میں مسلمانوں کا لاکھوں کروڑوں روپیہ بر باد ہوتا ہے مراد اس سے یہ تھی کہ پان کھانا چھوڑ دیں اور اس سے جور و پیہ نپے وہ چندے میں دے دیں۔

مرید کے شبہات کا اعلان

ہندوستان میں تحریکات خلافت کے زمانے میں حضرتؐ نے شرعی وجہ کی بناء پر اس تحریک میں شرکت نہیں فرمائی تھی اور ہندوستان کے مسلمان اور اکثر علماء اس میں شرکیک تھے۔ ایک ذپیٹی کلکشن صاحب جو حضرت کے مرید تھے انہوں نے آپ کی عدم شرکت پر کچھ شبہات لکھ کر بھیجے۔ حضرتؐ نے جواب میں یہ تحریر فرمادیا کہ بہتر صورت یہ ہے کہ آپ مجھ سے کچھ دنوں کے لئے عقیدت مندی کی چھٹی لے لیجئے۔ پھر فتنہ فرو ہونے کے بعد حقیقت کھل جائے اور تعلق رکھنے کو جی چاہے تو پھر قائم کر لیں۔

حضرتؐ اس زمانے میں لوگوں کی تنقیدات اور شبہات کا بقدر ضرورت جواب دیا کرتے تھے مگر ایک مرید متولی کے لئے ایسے سوال و جواب کو اس کی اصلاح میں مخل سمجھ کر یہ جواب دیا۔

حضرت کا طبعی اعتدال اور انصاف اور معاشرت کے آدابِ خاص

آخر زمانے میں طبعی ضعف کے سبب کچھ نہ کچھ عوارض لگئے رہتے تھے جن کا علاج جاری رہتا تھا۔ معانی حکیم محمد باشمش صاحب تھا نوی تھے جو حضرتؐ کے بڑے معتقد مرید ہیے تھے۔ اگر ان کو حضرت بلا بھیجیں تو وہ اپنی سعادت سمجھ کر خوشی سے حاضر ہوں مگر عادت حضرتؐ کی یہ تھی کہ جب تک کوئی شدید بیماری نہ ہو جس میں انہنا چلنا مشکل ہو جائے۔ حکیم صاحب کو بلا تے نہ تھے بلکہ خود چل کر ان کے مکان پر جاتے اور علاج کے متعلق مشورہ لیتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں جانتا ہوں کہ ان کو بلا لوں تو انہیں بالکل بھاری نہ معلوم ہو گا مگر اس کو انصاف کے خلاف سمجھتا ہوں کہ ضرورت اور حاجت تو میری اور تکلیف کریں حکیم صاحب، اس معاملہ میں وہ مطلوب اور میں طالب ہوں۔ طالب کی ذمہ داری ہے کہ خود حاضر ہو۔

میں نے خود بارہا دیکھا کہ خانقاہ کی جس سے دری میں حضرتؐ تشریف فرماتھے اس کے بالکل بال مقابل دوسری طرف کچھ فاصلہ سے مدرس تھا اور اسی کے قریب مہتمم خانقاہ آپ کے برادرزادے حضرت مولانا شبیر علی صاحب بیٹھتے تھے۔ جب کبھی حضرتؐ کو کسی علمی مسئلے میں کسی مدرس سے بات کرنا ہوتی یا کسی انتظامی معاملہ میں بھائی شبیر علی صاحب سے کام ہوتا تو اکثر خود اٹھتے اور ان کی گلگہ پر پہنچ کر ان سے بات کرتے پھر واپس آ کر کام میں مشغول ہو جاتے تھے ان کو بلا ناپسند نہ کرتے تھے کہ ممکن ہے کہ اس وقت وہ کسی ایسے کام میں ہوں جس کا چھوڑنا مشکل ہو، اور ان کو تکلیف پہنچ۔

یہ تھے وہ عادلانہ آدابِ معاشرت جو حضرتؐ صرف قول سے نہیں اپنے فعل سے بھی لوگوں کو عمر بھر تلقین کرتے رہے ہیں۔ مگر افسوس ہے کہ متولین میں بھی اس خاص وصف پر بہت کم لوگوں نے دھیان دیا۔

اسی سلسلے میں فرمایا کہ مجھے اگر کسی مجمع اور مجلس میں چھینک آتی ہے تو المحدللہ آہستہ سے کہتا ہوں تاکہ سارے مجمع پر اس کا جواب دینا یا رحمک اللہ سے واجب نہ ہو جائے کیونکہ بعض

اوقات لوگوں کو اتفاقات نہیں ہوتا یا کوئی دوسری رکاوٹ ہوتی ہے تو وہ گنہگار ہو جاویں گے۔ اور فرمایا کہ مجھے اس معاملے میں متنبی شاعر کا یہ شعر پسند ہے ۔۔۔

اقل سلامی حب ماخف عنکم واسکت کیما لا یکون جواب

یعنی ”میں آپ کو بہت کم سلام کرتا ہوں تاکہ آپ پر سلام کا جواب دینے کا بارہ نہ پڑے اور میں اکثر ساکت رہتا ہوں سوال بہت کم کرتا ہوں تاکہ آپ پر جواب دینے کا بارہ نہ ہو۔۔۔“

صاف گوئی کے درجات

فرمایا کہ اہل اللہ جو صاف گوئی اختیار کرتے ہیں کسی کا عیب اس کو بتانا ہوتا ہے تو صاف بتا دیتے ہیں۔ ان کی نیت پونکہ اصلاح اور ہمدردی کی ہوتی ہے اس لئے کسی کو ناگوار نہیں گزرتا بلکہ اس کی طرف کشش ہوتی ہے اور جو اس وصف اصلاح و ہمدردی سے خالی ویسے ہی صاف گوئی کرنے لگے تو وہ ایک خشونت اور رختی رہ جاتی ہے وہ دوسرے کو ناگوار بھی ہوتی ہے اور اس کی طرف کشش بھی نہیں ہوتی۔

بزرگانِ دین کے تشدید کی حقیقت

فرمایا کہ گڑھی کے رہنے والے مولوی صدیق احمد صاحب ایک مرتبہ سر سید بانی علی گڑھ کے پاس ملاقات کو گئے۔ حضرت شاہ اخْلَق صاحب محدث دہلوی کا ذکر آیا۔ سر سید نے فرمایا کہ لوگ ان کو دین کے معاملے میں تشدید کرتے ہیں مگر واقعہ یہ ہے کہ وہ اپنے نفس پر تو واقعی تشدید تھے۔ ذرا ذرا سے شبہات سے بھی بچتے تھے مگر عام لوگوں کے لئے تشدید ہرگز نہ تھے بلکہ ان کے لئے سہولت شرعی گنجائش تلاش کرتے تھے اور فرمایا کہ میں نے ساہے کہ مولا ناصر شد احمد صاحب گنگوہی کا بھی یہی حال ہے۔

عمل میں کوشش اور خدا پر بھروسہ

بہت سے ناواقف ان دونوں میں تضاد سمجھتے ہیں۔ اس کی حقیقت ایک حدیث سے واضح ہوتی ہے رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:-

اجملوا فی الطلب و توکلوا علی اللہ۔ یعنی ”اپنے مقاصد کے حصول میں مختصر کوشش کرو پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔“

حضرتؐ نے اسی مضمون کی تعبیر اس طرح فرمائی کہ آدمی کا کام ہر مقصد میں یہ ہے کہ قانونی کوشش اور معمولی احتیاط کرے پھر قلب کی شہادت پر تفویض علی اللہ کے ساتھ اس کوشش کو جاری رکھے۔

خود تقویٰ پر عمل اور دوسروں کے لئے سہولت دینے کا اہتمام اور ہر کام میں آدابِ معاشرت کی رعایت

حضرتؐ ایک ریاست میں تشریف لے گئے وہاں کے نواب صاحب نے ایک سو اکھتر روپیہ نذرانہ پیش کیا۔ فرمایا کہ اس وقت کچھ دوسرے علماء بھی ساتھ تھے اتنا ہی نذرانہ ان کو بھی پیش کیا۔ مجھے اس نذرانہ میں شبہ تھا اس لئے قبول کرنے کے لئے دل آمادہ نہیں تھا۔ مگر میں انکار کر دیتا تو دوسرے لوگوں کو بھی پھر یہی صورت اختیار کرنا پڑتا۔ میں نے چاہا کہ دوسروں کا نقصان نہ ہو۔ خفیہ طور پر ان کے وزیر سے کہہ دیا کہ میں یہ نذرانہ نہیں لوں گا۔ اول تو میرا معمول اس طرح نذرانہ لینا ہے نہیں۔ دوسرے مجھے اس میں شبہ یہ بھی ہے کہ یہ مال نواب صاحب کی ملک توبے ہے لیکن ایک بیت المال کا ساد رجہ ہے۔ اور مجھے ان کے بیت المال سے کچھ لینے کا اس لئے حق نہیں کہ میں ان کی ریاست میں کوئی خدمت لوگوں کی نہیں کرتا۔ یہ ہیں آدابِ معاشرت جن کی حفاظت سب کو کرتا چاہیے۔

اسی لئے حضرتؐ نے اس کے بعد فرمایا کہ عبادات کے اركان اور احکام اگرچہ عظمت سے بہت زیادہ عظیم اور افضل ہیں مگر معاشرت کے اركان مہتمم بالاشان زیادہ ہیں کیونکہ ان کا اہتمام نہ کرنے سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ پھر فرمایا کہ حضرت حاجی صاحب قدس سرہ نے ضیاء القلوب میں لکھا ہے کہ جب تک انسان کے اخلاق (باطنی عادات) درست نہ ہوں۔ اس میں وصول الی اللہ کی صلاحیت اور استعداد پیدا نہیں ہوتی۔ (اور یہ ظاہر ہے کہ اخلاق کی درستی بغیر

معاشرت کی درستی کے نہیں ہوگی)۔

اللہ والوں کا جن بھی ادب کرتے ہیں

تحانہ بھون میں ایک جن تھا جس کا نام تھا شہامت۔ بہت لوگوں کو تکلیف دیتا پھر تا تھا حضرتؐ نے اس کے نام ایک پرچہ لکھ دیا جس میں اس کو خدا کے عذاب سے ڈرایا۔ یہ پرچہ دیکھ کر کہنے لگا کہ یہ کوئی تعریز تو ہے نہیں جس سے جن بھاگ جائے مگر یہ ایسے شخص کا خط نہیں ہے جس کی پرواہ نہ کی جائے۔ اچھا اب ہم جاتے ہیں آگے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں گے۔ صحیح ہے کہ

ہر کہ تر سید از حق و تقویٰ گزید

علماء میں جو بہ عمل بھی ہوں عوام میں ان کو رسوا کرنا اچھا نہیں

فرمایا کہ دینی مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ علماء کی نصرت کرنا چاہیے اگرچہ وہ بعمل بھی ہوں اگر عوام کے قلب سے علماء کی وقعت گئی تو دین کا خاتمہ ہو جائے گا۔ کیونکہ پھر وہ کبھی علماء سے بدگمان ہو کر کسی کی بات پر بھی دھیان نہ دیں گے۔

ایک دیوانے کا کلمہ حکمت

حضرتؐ نے فرمایا کہ ایک مجدوب نے کیا حکمت کی بات کہی کہ عقل وہ ہے جو خدا کو پاوے اور خدا وہ ہے جو عقل میں نہ آوے۔ حضرتؐ نے خدا کو پانے کی تشریع یہ فرمائی کہ خدا کو پانے کی کوشش میں لگا رہے اس سے غافل نہ ہو۔

۲۱ رمضان ۱۳۲۸ھ بعد الجموعہ

مجذوب اور عام دیوانے میں فرق

بہت لوگ عام پاگلوں کو مجذوب سمجھ کر ان کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ اور دین دنیا کے خسارہ میں پڑتے ہیں۔ اول تو حضرتؐ کی تعلیم یہ تھی کہ جو شخص حقیقت میں بھی مجذوب ہو اس سے نفع کم نقصان کا خطرہ زیادہ ہے ان کی زیادہ مصاہبত سے گریز بہتر ہے۔ اور اب تو لوگوں نے عام

پاگلوں کو مقتداء اور امام بنالیا ہے۔

حضرتؐ نے فرمایا حقیقت یہ ہے کہ مجدوب اور عام پاگل میں فرق پہنچانا آسان کام نہیں بس اس کو اہل نسبت اولیاء اللہ ہی پہچان سکتے ہیں جس کو ایسے حضرات مجدوب قرار دیں وہ مجدوب ہے ورنہ مجنون اور پاگل اگرچہ اس کو کچھ کشف صحیح بھی ہو جاتا ہو کیونکہ مجنون کو بھی کشف صحیح ہو سکتا ہے۔

عقائد سلف اور علم کلام میں سلامتی کا راستہ

فرمایا کہ حضرات متكلمین نے حق تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں جو کچھ کہا ہے وہ درحقیقت اہل بدعت والحادی کی مدافعت ہے اس کو علمی اصطلاح میں صرف منع (ابدء احتمال) کے درجے میں رہنا چاہیے جس کا حاصل یہ ہے کہ ایسی صورت ہو تو یہ ممکن اور محتمل ہے محال نہیں۔ یہ نہیں کہ واقع میں عند اللہ ایسا ہی ہے مگر ہو یہ گیا کہ متاخرین متكلمین بجائے مانع بننے کے مدعا بن بیٹھے اور اپنے پیدا کئے ہوئے احتمالات کو اسلام کے عقیدہ کا درجہ دے دیا۔

(اس کو ایک مثال سے سمجھئے اور کلام کے ایک مشہور مسئلے کو لے لیجئے کہ جسم کی ترکیب میں بمقابلہ فلاسفہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ اجزاء لا-تجزاء سے مرکب ہے۔ ہیولی اور صورت سے نہیں۔ یہ بات اس لئے اختیار کی گئی کہ فلاسفہ کے قول کے مطابق ہیولی اور صورت سے جسم کو مرکب مانا جائے تو اس کے نتیجہ میں اس کو قدیم ماننا لازم آتا ہے۔ متكلمین نے ایک دوسرا احتمال یہ پیش کیا کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ اجزاء لا-تجزاء سے مرکب ہو۔ اس کو اگر صرف احتمال کے درجے میں رکھا جاتا تو درست تھا مگر متاخرین نے اس کو ایسے انداز میں پیش کیا کہ گویا یہ اسلام کا عقیدہ ہے اور ظاہر ہے کہ اسلامی عقیدہ کے لئے قطعی الثبوت دلائل کی ضرورت ہے وہ اس مسئلے کے لئے موجود نہیں) حضرتؐ نے فرمایا کہ اس لئے میں تو یہ کہتا ہوں کہ علم کلام کو صرف مدافعت اہل بدعت اور منع اصطلاحی یعنی احتمال و امکان کے درجے میں رکھنا چاہیے۔ اور عقائد کو مثل سلف صالحین کے ان مباحث سے سادہ رکھنا چاہیے۔

وْحِيٌّ اُور الہام میں فرق

فرمایا کہ وْحِيٌّ کی مخالفت گناہ عظیم ہے اس پر آخرت کا عذاب مقرر ہے اور الہام کی مخالفت سے کوئی گناہ لازم نہیں آتا نہ آخرت میں اس کی مخالفت پر کوئی عذاب ہے مگر عموماً صاحب الہام اگر اپنے الہام کے خلاف کام کرتا ہے تو دنیا میں اس کو سزا مل جاتی ہے کسی تکلیف و مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔

ایک صوفیانہ شعر کی تحقیق

بعض صوفیہ کا یہ شعر معروف ہے:-

اے تو از حال نزشتہ توبہ جو
کے کنی توبہ از میں توبہ بگو!

اس کا حاصل سابقہ گناہوں کو بار بار یاد کر کے توبہ کو مکر رکھ کر کرتے رہنے سے منع کرتا ہے۔ اور یہ کہ ایک مرتبہ پورے اخلاص اور الحاج وزاری کے ساتھ توبہ کو اس کے پورے شرائط کے ساتھ کر لینے کے بعد ہن کو اس سے فارغ کر لینا چاہیے۔ اس کی تحقیق میں حضرتؐ نے فرمایا کہ:-

”سابقہ گناہوں کو یاد کر کے بار بار تکرار توبہ کرتے رہنا عوام کے لئے مفید ہے مگر خواص الہ اللہ کے لئے بار بار اپنے سابقہ گناہوں کو سوچتے رہنا مفید نہیں بلکہ بعض اوقات یہ سوچ فکر ایک حجاب بن جاتا ہے۔ ایسے حضرات کو چاہیے کہ آئندہ حق تعالیٰ کے تعلق کو مضبوط کرنے کی فکر کریں اسی پر پوری توجہ دیں۔ بشرطیکہ ایک مرتبہ پوری طرح شرائط توبہ ادا کر کے توبہ کر چکے ہوں۔ اس کے بعد بازگزشتہ کی سوچ پڑتا بعض اوقات حجاب بن جاتا ہے جیسا کہ بعض بزرگوں نے فرمایا۔

(ماضی و مستقبلت پر ده خداست)

کیونکہ توبہ کہ حقیقت رفع حجاب ہے اور عوام کے لئے گناہ کو یاد نہ کرنا حجاب ہوتا ہے اور خواص کو اس کا زیادہ یاد کرنا حجاب ہوتا ہے جیسے دشمنوں میں باہمی مخالفت کے بعد دوستی ہو جانے اور دل صاف ہو جانے کے بعد گزشتہ زمانے کی عدا توں اور ایذ اؤں کا یاد کرنا درستی کے خلاف ہے“

لوگوں پر سب و شتم کرنے والا برکات باطنیہ سے محروم رہتا ہے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سب و شتم اور دوسروں پر لعن طعن میں مشغول ہو گا اس کو باطنی برکات کبھی حاصل نہ ہوں گی۔ کیونکہ دوسروں کی عیب گولی یا سب و شتم کا مشغاف وہی بنا سکتا ہے جو خود اپنے انعام سے بے خبر غافل ہو۔ اور جس شخص کو اپنی فکر ہوتی ہے تو اس کو ہر وقت اپنی ہی کشتوں انوارِ دل نظر آتی ہے دوسروں کے معاملات میں مداخلت کی فرصت ہی نہیں ملتی۔

گر رشک بر د فرشتہ بر پا کی ما
احسن برین چستی و چالا کی ما

خلوت میں خوف و گریہ اور جلوت میں انبساط چاہیے

فرمایا کہ حضرت مسیحی علیہ السلام پر گئیہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یرخنده کا غلبہ تھا باہم گلگلو ہوئی۔ مسیحی علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ کیا خدا تعالیٰ کا خوف نہیں جو خنده و ہنسی میں رہتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی رحمت سے مایوس ہیں جو ہر وقت بکاء میں رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا جس نے یہ فیصلہ کیا کہ خلوت میں توهہ حالت بہتر ہے جو حضرت مسیحی علیہ السلام کی ہے یعنی خوف و خشیت اور حزن و بکاء۔ اور عام مجلسوں اور جلوت میں وہ حالت بہتر ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے کہ خنده پیشانی اور شگفتہ مزاج رہیں تاکہ خلق خدا مایوس نہ ہو۔

حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب کیرانوی مصنف اظہار الحق رد عیسائیت
 فرمایا کہ مولانا رحمت اللہ صاحب کیرانوی کا حافظہ بڑا زبردست تھا۔ طب کی مشہور کتاب قانون شیخ کے چند اوراق کسی جگہ دیکھ لئے اور گھر واپس آ کر سب کو نقل کر لیا۔ افق لمبین کا ایک ورق سن کر دوبارہ اس کو حفظ سے پڑھ دیا مولانا کو جانداد ملی تھی۔ پواری کو بلا کر جائیداد کے متعلق تمام کاغذات سن لئے اسی وقت تمام یاد ہوئے۔

علم میں برکت بزرگانِ سلف کے ادب سے ہوتی ہے

فرمایا کہ علمی تحقیقات پر زور دینے سے زیادہ فکر بزرگانِ سلف کے ادب و احترام کی کرنا چاہیے اس سے اللہ تعالیٰ انسان میں ایک خاص بصیرت اور تحقیق کی شان بھی پیدا فرمادیتے ہیں۔

دین کے معاملے میں جرأت بیجا!

فرمایا کہ ساری دنیا کے بڑے بڑے لکھے پڑھے ماہر تحقیق جس فن کو نہیں جانتے اس میں ان کو یہ کہنے میں کوئی تکلف نہیں ہوتا کہ میں اس فن سے واقف نہیں۔ کسی انجینئر سے طب اور ذاکری کا مسئلہ پوچھا جاتا ہے تو بے تکلف کہہ دیتا ہے کہ میں ذاکر نہیں۔ ذاکر سے انجینئری کی بات پوچھی جائے تو کہہ دیتا ہے کہ میں انجینئر نہیں۔ مگر قرآن اور دین کو لوگوں نے معلوم نہیں کیوں ایسا سمجھ رکھا ہے کہ ہر شخص چاہے اس نے اس کے مبادی بھی بھی نہ پڑھے دیکھے ہوں اس میں بے دریغ رائے زندگی اور جو کچھ اپنی سمجھ میں آجائے اس پر اصرار کرنے لگتے ہیں۔ (بظاہر سبب یہ ہے کہ دین کی عظمت قلوب میں نہیں رہی۔ اس لئے اس کو ایک سرسری چیز سمجھ لیا ہے)۔

حکومت کے ایک افسر صاحب کو سود حلال کرنے کی بڑی فکر رہتی تھی اور کہتے تھے کہ مسلمان دوسری قوموں سے پیچھے اس لئے رہ گئے کہ ان کے یہاں سود حرام ہے۔ حضرتؐ نے فرمایا کہ بنو امیہ نے جو دنیا میں ترقی کی کیا انہوں نے بھی سود کو حلال کیا تھا۔ اگر نہیں تو معلوم ہوا کہ دنیا کی ترقی بھی سود پر موقوف نہیں۔ وہ ایک آیت کی غلط تفسیر کرتے تھے اور اس پر اصرار تھا اور شہادت میں یہ پیش کرتے تھے کہ خواجہ حسن نظامی نے اس آیت کا یہ مطلب لکھا ہے۔ یہ صاحب مقدمات کے فیضے کیا کرتے تھے۔ حضرتؐ نے فرمایا کہ اگر میں کسی مقدمہ کا وکیل ہو کر آپ کے سامنے پیش ہوں اور زیر بحث قانون کی ایسی تشریح بیان کروں جو اس کے الفاظ پر پوری اترتی ہے مگر ہائی کورٹ کی مانی ہوئی تعبیر و تشریح کے خلاف ہے۔ کیا آپ میرے بیان کئے ہوئے معنی و مطلب کی بنیاد پر مقدمہ کی ذگری دیں گے اور یہ لکھ دیں گے کہ اشرف علی نے اس قانون کی یہ تشریح کی ہے۔ اگر آپ ایسا کر لیں تو پھر دیکھیئے گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو کیا کیا خطابات ملتے ہیں۔

ایک عامی آدمی کا کلمہ حکمت

فرمایا کہ حاجی عبداللہ گور کیرانوی بے علم آدمی تھے مگر بہت متqi پر ہیز گار حضرت گنگوہی کے خادم تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ دین کے جس قدر پیشو اور مقتداء اور کارگزار لوگ مختلف زمانوں اور مختلف ملکوں میں ہوئے اور ان کے کارنا مے دنیا میں معروف ہوئے اگر غور کریں گے تو معلوم ہو گا کہ وہ سب عموماً شیوخ و سادات میں سے تھے (وجہ ظاہر ہے کہ سادات اولاد رسول اور شیوخ نسل صحابہ ہیں)۔

بزرگوں کی تواضع

فرمایا کہ ہمارے سب بزرگوں کی امتیازی شان تواضع اور فروتنی تھی (علم و عمل میں بڑے بڑوں سے ممتاز ہونے کے باوجود اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھتے تھے) اور فرمایا کہ الحمد للہ میں کسی کو بھی اپنے دل سے چھوٹا نہیں سمجھتا۔ کیونکہ میں ہر فاقع میں حالاً اور ہر کافر میں مالاً یا احتمال سمجھتا ہوں کہ شاید وہ عند اللہ اس زمانے کے مشائخ و اولیاء سے افضل و بہتر ہو۔

اصلاح اعمال کے لئے ایک مراقبہ

فرمایا کہ شرح الصدور میں علامہ سیوطی نے ایک روایت یہ نقل کی ہے بربخ میں زندہ لوگوں کے اعمال ان کے مردہ آباء و اجداد اور خاص عزیزوں کو دکھلائے بتلائے جاتے ہیں۔ اگر آدمی اسکا استھنار اور تصور کرے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ میرے باپ یا استاد یا پیر اور دوسرے بڑوں کے سامنے آئے گا تو وہ کیا کہیں گے۔ یہ تصور انسان کو بہت سی برائیوں اور گناہوں سے روک سکتا ہے۔

اللہ والوں کی شان میں گستاخی بے ادبی سخت بُرے اثرات رکھتی ہے

فرمایا کہ

بس تجربہ کر دیم درین دیر مکافات
باور کشاں ہر کہ درافتاد برافقا

اہل اللہ کے ساتھ بے ادبی اور گستاخی کا کوئی معاملہ کرنا اپنا انجام خراب کرنے کی دعوت ہے ایسے شخص پر سوء خاتمہ کا انذیرہ ہوتا ہے۔

ایسے حضرات سے اگر کسی مجتهد فیہ معااملے میں غلطی بھی ہو جائے تو جو شخص اس کو ازروئے، شرع درست نہ سمجھتا ہو اس پر یہ توازن ہے کہ اس فعل پر نکیر کرے اس کے غلط ہونے کو دلیل سے بیان کرے مگر خود ان کی ذات پر گستاخانہ طعن اور بے ادبی کے کلمات سے بچنے کی بہت فکر رکھنا چاہیے۔

خدمتِ خلق میں بھی مشاہدہ حق ہو سکتا ہے

فرمایا کہ حق تعالیٰ بعض بندوں کو بلا واسطہ اپنے ساتھ مشغول رکھنا پسند کرتے ہیں ان کے لئے اسی میں فضیلت و برکت ہے اور بعض لوگوں کو مخلوق کی تدبیر و اصلاح میں لگادیتے ہیں تاکہ وہ بلواسطہ جمال حق کے مشاہدہ میں مشغول رہیں۔ جیسے عینک کے واسطہ سے دیکھنا۔ ان لوگوں کے لئے بھی اسلام ہوتا ہے اسی میں ان کے درجات بڑھتے ہیں (اس سے معلوم ہوا کہ خلق اللہ کی دینی خدمت تعلیم تبلیغ تربیت تو عبادت میں داخل ہے ہی ان کی دنیاوی راحت کی تدبیر میں مشغول ہونا بھی اگر صحیح نیت یعنی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لئے ہو تو وہ بھی عبادت میں داخل اور مشاہدہ جمال حق کا ذریعہ ہے)۔

اور فرمایا کہ محبت تو حق صرف اللہ تعالیٰ کا ہے اس لئے محبت تو صرف اسی سے ہونی چاہیے اور خلق اللہ پر شفقت ہونی چاہیے۔ اور عارف کو عامہ خلق پر شفقت سب سے زیادہ اس لئے ہوتی ہے کہ ان کو سرکاری چیزیں سمجھتا ہے اور کل مخلوقات کے ساتھ متعلق اس نظر سے رکھتا ہے کہ وہ سب حق تعالیٰ کی چیزیں ہیں۔

۲۶ رمضان ۱۳۲۸ھ

توحید کی حقیقتِ عملی

حضرت شاہ غوث علی پانی پتی کی زبان پر سکرات موت کے وقت یہ شعر جاری تھا۔
فرد آئی در خلاء و در ملاء
چیست توحید آنکہ از غیر خدا

شعر کا مطلب یہ ہے کہ توحید صرف اس کا نام نہیں کہ زبان سے اللہ کے ایک ہونے کا اقرار
کر لیا بلکہ عملی زندگی پر اس کا یہ اثر ہوتا چاہیے کہ جلوت و خلوت میں صرف ایک اللہ ہی سے واسطہ
اسی سے تعلق اسی سے امید و نیم رہے۔

مروجه شبینہ

فرمایا کہ میں ایک مرتبہ شبینہ میں شریک ہوا وہاں قرآن کریم کی ایسی بے حرمتی دیکھی کہ
آئندہ توبہ کر لی۔ اس لئے اب میں شبینہ کرنے کو منع کرتا ہوں۔ سوائے پانی پت کے وہاں کے
لوگوں میں قرآن کا ذوق ہے وہ شبینہ میں بھی احترام کے ساتھ پڑھتے اور سنتے ہیں۔

رمضان شریف میں سب سے بڑی عبادت تلاوتِ قرآن ہے

حاضرین خانقاہ جو عبادت ہی کے لئے یہاں جمع رہتے ہیں ان کو خطاب کر کے فرمایا کہ
رمضان شریف کو تو قرآن شریف پڑھنے ہی کے لئے رکھنا چاہیے میں تو اگر کسی کو ذکر شغل شروع
کرتا ہوں تو رمضان میں نہیں کراتا بلکہ رمضان کے بعد کرتا ہوں۔ رمضان میں تو وہی عبادت
ہونی چاہیے جو مأثور اور منقول ہے۔ جس کو مقدمات لگا کر عبادت بنانا نہ پڑے۔ اشغال مروجہ
صوفیہ مقدمہ عبادت ہیں۔ اصل عبادت وہی ہے جو مأثور اور منقول ہو۔

وقت میں برکت

فرمایا کہ حضرت مولانا محمد اسماعیل شہید نے فرمایا گومتی کے میدان میں عصر و مغرب کے
درمیان پورا قرآن مجید ختم کیا۔ یہ وقت کی برکت بطور کرامت تھی جو اولیاء اللہ کو نصیب ہوتی ہے۔

ابریز میں شیخ عبدالعزیز دبائی ش کا واقعہ لکھا ہے کہ ان کو حضرت خضر علیہ السلام نے کوئی وظیفہ پڑھنے کے لئے بتایا تھا جو صبح سے عشاء تک پورا ہوتا تھا۔ پھر وقت میں برکت ہوئی تو مغرب تک ہونے لگا پھر عصر تک پھر ظہر تک، یہاں تک کہ آخر میں صبح کی نماز سے چاشت کی نماز تک پورا ہونے لگا۔

حضرت مرزا مظہر جان جاناں شہید

حضرت مرزا مظہر جان جاناں شہید ایک شیعہ شخص کے ہاتھ سے شہید ہوئے۔ شہادت کی رات میں خواب دیکھا کہ حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ عنہا سرخ کرتے پہنے ہوئے تشریف لائیں۔ خواب کی تعبیر اپنی شہادت سے لے کر صبح ہی سے منتظر اور سرور تھے اور یہ اشعار زبان پر تھے۔

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| سر جدا کردا زخم پارے کہ بامیار بود | قصہ کوتہ کر دور نہ در دسر بسیار بود |
| بلوح تربت من یا تند از غیب تحریرے | کلین مقتول اجز بگنہ ہی نیست تقصیرے |

مدرسہ کے بارے میں

ارشاد فرمایا کہ میری طالب علمی کے زمانے میں ایک انگلیز ٹکلکشہ مدرسہ دیوبند میں آنے والا تھا۔ میں نے حضرت مولانا محمد یعقوب صاحبؒ سے عرض کیا کہ اگر وہ چندہ دیں تو آپ قبول کر لیں گے؟ فرمایا ہاں۔ میں نے عرض کیا کہ پھر اس کو کہاں صرف کریں گے؟ فرمایا ہمارے پاس بہت سے ایسے مصارف ہیں ہم بھٹکیوں کو تجوہ میں دے دیں گے۔

میں نے پھر عرض کیا کہ اگر وہ کوئی مشورہ دیں تو کیا آپ قبول کریں گے؟ فرمایا نہیں۔ ہم ان سے کہہ دیں گے کہ ہمارا تمام کام ایک مجلسِ شوریٰ کی رائے سے ہوتا ہے ہم آپ کا مشورہ اس مجلس میں پیش کر دیں گے۔

ارشاد فرمایا کہ حضرت مولانا محمد قاسمؒ باوجود بانی دارالعلوم ہونے کے چندہ کے واسطے کبھی امراء کی خوشامد گوارانہ کرتے تھے۔ اس طرح حضرت مولانا محمد یعقوب صاحبؒ مدرسہ کے مصالح پیش نظر ہونے کے باوجود کبھی کسی سے چندہ حاصل کرنے کے لئے نہ ملتے تھے۔

تعريف کرنے والے کو جواب

امر ترک کے ایک صاحب نے عربی زبان میں ایک قصیدہ مدحیہ حضرت " کے متعلق لکھ کر بھیجا۔
حضرت " نے اس کے جواب میں ایک فارسی شعر لکھ کر واپس فرمادیا۔

گفتہم اے یوسف زبانم دوختی
وز پشیمانی تو جانم سوختی
اور پھر ایک عربی شعر پڑھا۔

هُنِيَّا لِأَرْبَابِ الْكَمَالِ كَمَالُهُمْ
لِلْعَاشِقِ الْمُسْكِينِ مَا يَتَجَرَّعُ

یعنی مبارک ہو کمال والوں کو ان کے کمالات۔ اور عاشق مسکین کو مبارک ہو وہ غم جس کو ہو
گھونٹ گھونٹ پی رہا ہے۔
اور فرمایا کہ جب تک یہ کھکھ لگا ہوا ہے کہ کس حالت میں موت آؤے گی جی کسی کمال سے
خوش نہیں ہوتا۔ کسی چیز کے لئے دل نہیں اُبھرتا۔

ایک حدیث کی تشریح

حدیث میں ہے کہ سورہ اخلاص قل هو اللہ ایک تہائی قرآن کے برابر ہے۔ اس سے
بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تین دفعہ قل هو اللہ پڑھ لینے سے پورے قرآن کا ثواب مل جاتا ہے۔
حضرت " نے فرمایا کہ حضرت شاہ اخْلَقْ صاحب محدث دہلوی فرماتے تے اس حدیث سے یہ لازم
نہیں آتا کہ تین مرتبہ قل هو اللہ پڑھنے سے کامل قرآن کا ثواب مل جاتا ہے۔ بلکہ تین مرتبہ
قرآن کا ثواب ہو گا۔ جیسے کوئی شخص دس پارے تین مرتبہ پڑھ لے۔

حضرت گنگوہی کا ایک کلمہ حکمت

حضرت گنگوہی نے فرمایا کہ دنیا میں کوئی آدمی رنج و غم سے بچنا چاہے تو اس کے سوا کوئی
راستہ نہیں کہ کسی سے کسی نفع کی توقع نہ رکھے۔ (انتہی)
حقیقت یہ ہے کہ ساری پریشانیوں کی بنیاد خیالی توقعات ہوتی ہیں۔ جب وہ پوری نہیں

ہوتی تو رنج ہوتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ مقام صرف اللہ والوں ہی کو ہو سکتا ہے جن کی امید و یہم کا تعلق صرف ایک ذات حق تعالیٰ سے وابستہ ہوتا ہے۔

امید و ہر اش نباشد ز کس
بھیں است بنیاد تو حید و بس

تعویذات و نقوش

فرمایا کہ حصن حصین میں ایک حدیث ہے جس میں ارشاد ہے:-

من لم يقرأ كتبها ففي صك۔ یعنی ”جو پڑھنے سکے وہ کسی کاغذ میں لکھے ہے۔“

اس سے معلوم ہوا کہ جن حاجات کے لئے تعویذات لکھے جاتے ہیں ان میں اصل چیز دعاء اور آیات کا پڑھنا ہے وہی زیادہ نافع ہے۔ لکھ کر گلے میں ڈالنا ان کے لئے ہے جو پڑھنے سکیں۔ جیسے پچھے یا بالکل ایسے جاہل جن کی زبان سے قرآن اور دعاء کے الفاظ ادا ہونا مشکل ہو۔ آج کل لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا نام لینے اور پڑھنے کا توزوق رہا نہیں۔ اس لئے کوئی وظیفہ دعاء ان کو بتائی جائے تو اس کے لئے تیار نہیں ہوتے۔ یوں چاہتے ہیں کہ خود کچھ کرنا نہ پڑے۔ بس کوئی پھونک مار دے یا لکھی ہوئی چیز دے دے۔ اس سے سب کام ہو جاتا ہے۔

پھر فرمایا کہ ایک پہلوان نے کشتی میں غالب رہنے کے لئے مجھ سے تعویذ مانگا۔ میں نے کہہ دیا کہ اگر تمھارا مقابل کوئی مسلمان نہیں ہے تو دے دوں گا اور نہ نہیں۔

(معلوم ہوا کہ جس کو کوئی تعویذ دینا ہو یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ کسی پر ظلم تو نہیں کر رہا اور کسی ناجائز کام کے لئے تو تعویذ نہیں لے رہا۔ ناجائز کام میں امداد کرنا اس کے لئے تعویذ دینا بھی جائز نہیں)۔

تقابل مذاہب

آج کل سکولوں اور بہت سے مدارس میں تقابلی مطالعہ اور تقابل کے مضمون کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے۔ اس کے متعلق ارشاد فرمایا کہ جو طالب علم اپنے مذہب کی معلومات پوری نہ رکھتا ہو اور مذہب میں رسونخ نہ رکھتا ہو اس کے لئے غیر مذہبوں کی کتابوں کا مطالعہ بہت خطرناک ہے۔

فضل اور اکمل میں فرق

ارشاد فرمایا کہ صحابہ کرام کا ہر فرد کل عالم کے مسلمانوں سے افضل ہے۔ قرآن و حدیث کی نصوص اس پر شاہد ہیں۔ لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ہر صحابی ہر کمال علمی وغیرہ میں سب لوگوں سے اکمل بھی ہو۔ آئمہ مجتہدین ابوحنیفہ، شافعی، مالک، احمد بن حنبل اور دوسرے حضرات مجتہدین مجتہد تھے۔ تفہیقہ کا کمال ان کو حاصل تھا اور صحابہ کرام میں بعض ایسے بھی تھے جو مجتہد نہیں تھے مگر اس سے بھی افضیلت آئمہ مجتہدین کی لازم نہیں آتی۔ خلاصہ یہ ہے کہ افضل ہونا اور چیز ہے اکمل ہونا اور افضیلیت کا مدار قبول عند اللہ پر اور کمالات کی تحصیل اکتسابی اختیاری چیز ہے۔

فرمایا کہ علماء اور طلباء کو اگر دنیا کے لوگ متکبر کہیں وہ اچھا ہے۔ بہ نسبت اس کے کہ ذلیل کہیں۔ یعنی تکبر کی بدنامی علماء کے لئے تملق و خوشامد کی بدنامی سے بہتر ہے۔ فرمایا کہ بخدا پھٹے ہوئے کپڑے، ٹوٹے ہوئے جوتے کوئی ذلت کی چیز نہیں۔ ذلت یہ ہے کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور اپنی حاجت پیش کرے۔

مجلس صحیح

۲۱ جمادی الاولی ۱۳۵ھ

جمعرات

صوفیائے کرام کے مجوزہ طریقے اور تعلیمات اکثر انتظامی مدیریں ہیں

احکام نہیں اس لئے ان کا ثبوت نصوص سے ضروری نہیں

حضرات صوفیائے کرام نے اصلاح نفس کے لئے کچھ معالجات روحانی اور ریاضت و مجاہدات کے خاص خاص طریقے بتائے ہیں جو قرآن و سنت اور صحابہ و تابعین کے عمل سے ثابت نہیں۔ اس سے بعض لوگوں کو شہبہ ہوتا ہے کہ یہ بدعت میں داخل ہیں اور بعض لوگ اسی بناء پر اس طریقہ ہی کو غلط کہنے لگے۔ اور صوفیائے کرام سے بدگمان ہو گئے۔ اور بلاشبہ بہت سے جاہل

متضوف لوگوں نے ایسا کیا بھی ہے کہ اکابر کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز کیا اور شرک و بدعت میں بتلا ہو گئے۔ آئندہ تصوف اور اکابر سلف اس سے بری ہیں۔ حضرت قدس سرہ نے اس کی حقیقت ایک ملفوظ میں اس طرح واضح فرمائی کہ :-

صوفیائے کرام جو تم اپر سالکین طریق کے لئے تجویز کرتے ہیں وہ احکام نہیں۔ جن کے نصوص قرآن و حدیث سے ثبوت تلاش کرنے کی ضرورت ہو بلکہ ایک انتظام اور معالجہ ہے اصلاح نفس کا اسی لئے وہ ہر شخص کے لئے اس کی طبیعت اور حالت کے مناسب جدا جدرا ہوتا ہے۔ مثلاً کبر کا حرام ہونا اور اس کا ازالہ فرض ہونا یہ تو احکام ہیں جو قرآن و سنت میں منصوص ہیں اب ازالہ کبر کے لئے مشائخ طریق مختلط قسم کی تدبیریں ہر ایک کے حال کے مناسب تجویز فرماتے ہیں۔ کسی کو کہتے ہیں کہ تم نمازوں کی جوتیاں سیدھی کیا کرو۔ کسی کو کہتے ہیں کہ اپنی نالائیقی کا اعلان کیا کرو۔ یہ محض انتظامی تدبیریں اور معالجہ ہے اس کے لئے ضروری نہیں کہ کسی نص کتاب و سنت میں وارد ہو۔ اگر کوئی نص شرعی بیان بھی کر دی جائے تو وہ محض تجزع ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ احکام شرعیہ کے لئے تو اصول شرعیہ اور تعامل سلف سے ثبوت ضروری ہے جو چیز قرآن و سنت اور تعامل صحابہ و تابعین سے ثابت نہ ہو۔ احکام میں اس کا اختیار کرنا بدعت کہلاتا ہے لیکن احکام شرعیہ پر عمل کرنے سے جو طبعی موانع انسان کو پیش آتے ہیں ان موانع کے ازالہ کے لئے جو تدبیریں کی جائیں وہ ایک معالجہ ہے ان تدبیروں کا قرآن و سنت سے ثابت ہونا ضروری نہیں۔ جس طرح جسمانی معالجہ کا حال ہے کہ مریض کے لئے جو کوئی حکیم یا ذاکر کوئی دواء، پرہیز، غذا وغیرہ خصوص کر دیتا ہے۔ کوئی یہ پوچھئے کہ یہ کس آیت یا حدیث سے ثابت ہے کہ یہی دواء استعمال کی جائے۔ ظاہر ہے کہ یہ سوال بے جا اور نتا واقفیت پر مبنی ہے۔ قرآن و سنت سے اس چیز کا حال ہونا ثابت ہو یہ تو ضروری ہے۔ آگے جتنی قیدیں، هشطیں کوئی ذاکر حکیم لگاتا ہے اس کی پابندی کسی آیت و حدیث سے ثابت ہونا ضروری نہیں۔ اس کا مدار تجربہ پر ہے۔

ہاں ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ اگر کوئی شخص حکیم ذاکر کی بتائی ہوئی تدبیر اور اس کی لگائی

ہوئی قید و شرط کو عبادت سمجھ کر کرے تو یہی بدعت ہو جائے گی۔ معالجہ نفس کا ضروری ہونا تو قرآن و سنت اور تعامل صحابہ و تابعین سے ثابت ہے۔ وہ عبادت اور ثواب ہے لیکن اس کی کسی خاص صورت کو عبادت و ثواب کا مدار قرار دینا جو نہ کرے اس کو برا سمجھئے یہ اس کو بدعت کی حد میں داخل کر دیتا ہے۔ خوب سمجھ لیا جائے۔

حضرتؐ نے فرمایا کہ ایک غیر مقلد صاحب جو بہت نیک آدمی ہیں انہوں نے مجھے خط لکھا کہ آپ کے یہاں ہمارا بھی کچھ حصہ ہے۔ میں نے جواب لکھا کہ حصہ تو ہر مسلمان کا ہے مگر اتنا بتلا دیجئے کہ آپ امام اعظم ابوحنیفہ کی تو تقليد نہیں کرتے میری بھی تقليد کریں گے یا نہیں۔ مدت تک ان کا خط نہ آیا۔ پھر کچھ عرصہ کے بعد خط آیا کہ برائے کرم اس سوال کو اٹھا دیجئے اور مجھے کچھ بتلا دیجئے۔ وہ اس سوال کے جواب میں اس لئے متغیر ہوئے ہوں گے کہ میری تقليد کرنے کا اقرار کرتے ہیں تو سوال کہ امام ابوحنیفہ کی تقليد کو ناجائز کہتے ہو میری تقليد کیے جائز ہو گئی اور اگر انکار کرتے ہیں تو سوال ہو گا کہ جب ہمارا کہنا ہی نہ مانو گے تو کام کیسے چلے گا۔ لیکن اگر وہ مجھ سے پوچھتے تو میں ان کو اس کا صحیح جواب بتلا کر خود ہار جاتا۔

جواب یہ تھا کہ امام صاحبؐ کی تقليد تو احکام میں کرائی جاتی ہے۔ جن میں سے بعض کو ہم روایات و نصوص کے خلاف سمجھتے ہیں اس لئے ان کی تقليد مطلق کو ناجائز کہتے ہیں اور آپ کی تقليد تو محض انتظام میں ہو گی جیسے کسی حکیم ڈاکٹر تقليد و اتباع معالجات میں کیا جاتا ہے۔ اس کو ہم جائز سمجھتے ہیں۔

کسی سے بیعت ہونے کے لئے اس کا انقیاد ضروری ہے اور انقیاد بغیر محبت کے نہیں ہوتا۔ اسی لئے طریق سلوک میں حب شیخ کی بڑی اہمیت ہے اسی سلسلہ کلام میں فرمایا کہ آج کل لوگوں میں کچھ اعتقاد تو ہے مگر انقیاد (یعنی اتباع) نہیں۔ اور کام کے لئے ضرورت انقیاد کی ہے اور انقیاد پیدا ہوتا ہے محبت سے۔ اسی لئے اس طریق میں حب شیخ بہت ضروری اور مدارکار ہے۔ اسی لئے میں بیعت کرنے میں جلدی نہیں کرتا۔

جب تک کہ مناسبت طرفین کا علم نہ ہو جائے۔ کیونکہ بغیر باہمی مناسبت کے محبت نہیں ہوتی اور پہچان مناسبت کی یہ ہے کہ اگر اس شخص کو اپنی آنکھ سے گناہ میں بتلا بھی دیکھے تو اس کا اعتقاد بزرگی تو زائل ہو جانا چاہیے۔ مگر محبت زائل نہ ہو۔ کیونکہ ایسی صورت میں اس سے عقیدت رکھنا تو باز نہیں اور ترک اعتقاد واجب ہے مگر محبت امر اختیاری نہیں وہ جس سے ہو جاتی ہے وہ ایسی صورت میں بھی زائل نہیں ہوتی۔ مثلاً کسی کا باپ معاذ اللہ مرتد ہو جائے یا کسی بڑے گناہ میں بتلا ہو جائے تو عقیدت تو اسی وقت زائل ہو جاتی ہے کہ پہلے اس کو مومن سمجھتا تھا اب کافر سمجھتا ہے یا پہلے اس کو نیک صالح سمجھتا تھا اب گنہگار سمجھتا ہے مگر محبت فرزندانہ پھر بھی زائل نہیں ہوتی بلکہ اس حیثیت سے اور بڑھ جاتی ہے کہ لوگوں سے اس کے اسلام کی عود کرنے کی تدبیر میں پوچھتا پھرتا ہے۔

وعظ و تبلیغ کے اہم آداب جن کا موثر ہونا تجربہ سے ثابت ہے

ارشاد فرمایا کہ ہمیشہ وعظ و تبلیغ میں میری یہ عادت رہی ہے کہ بات کتنی بری اور لوگوں کے مذاق کے خلاف ہو مگر عنوان نہایت نرم اور حقی الامکان ایسا رکھتا تھا کہ دل قبول کر لے، لوگوں کو وحشت و نفرت نہ ہو اور دل آزار الفاظ سے ہمیشہ اجتناب کرتا تھا۔ مخالفین کے جواب میں بھی ہمیشہ یہی معمول رہا ہے اور اسی سے نفع ہوتا ہے۔

ایک مرتبہ ایک قصاص کی درخواست پر میں جو پور گیا۔ انہیں کے مکان پر مہمان ہوا۔ وہاں میرے پاس ایک خط نظم میں پہنچا جس میں چار چیزیں میرے متعلق لکھی تھیں۔

اول یہ کہ
تم جاہل ہو۔

دوسرے یہ کہ
تم جلا ہے ہو۔

تیسرا یہ کہ
تم کافر ہو۔

چوتھے یہ کہ وعظ کرنے بیٹھو تو
پگڑی سنجدال کر بیٹھنا۔

میں نے کسی سے اس خط کا تذکرہ نہ کیا۔ اگلے روز جب وعظ کا وقت آیا تو منیر پر بیٹھ کر میں

نے لوگوں سے کہا صاحبو! وعظ سے پہلے مجھے آپ سے ایک مشورہ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ مجھے یہ خط ملا ہے اس میں چار چیزیں ہیں۔ پہلے جزو کے متعلق تو مجھے اس لئے کچھ کہنا نہیں ہے کہ یہ صاحب مجھے جاہل لکھتے ہیں اور میں خود اپنے اجہل ہونے کا مترف ہوں۔ اسی طرح دوسرے جزو کے متعلق بھی کچھ کہنا نہیں ہے کیونکہ اول تو جلاہا ہوتا کوئی عیب نہیں اور اگر کسی درجہ میں ہو بھی تو وہ غیر اختیاری امر ہے جیسے کوئی اندھایا کانا ہو تو مال اس کا بھی یہی ہے کہ یہ کوئی قابل بحث بات نہیں۔ دوسرے یہ کہ میں یہاں کوئی شادی کرنے تو نہیں آیا کہ میں نسب کی تحقیق کراؤں۔ تیسرے یہ کہ اگر کسی کو بلا وجہ میرے نسب ہی کی تحقیق کرنا ہو تو میں اپنی زبانی سے کیا کہوں میرے وطن کا پتہ اور وہاں کے عوام کے نام دریافت کر کے ان سے تحقیق کر لیں کہ میں جواہا ہوں یا کون؟ اسی طرح تیسرے جزو کے متعلق بھی مجھے مشورہ کرنا نہیں ہے کیونکہ پچھلی حالت کے متعلق مجھے بحث کرنے کی ضرورت نہیں کہ میں کافر تھا یا مسلمان میں اس وقت سب کے سامنے کلمہ پڑھتا ہوں اشہد ان لا الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب تو مسلمان ہو گیا اور جب تک ایمان کے خلاف کوئی بات مجھ سے ظاہر نہ ہو اس وقت تک مسلمان تھی کہا جائے گا۔ البتہ چوتھے جزو کے متعلق مجھے آپ حضرات سے مشورہ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ وعظ میں میرا معمول ہمیشہ یہ ہے کہ بالقصد اختلافی سائل بیان نہیں کرتا، بلکہ حتی الامکان ان سے پختا ہوں لیکن اگر دوران تقریر میں کہیں آ جاتے ہیں تو پھر رکتا بھی نہیں، البتہ عنوان نرم اور ایسے الفاظ کا اهتمام کرتا ہوں کہ دل آزار نہ ہوں۔ اب اگر وعظ کہوں گا تو اسی آزادی کے ساتھ کہوں گا اس کا نتیجہ پھر جو کچھ بھی ہو اس لئے مشورہ طلب یا امر ہے کہ وعظ گوئی کوئی میرا پیشہ تو ہے نہیں اور مجھے شوق بھی نہیں۔ لوگوں کی درخواست پر کہہ دیتا ہوں۔ اب اگر آپ حضرات درخواست کریں اور مشورہ دیں تو میں کہوں ورنہ چھوڑ دوں۔

پھر فرمایا آپ کو مشورہ میں مدد دینے کے لئے میں خود اپنی رائے بھی ظاہر کئے دیتا ہوں وہ یہ کہ وعظ تو ہونے دیا جاوے اور غالباً وہ صاحب بھی اس مجمع میں موجود ہوں گے جن کا یہ خط ہے۔ تو وہ جس جگہ کوئی ناگوار بات محسوس کریں اسی وقت مجھے روک دیں۔ میں اسی وقت وعظ بند کر دوں

گا۔ یا اگر اس میں ان کو کچھ جا بمانع ہو تو میں آج بعد ظہر مچھلی شہر چلا جاؤں گا۔ میرے جانے کے بعد میرے وعظ کی خوب تردید کر دیں۔ یہ کہہ کر میں خاموش ہو گیا۔ اور لوگوں سے کہا کہ اپنی رائے بیان کریں۔ چاروں طرف سے آوازیں آئیں کہ آپ ضرور وعظ کہیں اور آزادی سے کہیں۔

میں نے وعظ کہا اور حسبِ عادت ترغیب و تہیب اور اصول شرعیہ بیان کئے پھر ضمناً بعض فروع کی بحث آئی تو اتفاقاً اس میں بدعاات و رسوم کا بھی ذکر آگیا۔ تو خوب کھل کر بیان کیا۔ تمام مجمع محاجرت تھا ختم وعظ کے بعد جو پور کے ایک مشہور مولوی صاحب نے اتنا کہا کہ مولانا ان چیزوں کی تو حاجت نہ تھی۔ میں نے نہایت بے تکلفی سے ساتھ کہا کہ مجھے اس کی خبر نہ تھی میں نے تو حاجت سمجھ کر بیان کیا اگر آپ مجھے وقت پر منبہ فرمادیتے تو میں نہ بیان کرتا۔ اب تو بیان ہو چکا اب اس کا کوئی اور مدارک بھر اس کے نہیں کہ آپ دوسرے وقت اس کی تردید فرمادیں اور اسی مجلس میں اعلان فرمادیں کہ فلاں وقت اس وعظ کی تردید کی جاوے گی۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس پر کچھ نہ بولوں گا۔ مولانا عبدالاول صاحب جو جو پور کے فضلاء میں سے تھے وہ کھڑے ہوئے اور مولوی صاحب کو ملامت کی کہ آپ ایسی ہی باتیں کیا کرتے ہیں اور بھر اعلان کے ساتھ فرمایا کہ صاحبو! آپ سب جانتے ہیں کہ میں مولود یہ ہوں قیامیہ ہوں لیکن حق بات وہی ہے جو مولانا نے فرمائی ہے۔ اس کے بعد وہ مجھے اپنے مکان پر لے گئے اور اپنے پاس مہمان رکھا۔

ایک اور واقعہ

فرمایا کہ نواب ڈھا کہ کو غفل میلا دکا بہت شوق تھا خود مجالس منعقد کرتے تھے اور خود ہی پڑھا کرتے تھے۔ انہوں نے جب مجھ سے مسئلہ پوچھا تو میں نے عنوان میں اس قدر رعایت کی کہ بدعت کا لفظ تک نہ لکھا۔ بلکہ صرف یہ لکھا کہ شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے وہ سمجھدار آدمی تھے فوراً چھوڑ دیا۔ جب میں ڈھا کہ گیا اور انہیں کامہمان تھا مجالس عامہ میں بہت وعظ ہوئے مگر شہزادے اور روئاء عام مجتمع میں آئے نہ تھے۔ ان کی رائے ہوئی کہ ان کو بھی کسی طرح وعظ سنوایا جاوے مگر میری شرط تھی کہ وعظ میں کسی عام آدمی کو آنے سے نہ روکا جاوے۔

انہوں نے یہ صورت اختیار کی کہ شہر سے سات آٹھ میل کے فاصلہ پر وعظ کا اعلان کیا جہاں مولڈ بسائیکل والوں کے سوا کوئی پہنچ نہیں سکتا تھا اور روزا کو وہاں دعوت تھی۔ کچھ لوگ وہاں بھی پہنچے مگر بہت کم، بہر حال اجتماع ہوا تو ان کے حال کے مناسب چند ضروری چیزیں مجھے کہنا تھیں جن میں ایک ڈاڑھی کا مسئلہ بھی تھا کیونکہ سب ڈاڑھی منڈانے والے نظر آئے مگر میں نے عنوان میں ایسی رعایت کی کہ ان کو نفرت نہ ہو۔ میں نے کہا صاحبو! اس کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں کہ ڈاڑھی منڈانا گناہ ہے کہ سب جانتے ہیں کلام اس میں ہے کہ جن لوگوں کو عادت پڑی ہوئی ہے اور اس کو اپنی زینت سمجھتے ہیں وہ اس کو کیسے چھوڑیں تو میں ان کے لئے ایک نسخہ آسان بتلاتا ہوں کہ انکے کسی کام میں فرق نہ آئے اور کام بھی کچھ نہ کچھ ہو جاوے وہ یہ کہ میں ان کو اس کام سے نہیں روکتا۔ البتہ دن بھر یہ کام کرنے کے بعد شام کو خدا تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہ کا اقرار اور اس پر ندامت ظاہر کیا کریں۔ کہ یا اللہ ہم بڑے نالائق، بڑے خبیث، بڑے گنہگار ہیں ہمیں توفیق عطا فرم اکہ تیرے احکام کی اطاعت کریں۔ پھر صبح اٹھ کرو ہی کام کریں اور شام کو پھر یہ کام کر لیجئے۔ اس پر بعض حاضرین نے کہا کہ حضرت جو یہ کام کرے گا وہ کیا پھر ڈاڑھی منڈا سکتا ہے۔ میں نے کہا کہ کب کہتا ہوں کہ منڈائے بھی، میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر ڈاڑھی منڈانا ہی ہے تو یہ کام بھی کرتے رہو۔ اس میں نہ آپ کی زینت و فیشن میں فرق آتا ہے نہ کسی کی عادت میں خلل پڑتا ہے مگر گناہ میں تخفیف ہو جاتی ہے اور ممکن ہے کہ تدریجیاً اس سے نجات بھی ہو جائے۔ غرض وعظ و تبلیغ میں میرا یہ طرز تھا کہ لوگوں کو دو حصت و نفرت نہ ہو عنوان نرم اور انداز پسند ہوں۔ آج کل لوگ اس کا خیال نہیں کرتے۔

اصل مقصود تصوف کا نہایت سہل الوصول ہے

لوگوں نے غیر ضروری چیزوں کو اس کا جزو بنا کر مشکل کر رکھا ہے

مجلس جمادی الثانیہ ۱۳۵ھ

عادت اللہ یہ ہے کہ جتنی چیزیں انسان کے لئے زیادہ ضروری ہیں اتنا ہی ان کوستی اور سہل الوصول بنایا ہے۔ سب سے زیادہ ضرورت ہوا کی ہے۔ وہ ہر جگہ ہر وقت مفت ملتی ہے بلکہ ایک درجہ میں جبری قسمت ہے کہ کوئی اس سے بچنے کا ارادہ بھی کرے تو کامیاب ہونا مشکل ہے دوسرے درجہ میں پانی ہے وہ بھی عام طور پر مفت ہے اور کہیں بہت بھی مختصری قیمت بھی ہے۔ ولی خدا دوسرے اشیاء اور سب سے قلیل لفظ چیزیں جو ہرات وغیرہ ہیں وہ سب سے زیادہ گراں ہیں طریق وصول اللہ بھی چونکہ عام لفظ چیز ہے اس لئے فطرۃ وہ آسان ہونا چاہیے مگر مشکل یہ ہے کہ لوگوں کے غلو نے اسے مشکل بنارکھا ہے غیر اختیاری اور غیر ضروری اصول و اعمال کا نام تصوف رکھ لیا ہے حالانکہ وہ تو کچھ اور ہی چیز ہے وہ فقط توجہ الی اللہ اس اعتقاد کے ساتھ کہ جب ہم حق تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں گے تو وہ حسب وعدہ حدیث ہم سے زیادہ ہماری طرف توجہ مبذول فرمائیں گے۔ اس میں تو کسی نقلی عمل کی بھی ضرورت نہیں ہے البتہ تکمیل فرائض کر لیا جائے یہ کافی ہے علماء نے لکھا ہے کہ تکمیل فرائض تکثیر نوافل سے زیادہ افضل ہے اور یہ امر ایک طبعی امر بھی ہے ایک شخص دعوت میں دس کھانے کھلاتا ہے مگر سب خراب اور دوسرا صرف ایک کھانا پاکاتا ہے مگر عمدہ اور نیس، ظاہر ہے کہ آپ اس ایک کو ان دس پر ترجیح دیں گے۔

مسند احمد میں ایک حدیث ہے جو ”اللکشف“ میں نقل کی گئی ہے مضمون اس کا یہ ہے کہ چند صحابہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک صحابی سامنے سے گزرے تو موجودین میں سے ایک صحابی نے کہا کہ میں ان (گزرنے والوں) کو مبغوض رکھتا ہوں۔ اس کی خبر کسی نے انھ کران صحابی کو کر دی۔ وہ لوٹ کر آئے اور دریافت کیا۔ آپ نے میرے متعلق یہ کہا ہے کہ ”انی لابغض هذا“ انہوں

نے اقرار کای کہ ہاں کیا ہے سوال کیا کہ سب بغض کیا ہے؟ جواب دیا کہ میں نے تمھیں کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی نفل نماز پڑھتے ہو یا نفلی روزہ رکھتے ہو۔ اس صحابیؓ نے عرض کیا کہ اچھا کبھی آپ نے فرائض میں کوتا ہی کرتے ہوئے تو مجھے نہیں پایا؟ انہوں نے کہا نہیں اس صحابیؓ نے عرض کیا کہ میں تو اسی کو کافی سمجھتا ہوں پھر فیصلہ کے لئے دونوں اٹھ کر آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ ﷺ نے ان کی رائے کی تصویب فرمائی۔

۱۳۵ شعبان

ایک عالم کے کچھ لوگ بلا وجہ شرعی مخالف ہو گئے اور اس کو بد نام کرنے اور ذلیل کرنے کے لئے زمانہ کی مروجہ سب صورتیں اختیار کیں۔ یہ بیچارے اس سے رنجیدہ و دل شکستہ تھے۔ حضرتؐ نے فرمایا کہ ”مظلوم ذلیل نہیں ہوتا“ کیونکہ ب شخص قرآن وہ منصور حق ہے۔ قرآن کریم میں اولیاء مقتول جو مظلوم ہیں ان کے متعلق ارشاد ہے:-

فلا یسرف فی القتل انه کان منصورا۔ یعنی ” ولی مقتول کو چاہیے کہ جب اس کو اپنا بدلہ لینے کا موقع ہاتھ لگے تو بدلہ لینے میں زیادتی نہ کرے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منصور ہے۔“

یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ ہے اس لئے اس کو شکر گزار ہونا چاہیے اور ظالم سے انتقام لینے میں زیادتی کر کے خود ظلم کا مرتكب نہ ہونا چاہیے۔

خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو شخص مظلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت اس کے ساتھ ہوتی ہے اور جو شخص منصور حق ہو، اس کو کون ذلیل کر سکتا ہے۔

ماہنامہ امفتی دیوبند کے متعلق ارشاد

بزمائیہ خدمت دار العلوم دیوبند احقر نے بزرگوں کے مشورہ سے ایک ماہنامہ بنام امفتی جاری کیا تھا جس میں فتاویٰ کے علاوہ دوسرے مفید عام مضامین بھی ہوتے تھے۔ نہ کوئی یار و مددگار تھا نہ سرمایہ جس سے ماہنامے چلائے جاتے ہیں۔ میں اس ماہنامہ کا ”خود کوزہ و خود کوزہ گرو خود گلی“

کو زہ، مضافیں لکھنے سے طباعت اور ڈاک خانہ میں چھوڑنے تک کے سب کام اپنے ہاتھ سے انجام دیتا تھا۔ ہر سال خسارے کے باوجود ۱۳۵۷ھ سے ۱۴۲۲ھ تک آٹھ سال اس کو جاری رکھا۔ ایک روز احقر حاضر مجلس تھا تو مجھے بلا کر فرمایا:-

”آپ کا رسالہ ”المفتی“، تو بڑا ہی نافع ہے سب مغز ہی مغز ہے میں نے تو بعض لوگوں سے کہا ہے کہ اس کی قیمت سالانہ تو صرف سوار و پیسے ہے لیکن یہ مضافیں سوا لاکھ روپیے میں بھی جمع ہو جاویں تو سستے ہیں۔“

رسکی عالم ہونا ولی کابل ہونے کی شرط نہیں، بقدر ضرورت علم کے بعد اصل
چیز عمل ہے

ایک صاحب نے دیوبند میں حضرتؒ سے سوال کیا کہ آپ لوگ (مراد اس سے حضرت گنگوہی نانو توی اور دوسرے اکابر دیوبند سب تھے) بڑے علماء فضلاء ہیں اور آپ سب جا کر حضرت حاجی امداد اللہ صاحبؒ کے مرید ہوئے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہاں وہ کیا چیز تھی جس کے لئے آپ حضرات نے ان کی خدمت اختیار کی۔ حضرتؒ نے فرمایا کہ:-

”ہاں ہماری مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص کو سب اقسام کی منہائیوں کے نام اور فہرست پوری یاد ہو، مگر چکھا ایک کو بھی نہ ہو۔ اور دوسرا کوئی ایسا شخص ہے جس نے سب منہائیاں کھائی ہیں مگر نام کسی کا یاد نہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جو شخص منہائیاں کھا رہا ہے اس کو تو کوئی ضرورت نہیں کہ ان کے نام معلوم کرنے کے لئے کسی کے پاس جائے۔ مگر جس کو صرف نام اور الفاظ یاد ہوں وہ اس کا محتاج ہے کہ صاحب ذوق کی خدمت میں جائے اور ان منہائیوں کا ذوق حاصل کرے۔“

اختلاف علماء کے وقت عوام کو کیا کرنا چاہیے

علماء امت کے درمیان رأیوں اور اس کی بناء پر اجتہادی مسائل میں اختلاف ایک امر فطری ہے اور حضرات صحابہ و تابعینؓ کے نزمانے سے ہوتا چلا آیا ہے۔ ایسے اختلاف کو حدیث میں رحمت

کہا گیا ہے۔ اختلافِ مذہب سے بچنے کی بہایات قرآن و سنت میں وارد ہیں وہ اختلاف ہے جو اغراض و اہمیت نفسانی پر منی ہو یا اس میں حدود اختلاف ہے تجاوز کیا گیا ہو۔ مگر آج کل لوگوں نے اس اختلاف کو بھی طبقہ علماء سے بدگمانی پیدا کرنے کے کام میں استعمال کر رکھا ہے اور سید ہے سادے عوام ان کے مغالطہ میں آ کر یہ کہنے لگے کہ جب علماء میں اختلاف ہے تو ہم کدھر جائیں۔ حالانکہ دنیا کے کاموں میں جب بیماری کے علاج میں ڈاکٹروں حکیموں کے درمیان اختلاف ہوتا ہے تو اس میں عمل کے لئے سب اپناراستہ تلاش کر لیتے ہیں اور اس اختلاف کی بناء پر سب ڈاکٹروں حکیموں سے بدگمان نہیں ہو جاتے۔

ایک صاحب نے گنگوہ سے حضرتؐ کو خط لکھا جس میں دارالعلوم دیوبند اور وہاں کے بعض علماء کی آراء کا خلاف مصالح دینی ہونا ذکر کیا جن میں حضرتؐ کی رائے بھی ان علماء سے مختلف تھی۔ اور لکھنے والے حضرت کے مقصد تھے۔ خط مفصل لکھا۔ اور لکھا کہ میں سب حضرات سے عقیدت رکھتا ہوں اور ایسے واقعات پیش آنے پر سخت تذبذب پیش آتا ہے لوگوں سے بحث بھی ہوتی رہتی ہے اس لئے بڑی تکلیف میں ہوں۔ میرے لئے ارشاد فرمایا جائے کہ میں کیا کروں؟

حضرتؐ نے جواب میں تحریر فرمایا۔

السلام علیکم!

آپ نے اپنے دین کی درستی کے لئے بہت محنت کی۔ ان شاء اللہ تعالیٰ اس کا اجر ملے گا۔ چونکہ ہر مریض کے لئے جدا سخنه نافع ہوتا ہے جو سخنه آپ کے لئے نافع ہے وہ لکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ
کار خود کرن کار بے گانہ مکن

زبان اور قلم اور قلب سے سکوت رکھیں۔ پریشانی پر صبر کریں نہ کسی کے معتقد رہیں نہ کسی سے بد اعتقاد ہوں کیونکہ یہ دونوں چیزیں ایذا دہ ہیں۔ قیامت میں اس کی پوچھ بھی آپ سے نہ ہوگی۔

والسلام

ایک آیت کی تفسیر اور تحقیق

قرآن کریم میں ہے:-

یعنی ”اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنے
لگو تو شمار نہیں کر سکتے۔“

وان تعدو انعمۃ اللہ لا تحصوها۔

اس پر ایک شبہ یہ ہو سکتا ہے کہ بعض غریب مفلس آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس گئی چیزیں ہی ہوتی ہیں جو شمار میں آسکتی ہیں تو ان کے حق میں لا تحصوها کا حکم کیے صحیح ہو گا اس کا جواب تو کھلا ہوا ہے کہ ہر آفت سے محفوظ رہنا بھی تو ایک مستقل نعمت ہے اور آنکھوں اور تکلیفوں کا احصاء و شمار کوئی نہیں کر سکتا اس لئے غریب سے غریب انسان پر اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ وہ شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا۔

اس کے بعد فرمایا کہ اس آیت کی ایک دوسری تفسیر بھی دل میں آتی ہے وہ یہ کہ لفظ احصاء کے معنی جیسے شمار کرنے کے معروف مشہور ہیں اسی طرح ایک معنی احصاء کے پورا پورا استعمال کر لینے کے بھی آتے ہیں یعنی احصاء استعمال۔ اس معنی کے اعتبار سے آیت کا مفہوم یہ ہو گا کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں وہ ان سب کو بیک وقت استعمال بھی نہیں کر سکتا بلکہ کچھ نہ کچھ نعمتیں اس کے استعمال سے فاضل رہتی ہیں۔ خود انسان کے وجود میں جو نعمتیں عطا کی گئی ہیں وہ اس کی ضرورت سے کچھ زائد رہ گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دو عطا فرمائیں۔ حالانکہ دیکھنے کا کام ایک آنکھ سے بھی چل سکتا ہے۔ کان دو دینے اور کام ایک سے بھی چل سکتا ہے ہاتھ پاؤں دو ہرے عطا فرمائے جن میں سے انسان ہر وقت دونوں کو استعمال نہیں کرتا۔ سردی کا سامان گرمی میں اور گرمی کا سامان سردی میں مشغول کار نہیں ہوتا اس لئے ہر غریب سے غریب انسان پر یہ بات صادق ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو پورا پورا استعمال بھی نہیں کر سکتا۔

آیت کی یہ تفسیر خیال میں گزر اکرتی تھی مگر کوئی دلیل نہ ہونے کی وجہ سے ذکر نہ کرتا تھا۔

آج الحمد لله اس کی دلیل ایک حدیث سے سمجھ میں آگئی کہ اسماء اللہ الحسنی کے

متعلق حدیث میں ہے:-

من احصها دخل الجنة.

یعنی ”جو شخص ان اسماء الہیہ کا احصاء کرے گا

وہ جنت میں جائیگا۔“

اس حدیث میں لفظ احصاء کے متعلق علماء کے دونوں قول ہیں کہ احصاء حفظاً مراد ہے یعنی ناموں کا حفظ کر لینا یا احصاء استعمالاً مراد ہے کہ ان ناموں کے مقتضی پر عمل کرنا۔ تو جس طرح لفظ احصاء کی ایک حدیث میں تفسیریں کی گئی ہیں اسی طرح آیت قرآن لاتحصوها میں بھی دونوں تفسیریں ہو سکتی ہیں۔

۲۵ شعبان ۱۳۵۲ھ

ابن منصور کے متعلق تحقیق و ارشاد

ابن منصور جو عام لوگوں میں منصور کے نام سے مشہور ہیں اور کلمہ انا الحق کہنے پر ان کو قتل کیا گیا تھا ان کے بارے میں سلف و خلف کے اقوال بہت مختلف اور متضاد ہیں۔ بعض حضرات ان کی بزرگی اور للہیت ہی کے منکر ہیں۔ بعض ان کو سب اولیاء میں افضل و اعلیٰ مانتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ ابن منصور کے متعلق میری رائے یہ ہے کہ یہ عارف اور صاحب حال تو ہیں مگر صاحب کمال نہیں۔ حضرت جنید بغدادی کے اصحاب میں سے تھے اور حضرت جنید ان سے ناراض تھے۔

پھر فرمایا میرا تجربہ یہ ہے اور اس کے شواہد میرے پاس موجود ہیں کہ شیخ اگر کسی سے ناراض ہو جاوے تو آخرت میں تو اس کی تباہی لازم نہیں۔ لیکن دنیا میں ضرور کسی عقوبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہی تجربہ ہے اس الہام کی مخالفت میں جو قوت کے ساتھ وارد ہو کہ اس کی مخالفت کرنے سے کم از کم دنیا میں کسی مصیبۃ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔

امراء اہل دنیا سے اہل اللہ کی ملاقات اور اس کا ادب

ارشاد فرمایا کہ دنیا کے امراء و رؤسائے اگر کسی عالم یا ولی سے ملاقات کے لئے آؤں تو

حضرت حاجی صاحبؒ کی تعلیم یہ ہے کہ ان سے خشونت کا برداونہ کریں اور فرمایا کہ اسی وجہ سے میرا معمول یہ ہے کہ امیر رئیس اگر تہذیب و ادب سے رہے تو نسبت عام غرباء کے اس کی خاطر زیادہ کی جائے کیونکہ یہ لوگ اس کے عادی ہوتے ہیں اور بقاعدہ

انزلوا الناس منازلهم۔

یعنی ”جس کو دنیا میں جو درجہ و مرتبہ حاصل

ہو۔ اس کے مطابق اس سے معاملہ کرو۔“

اُنکے ساتھ ایسا ہی معاملہ مناسب ہے۔

لیکن اگر وہ خود کوئی متكلبرانہ معاملہ کریں یا علماء کی حقارت کی کوئی چیز ان سے ظاہر ہو تو قطعی پرواہ نہ کی جائے۔ ان کے عمل کا جواب اس کے مناسب دیا جائے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان کو ذلیل کرے نہ خود اپنے آپ کو ان کے سامنے ذلیل کرے۔

اور پھر فرمایا کہ حقیقت میں ذلت یہ ہے کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے اور اپنی ضرورت و حاجت پیش کرے۔ پھٹے کپڑے، ٹوٹے جوتے، پیوند زدہ لباس کوئی ذلت نہیں۔

صغریہ اور کبیرہ گناہ!

ارشاد فرمایا کہ جس گناہ کو صغریہ یعنی چھوٹا کہا جاتا ہے وہ بڑے گناہ کے مقابلہ میں چھوٹا ہے ورنہ ہر گناہ اس حدیث سے کہ اس میں اللہ اوس کے رسول ﷺ کی نافرمانی ہے بڑا ہی گناہ ہے جیسے پھونس کے چھپر میں بڑا انگارہ اس کے لئے مہلک ہے اسی طرح چھوٹی سی چنگاری کا بھی وہی انجام ہے کہ وہ بھی جب بھڑک اٹھتی ہے تو انگارہ بن جاتی ہے اس لئے گناہوں میں صغریہ و کبیرہ کی تقسیم باہمی اضافت و نسبت کے اعتبار سے ہے۔ صغریہ گناہ کو بھی چھوٹا سمجھ کر بے پرواہی کرنا اپنی ہلاکت کو دعوت دینا ہے۔ قرآن کریم میں غزہ احمد کی ابتدائی شکست کو صحابہ کرامؐ کی ایک لغزش کا نتیجہ قرار دیا ہے ارشاد یہ ہے:-

یعنی ”لغزش دے دی شیطان نے

انما استزلهم الشیطان بعض ما کسبوا۔

ان کے بعض اعمال کی وجہ سے۔“

اس واقعہ میں ظاہر یہ ہے کہ صحابہ کرام کسی گناہ کبیرہ کے مرتكب نہیں ہوتے تھے مگر اس صغیرہ ہی کو أحد کی بخشست کا سبب قرار دیا گیا۔

انبیاء علیہم السلام سے صغیرہ گناہ بھی سرزد میں ہوتا

ارشاد فرمایا کہ مولانا سید مرتضی حسن صاحب نے مجھ سے نقل کیا ہے کہ حضرت مولانا محمد قاسم نانو تو می کی تحقیق یہ ہی کہ انبیاء علیہم السلام سے قبل نبوت یا بعد نبوت نہ کوئی گناہ کبیرہ سرزد ہوتا ہے نہ صغیرہ۔

اور فرمایا کہ حضرت حاجی امداد اللہؒ کی تحقیق سے اس کی تائید ہوتی ہے وہ یہ کہ جو چیزیں انبیاء علیہم السلام کی زلات میں شمار کی گئی ہیں وہ بھی درحقیقت گناہ نہیں۔ طاعت ہی ہوتی ہے مگر بڑی طاعت کے مقابلہ میں اس کے ساتھ اشتغال ان کی شان کے مناسب نہیں تھا اس لئے اس پر تنمیہ کی گئی۔

ایک اہم فائدہ

ارشاد فرمایا کہ طاعات و عبادات کا بڑا فائدہ تو ثواب آخوت ہے وہ جب کوئی عمل اس کے شرائط و آداب کے ساتھ ادا کیا جائے اس پر ضرور مرتب ہوگا۔ ان کا ایک دوسرا فائدہ خاص خاص اعمال کے آثار و برکات ہیں جن کا ظہور دنیا ہی میں ہوتا ہے مگر ان آثار کے مرتب ہونے کی شرط یہ ہے کہ عمل کرنے کے وقت ان آثار کے ترتیب کی نیت بھی کرے۔ عام طور پر جن لوگوں کو یہ آثار حاصل نہیں ہوتے اکثر اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انکی نیت ان آثار کی نہیں ہوتی۔ مثلاً نماز کا یہ اثر قرآن کریم میں منصوص ہے کہ اس سے انسان کو تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق ہو جاتی ہے۔ جبکہ نماز کو شرائط و آداب کے ساتھ ادا بھی کرے اور یہ نیت بھی رکھے کہ نماز کی وجہ سے مجھے دوسرے گناہوں سے بچنے کی ہمت بھی ضرور ہو جائے گی۔

کرامت کا درجہ

اولیاء اللہ سے کرامات کا صدور حق ہے۔ اس پر کرامت کا اتفاق ہے لیکن عوام میں کرامت کو بہت بڑی چیز سمجھا جاتا ہے اور بزرگوں کے جو اصلی کمالات ہیں انلوظراً انداز کر دیا جاتا ہے حضرت نے فرمایا کہ:-

اہل تحقیق کے نزدیک کرامت کا درجہ اس ذکر انسانی سے بھی کم ہے جو بغیر حضور قلب کے کیا جائے۔ حضرت نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ذکر اللہ خواہ بغیر حضور قلب کے ہو کچھ نہ کچھ اجر و ثواب اس پر حاصل ہوتا ہے اور اجر و ثواب پر قرب خداوندی مرتب ہوتا ہے بخلاف کرامت کے کوہ صرف ایک واقعہ کا اظہار ہے۔ اس پر نہ کوئی اجر و ثواب ملتا ہے اور نہ اس سے تقرب الی اللہ میں کوئی ادنیٰ اضافہ ہوتا ہے۔

اور فرمایا کہ کرامت میں کسی بزرگ کے اختیار و عمل کا کوئی دخل نہیں ہوتا بعض اوقات اس کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ میں قرآن کریم نے فرمایا:-

لولا ان راى برہان ربہ۔ یعنی ”(یوسف علیہ السلام) اگر اپنے رب کی برہان و دلیل نہ دیکھتے (تو ممکن تھا کہ ان کا میلان زیخا کی طرف ہو جاتا)۔

اس برہان رب کی تفسیر میں ایک قول یہ بھی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس تہائی میں سامنے انگشت بدنداں دیکھا۔ یہی برہان رب تھی جس کی وجہ سے ان کی حفاظت ہوئی۔ اگر یہ تفسیر صحیح ہو تو یہ بات ظاہر ہے کہ یہ یعقوب علیہ السلام کی کرامت یا معجزہ تھا مگر یعقوب علیہ السلام کو اس کی خبر بھی نہ تھی کیونکہ اگر یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کا یہ پتہ نشان معلوم ہو جاتا کہ وہ عزیز مصر کے گھر میں ہیں تو بعد میں یہ نہ فرماتے:-

یا بنی اذہبوا فتحسوا من یوسف و اخیہ۔ یعنی ”اے میرے بیٹو! جاؤ تم یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو۔“

۲۳ میں اک تحقیق کشف کے متعلق ایک کتبی

ارشاف فرمایا کہ کشف کوئی یعنی دنیا میں آئندہ پیدا ہونے والے واقعات کا انکشاف کبھی منجانب اللہ غیر اختیاری ہوتا ہے اور کبھی تصرف سے بھی حاصل ہوتا ہے۔ وہ امر اختیاری ہے اور کبھی چیز ہے بعض ریاضتوں اور اعمال سے کوئی نیت کا کشف ہونے لگتا ہے۔ اور فاسق فاجر بلکہ کافر کو بھی ہو سکتا ہے۔

بعض بزرگوں کے ایسے کلمات جو بظاہر ادب کے خلاف ہیں
ان کے متعلق مولانا رومیؒ نے فرمایا کہ۔
گفتگوی عاشقان درکار درب جوش عشق است نے ترک ادب
اور فرمایا کہ۔

بے ادب ترنیست زوکس در جہان با ادب ترنیست زوکس در نہان

حاصل اس کا یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی محبت و عظمت میں مٹے ہوئے ہیں ان سے بے ادبی کا تو امکان ہی نہیں مگر فرط محبت میں بعض اوقات غلبہ حال سے الفاظ میں وہ رعایت نہیں رہتی جو ہونا چاہیے۔ اس لئے جن بزرگوں پر ایسے حالات طاری ہیں ان کے کچھ کلمات اگر بظاہر ادب کے خلاف بھی معلوم ہوں تو ان سے بدگمانی نہ کرتا چاہیے البتہ ان کی نقلی کرنا بھی درست نہیں کہ جو مغلوب الحال نہیں ہیں وہ بھی ان کی نقلی کرنے لگیں۔

غلبہ تو اضع کا ایک واقعہ

ایک صاحب نے عیدگاہ کے مجمع میں حضرتؐ کے کسی فعل پر اعتراض کیا۔ وہ اعتراض اگرچہ بالکل بے جا اور غلط تھا مگر حضرتؐ اس کے قدموں میں گر پڑے اور فرمانے لگے کہ بیشک میں بڑا خطوا ار گناہ کا ہے اس وقت ایسی حالت کا غلبہ تھا کہ جس میں انسان اپنے آپ کو ہر چیز

سے بدتر و مکر سمجھتا ہے۔

سامع کے متعلق تحقیق

ارشاد فرمایا کہ صوفیائے کرام میں اس میں تو اختلاف ہوا ہے کہ بعض نے خاص شرائط کے ساتھ سامع (گانا سننے) کی اجازت دی اور عمل بھی کیا۔ بعض نے مطلقاً منع فرمایا لیکن اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ گانا سننا جزء طریق یا ان معمولات میں سے نہیں جن کو تزکیہ باطن کے لئے صوفیہ کے مختلف طبقات نے تجویز کیا ہے۔ صوفیہ کے چاروں مسلک چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ قادریہ میں کسی نے گانا سننے کو سالم طریق کے لئے بطور معمول وظیفہ نہیں بتالا یا۔ کسی خاص مریض کو اجازت دے دی جاتی ہے جیسے بعض اوقات طبیب سکھیا وغیرہ سمیات سے بیمار کا علاج کرتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ سامع اس طریق میں کوئی عذر نہیں بلکہ دواء ہے۔

سید الطائفہ حضرت حاجی صاحبؒ نے سامع کے متعلق فرمایا کہ:-

”مبتدی رامضراشد و مقتبی راحاجت نیست“

انگریزوں کے متعلق مولانا محمد یعقوب صاحبؒ کا حکیمانہ مقولہ

فرمایا کہ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحبؒ فرمایا کرتے تھے کہ حق تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ انگریزوں میں دعیب رکھ دیئے جن کی وجہ سے ہندوستانیوں کا ایمان نیچ گیا۔ ایک بخل دوسرے کبر۔ ان کے یہاں مسلمان بادشاہوں کی طرح دادوہش کا کوئی دفتر نہیں اور تکبر کا عالم یہ ہے کہ ہندوستانیوں سے بالکل الگ تھلگ رہتے ہیں ان کے مجاہع میں شامل ہونے کو اپنی توہین سمجھتے ہیں۔

تمنیہ

یہ اس وقت کا حال تھا کہ جب مسلمانوں میں اسلامی اور قومی حمیت کا غالبہ تھا وہ کھانے پینے اور نشست برخاست اور عام معاشرتی کاموں میں انگریزوں کی نقلی کو عیب سمجھتے تھے۔ افسوس کہ

لارڈ میکالے کا ست رفقار زہران میں سراحت کر گیا اور رفتہ رفتہ اسلامی اور قومی حمیت کا خاتمہ ہوا
مسلمانوں نے ہر چیز میں اپنے آپ کو انگریز بنا کر دکھلانے ہی کوکمال سمجھ لیا تو باہم اختلاط اور
تعقات بڑھے۔ جس کا نتیجہ وہ ہوا جو آج آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ نئی تعلیم پانے کے بعد آدمی گومونا
صرف نام کا مسلمان رہ جاتا ہے اصول دین سے غفلت اور بے پرواہی شعار بن جاتی ہے اور اب تو
کھلے طور پر دین و اصول دین پر اعتراضات بھی ہونے لگے۔ (اناللہ)

حضرت حاجی امداد اللہؒ کی ایک وہم وصیت

ارشاد فرمایا کہ حاجی صاحبؒ نے وصیت فرمائی تھی کہ بھائی کسی سے الجھنا نہیں۔ جب کسی
کام میں جھگڑا ہو تو اس کو چھوڑ کر الگ ہو جانا۔ پھر فرمایا کہ میرا ہمیشہ یہی معمول رہا ہے۔

تصوف علوم طبیعیہ میں سے ہے

ارشاد فرمایا کہ اصول تصوف میں غور کرو تو وہ سب علوم طبیعیہ میں سے ہیں ذرا بھی طبیعت
میں سلاست ہو تو خود بخود آدمی کے دل میں وہی آئے گا جو بزرگوں نے فرمایا ہے۔

سوادِ اعظم کی تفسیر

فرمایا کہ فتنہ اور اختلافات کے وقت رسول اللہ ﷺ نے سوادِ اعظم کا اتباع کرنے کی
بدایت فرمائی ہے۔ سوادِ اعظم کے مفہوم میں علماء کے متعدد اقوال میں راجح یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس
سے مراد تو وہی ہے جو ظاہری الفاظ سے سمجھ میں آتا ہے یعنی جس طرف مجمع زیادہ اور اکثریت ہو
اس کا اتباع کیا جائے مگر میرے نزدیک یہ مخصوص ہے زمانہ خیر القرون کے ساتھ جس میں مجموعی
اعتبار سے خیر غالب تھی۔ آج کل کی اکثریت اس ارشاد کا مصدقہ نہیں کیونکہ آج کل تو عموماً غالباً
اور اکثریت بے راہ چلنے والوں کی ہے۔

اصول تصوف

فرمایا کہ فنِ تصوف کا حاصل دو چیزیں ہیں۔ ایک ذکر اللہ و سرے طاعت یعنی اتباع احکام

شرعیہ۔ مختلف قسم کے اشغال جو صوفیہ میں رائج ہیں وہ طریق کا جز نہیں۔ ضرورتہ استعمال کیا جاتا ہے۔

خشوی کی حقیقت

ارشاد فرمایا کہ خشوی کی حقیقت سکون قلب ہے یعنی حرکت فکریہ کا انقطاع۔ اس کے حاصل کرنے کے طریقے مختلف مزاجوں کے اعتبار سے مختلف ہیں۔ اگر یہ سکون قلب کسی کو اس طرح حاصل ہو کہ یہ تصور کرے کہ بیت اللہ میرے سامنے ہے تو اس کے لئے یہی بہتر ہے کہ اور کسی کے لئے یہ ہل ہو کہ الفاظ جوزبان سے ادا ہو رہے ہیں ان پر دھیان لگائے تو اس کو وہی مناسب ہے اور جس کو ذاتِ حق کی طرف توجہ میسر ہو جائے وہ سب سے افضل و بہتر ہے۔

فرمایا کہ ایک ضروری بات جو تجربہ سے حاصل ہوئی یہ ہے کہ خشوی میں زیادہ غلوٹنہ کرے ورنہ ایک دور کن کے بعد طبیعت تھک جاتی ہے اور خیالات منتشر ہونے لگتے ہیں۔

غیر اختیاری طور پر دوسرے خیالات بھی اگر آتے جاتے ہیں تو وہ خشوی کے منافی نہیں۔ بشرطیکہ ان خیالات کی طرف التفات اور توجہ قلب کی نہ ہو۔ اس کو ایک محسوس مثال میں اس طرح سمجھئے کہ جیسے کوئی شخص ایک خاص نقطہ کو دیکھنا چاہتا ہے تو طبعی طور پر اس کا ماحول بھی نظر پڑتا ہے مگر چونکہ توجہ قلب کی اس طرف نہیں ہوتی اس لئے یہی کہا جائے گا کہ وہ اس نقطہ کو دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح جب توجہ قلب کی بالقصد ایک چیز کی طرف ہوگی تو بالتعیق دوسری چیزیں بھی سامنے رہیں گی لیکن محض ان کا سامنے ہونا اس توجہ میں مخل نہیں۔ بشرطیکہ بالقصد ان چیزوں کی طرف مشغول نہ ہو۔

کشف اور کرامت میں فرق

فرمایا کہ کشف کا حاصل یہ ہے کہ وہ واقعات جو عالم مثال میں ہو رہے ہیں اور عام نظر وہ سے مستور ہیں وہ کسی کی نظر کے سامنے آ جائیں ان کو دیکھ لے اور عموماً جب مادیات اور تعلقات سے قلب فارغ ہو تو ایسا ہو جانا کچھ بعید نہیں ہوتا۔ اس کے لئے مقبول عند اللہ ہونا تو کیا مسلمان ہونا بھی شرط نہیں۔ کافر فاسق کو بھی حاصل ہو سکتا ہے بلکہ پاگل و دیوانے کو بھی۔ کرامت سے اس کا

کوئی واسطہ نہیں کیونکہ کرامت کے معنی خداوندی اعزاز کے ہیں جو ان لوگوں کو حاصل نہیں۔ البتہ یہی انکشاف کسی شخص کو منجانب اللہ بطورِ کرامت کے بھی کرایا جاتا ہے وہ کشف کرامت بھی ہوتا ہے جیسے عموماً اولیاء اللہ کے کشف ہیں۔ اور جو کشف بطورِ کرامت کے ہوتا ہے اس کی خاص علامت یہ ہے کہ اس کے نفس میں تواضع پستی اور شکستگی اور اپنا عجز محسوس ہوتا ہے جس کشف کے ساتھ یہ علامات نہ ہوں بلکہ عجب اور فخر اپنے نفس میں محسوس ہو وہ کرامت نہیں بلکہ استدرج ہے جس سے پناہ مانگنا چاہیے۔

۱۳ رمضان ۱۴۵۰ھ جمعہ

احساس کا تیز ہونا ایک کمال ہے مگر جب اس سے اذیت ہونے لگے تو مرض ہے ارشاد فرمایا کہ مجھے تین روز سے نیند نہیں آئی تھی۔ آج رات اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا کہ حمر کے وقت بیٹھا ہوا پڑھ رہا تھا دیوار سے کر لگائی تو صرف چار پانچ منٹ آنکھ لگ گئی تو تین روز کا تکان رفع ہو گیا۔ یہ اس خاص قسم کی نیند ہے جس کی تعبیر بھی میں نہیں کر سکتا کہ کیا ہے۔

(احقر کو خیال ہوتا ہے کہ غزوہ بد مریں جو صحابہ کرام پر تھوڑی دری کے لئے ایک قسم کی نیند مسلط کی گئی تھی جس سے سب کا تکان دور ہو کرتا زہ دم ہو گئے جس کا ذکر قرآن کریم میں کیا گیا ہے امنہ نعasa یغشی طائفہ منکم۔ جس کا خاص فضلِ خداوندی ہونا ظاہر ہے اللہ تعالیٰ اگر اپنے

دوسرے بندوں کو بھی اس فضل سے نوازیں تو بعید کیا ہے)۔ محمد شفیع

پھر فرمایا کہ میرا اصل مرض حاذق حکماء نے زکاء الحس تشخیص کیا ہے ”زکاوت حس“، اگرچہ فی نفسہ ایک کمال ہے لیکن جب حد سے بڑھنے لگے تو اس سے اذیت ہونے لگتی ہے اس وقت اطباء اس کو مرض قرار دیتے ہیں اور اس کے لئے ایسی چیزیں تجویز کرتے ہیں کہ جن سے زکاوت کم ہو کر کچھ بلا وات پیدا ہو جائے۔

فرمایا کہ میرا حال یہ ہے کہ اگر بستر ایساں کی چادر چار پائی کے ایک طرف کم دوسری طرف زیادہ ہو جائے تو جب تک اس کو درست نہ کر لوں نیند نہیں آتی۔ حضرت مرزامظہر جان جاناں کے

حالات میں اس طرح کے بہت واقعات ہیں اطباء کی نظر میں وہ بھی امراض ہی کہلاتے ہیں میں اللہ تعالیٰ سے دعا و اتجاء کرتا رہتا ہوں کہ یا اللہ آپ نے میرا مزاں ایسا بنا دیا ہے تو آخرت میں بھی مجھے بلا حساب جنت میں داخل کر دیجئے اگرچہ اہل جنت کی جو زیول ہی میں جگہ مل جائے۔

اہل جنت کو کسی حال میں حرمت نہ ہوگی

فرمایا کہ جنت میں نیچے کے درجات والے اپنے سے اوپر درجات والوں کو دیکھ کر حضرت نہ کریں گے بلکہ ہر شخص اپنے حال میں مگن ہوگا۔ احقر نے سوال کیا کہ پھر تقاضل درجات کا کیا فائدہ رہے گا تو فرمایا کہ اس کا اثر عقلنا اور اعتقد آہوگا طبعاً نہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ مجھے دال ماش اگر اچھی پکی ہوئی ہو تو قورے سے زیادہ مرغوب ہے اگرچہ عقلنا جانتا ہوں کہ قورمہ افضل ہے۔

بزرگوں کے خطوط میں اشعار لکھنا

ارشاد فرمایا کہ بزرگوں کے خطوط میں اشعار لکھنا ادب کے خلاف ہے۔ مگر جو بے ساختہ نکل جائے اس کا مضاف تھے نہیں۔ انہیں دنوں میں جبکہ احقر خانقاہ میں مقیم تھا اپنے خط میں حافظ کا ایک شعر لکھ دیا تھا۔ شعر یہ تھا۔

شراب لعل وجائے امن و دیار مہربان ساتی دلا کنے بہ شود کارت اگر اکونون نخواہد شد
ہمارے بزرگ خواجہ عزیز احسن مجدوب جو مجلس میں حاضر تھے انہوں نے میرے خط کے
اس شعر کا ذکر کر کے فرمایا کہ ان کا یہ شعر تو بڑا بھل تھا جی چاہتا ہے کہ اس کو ضرور لکھا جاوے۔
حضرت نے تسم کے ساتھ سکوت فرمایا۔ کچھ سکوت کے بعد اس شعر کے متعلق فرمایا کہ میاں
ہمارے بزرگوں کے سامنے تو نخواہد شد کا احتمال ہتی نہیں۔ آدمی کو چاہیے کہ کام کرتا رہے اس
خواہد شد اور نخواہد شد کی فکر ہی میں کیوں پڑا رہے۔

فتاویٰ نویں میں مختصر ار مفصل لکھنے پر حضرت مولانا محمد یعقوبؒ کا ارشاد
فرمایا کہ زمانہ طالب علمی میں حضرت مولانا محمد یعقوب صاحبؒ اکثر فتاویٰ جواب لکھنے کے

لئے مجھے دے دیتے تھے۔ ایک روز ایک فتویٰ طویل اور مفصل لکھ کر پیش کیا تو فرمایا کہ معلوم ہوا کہ فرصت بہت ہے۔ ہم توجہ جانیں کہ اس وقت اتنا مفصل لکھو جب سوالات کا انبار تمہارے سامنے ہوگا۔ یہ حضرتؐ کی پیش گوئی تھی۔ اب جبکہ واقعی ایک انبار سامنے ہوتا ہے تو بعض اوقات جواب صرف ہاں اور نہیں میں لکھنے پر اکتفا کرتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ مجھے فتن فقد اور فتن حدیث سے مناسبت پوری نہیں۔ تفسیر سے بہ نسبت انکے زیادہ مناسبت ہے اور الحمد لله ثم الحمد لله تصوف سے پوری مناسبت ہے۔

مجد و وقت اور قطب ارشاد کی بعض علامات

حاضر وقت حضرت مولانا سید مرتضیٰ حسن صاحبؒ جو حضرتؐ کے ہمسین ساتھی بھی تھے مگر حضرتؐ کے کمالات کے پیش نظر معتقد انه حاضر ہوتے تھے اور بعض مرتبہ پورا رمضان المبارک خانقاہ میں گزارتے تھے اس مجلس میں موجود تھے۔ ایک سوال کیا کہ حضرتؐ ہم لوگ آپ کو مجدد وقت سمجھتے ہیں آپ رسم تواضع سے کام نہ لیں بلکہ حقیقت بتلا دیجئے کہ ہمارا یہ خیال صحیح ہے یا نہیں؟ حضرتؐ نے فرمایا کہ میں زیادہ تواضع نہیں کیا کرتا (کہ وہ ایک قلم کا تصنیع ہو جاتا ہے) اس کا احتمال تو ہے، یقین نہیں۔

پھر فرمایا کہ قطب الارشاد کی علامت یہ ہوتی ہے کہ جو شخص اس کا معتقد نہ ہو بلکہ اعتراض کرتا ہو وہ خاص فیض و برکات سے محروم رہتا ہے۔ مگر حرمان ہوتا ہے خسران نہیں۔ یعنی نجات اس پر منحصر نہیں مگر ترقیات باطنی نہیں ہوتی۔

حافظت خداوندی

ارشاد فرمایا کہ تحریکاتِ خلافت میں چونکہ میں نے شرکت نہیں کی۔ عام لوگ مخالف ہو گئے۔ اس زمانہ میں میں نے دیکھا کہ ہمارے بڑے گھر کے سامنے ایک نہ ایک مجدوب پڑا رہتا تھا۔ ایک چلا جاتا تو دوسرا آ جاتا تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ یہ انتظام اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے لئے فرمادیا ہے۔

انبیاء علیہم السلام سے کسی طرح معصیت کا صدور نہیں ہوتا

ارشاد فرمایا کہ حضرت حاجی صاحبؒ فرماتے تھے کہ انبیاء علیہم السلام سے حقیقت کوئی معصیت صادر نہیں ہوتی ان کے بعض افعال و اقوال کو قرآن کریم میں عصیان وغیرہ کے الفاظ سے تعبیر کرنا محض ان کی صورت کے اعتبار سے ہوا ہے۔ کیونکہ صورۃ وہ افعال معصیت کے ہرگز تھے اور حقیقت سب کی طاعت ہی تھی۔ بعض حاضرین مجلس نے بیان کیا کہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحبؒ کی بھی یہی تحقیق ہے جو رسالہ قاسم العلوم میں شائع ہوئی ہے۔

ایک عالم ایک عارف

حضرت مفتی اللہ بخش صاحب کاندھلوی جو اکابر علماء میں سے تھے اور تقویٰ میں معروف و مشہور تھے۔ ایک مرتبہ یمار پڑے تو تکلیف کے وقت کرانے کے بجائے اللہ اللہ کہتے تھے مفتی صاحب کے ایک بھائی جو عالم بھی تھے عارف بھی انہوں نے دیکھا کہ مفتی صاحب تکلف کر کے آہ آہ کے بجائے اللہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں انہوں نے فرمایا کہ بھائی صاحب آہ آہ کرو جب آرام ہو گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا حضرت نے فرمایا کہ ان کے بھائی صاحب کو غالباً یہ محسوس ہوا کہ اللہ اللہ جنکف کرنے میں ایک قسم کا دعویٰ پایا جاتا ہے۔ اور یماری میں حق تعالیٰ انسان کو اس کی پستی اور عاجزی مسح خپڑ کرتا پسند فرماتے ہیں مولانا راوی نے فرمایا۔

چونکہ بر مخت بہ بند بستہ باش چون کشايد چا بک و بر جتہ باش

قدیم و جدید طلباء مدارس اسلامیہ کا فرق

چودھویں صدی ہجری کے پہلے سال یعنی ۱۳۰۰ھ میں حضرتؐ نے دارالعلوم دیوبند میں علوم متداولہ درسیہ سے فراغت حاصل کی۔ اس دارالعلوم میں تقیم اسناڈ کا جلسہ ہوتا تھے پایا اور معلوم ہوا کہ اس جلسہ میں فارغ التحصیل طلباء کو سندیں دی جاویں گی تو دورہ حدیث سے فارغ ہونے والے طلباء جن حضرتؐ بھی داخل تھے جمع ہو کر حضرت مولانا محمد یعقوب صاحبؒ کے پاس پہنچے اور

عرض کیا کہ حضرت ہمیں کچھ آتا تو ہے نہیں، ہمیں اگر دارالعلوم سے سندھی گئی تو دارالعلوم کی بدنائی ہوگی۔ اس لئے اگر سندھ ملتوی فرمائی جائے تو بہتر ہے۔ حضرت مولانا نے فرمایا کون کہتا ہے کہ تمہیں کچھ نہیں آتا۔ تم اپنے اساتذہ کے سامنے ہواں لئے ایسا سمجھتے ہو خدا کی قسم تم لوگ جدھر جاؤ گے تم ہی تم ہو گے۔

کرامات و خوارق متاخرین میں زیادہ کیوں ہوئے؟

فرمایا کہ امام احمد بن حنبلؓ سے کسی نے یہ سوال کیا تھا کہ صحابہ کرام سے خوارق عادات بہت کم ہوئے اور متاخرین اولیاء اللہ میں ان کی بہت کثرت ہوئی اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ قرب زمان نبوت کی وجہ سے عہد صحابہ اور قرن اولی میں قلوب کے اندر دین کی صلاحیت قوی موجود تھی اور شوائب متحضر تھے اس لئے ضرورت نہ تھی کہ ان کو عجائب دکھائے جاویں۔ بعد میں جب ایمان میں ضعف بڑھا تو اس کی ضرورت ہوئی۔ خواجہ عزیز احسن مجدد جو حاضر مجلس تھے انہوں نے سوال کیا کہ اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ آج کل کرامات اور خوارق کا ظہور سب سے زیادہ ہو۔ فرمایا کہ حکمتیں ہر وقت کی مختلف ہوتی ہیں۔ آج کل خوارق کی کمی کی کوئی اور حکمت ہوگی۔

بزرگوں کا تذکرہ دیریک رہنے کے بعد مجلس ختم ہوئی تو خواجہ عزیز احسن صاحب نے عرض کیا کہ ان حضرات کے ذکر میں بھی عجیب دلکشی ہے۔ فرمایا کہ دلکشی کیا آگ لگ جاتی ہے۔ میرے تو سارے جسم میں حرارت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس وقت بھی پسینہ آ رہا تھا۔

ایک اہم ہدایت

فرمایا کہ کام کرنے سے راستہ کھلتا ہے۔ اس انتظار میں نہ رہے کہ پہلے سے راستہ نظر آئے تو آگے قدم رکھے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ بڑی سڑک پر جس کے دو طرفہ درخت لگے ہوں اور سیدھی جا رہی ہو۔ اگر کھڑے ہو کر دیکھو گے تو کچھ دور کے بعد دونوں طرف کے درخت باہم ملے ہوئے نظر آئیں گے۔ لیکن جوں جوں آگے بڑھو گے راستہ کھلتا نظر آئے گا۔

مولانا رومیؒ نے خوب فرمایا ہے کہ:-

گرچہ رخنه نیست عالم را پدید

خیرہ یوسف وارمی باید دوید

شعبان و رمضان ۱۳۲۹ھ

ایک سلسلہ کلام میں فرمایا۔

چون تو یوسف نیستی یعقوب باش

یعنی سالک طریق کو ابن الحال ہونا چاہیے۔ پیش آنے والے حال کی رعایت اس کے لئے اہم ہے۔

صفاتِ الٰہیہ میں لا عین ولا غیر کی تشریح

حضرات متكلّمین نے اللہ تعالیٰ کی صفات کے متعلق فرمایا ہے کہ وہ نہ عین ذات ہیں نہ غیر۔

حضرتؐ نے فرمایا کہ اس میں عین سے مراد اصطلاح منطق کا عین ہے یعنی بالکل عین ذات ہونا اور غیر سے مراد غیر عرفی ہے یعنی بیگانہ و بے تعلق۔ تو حاصل یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات اس کی عین ذات نہیں ہیں مگر بالکل غیر اور بیگانہ و بے تعلق بھی نہیں ہیں۔

آیت مراج کی ایک تحقیق

شب مراج میں ایک سفر تو زمین پر ہوا، مسجد حرام سے مسجد قصیٰ تک دوسرا سفر وہاں سے آسمانوں کی طرف ہوا۔ مگر قرآن کی آیتِ اسری بعدہ لیلا میں صرف پہلے زمینی سفر کا ذکر ہے آسمانی سفر کا ذکر نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ آیت میں لیلا کی قید لگی ہوئی اور دن اور رات صرف اس زمینی تضاد سے متعلق ہیں۔ آسمانوں میں اس طرح کا دن رات نہیں جو آفتاب کے طلوع و غروب سے متعلق ہو تو لفظ اسراء اور لیل کے مختصی سے صرف زمین سفر کے ذکر پر اکتفاء کیا۔ اور سورہ نجم میں آسمانی سفر کا ذکر فرمایا۔ عن دسدرۃ المنتهی۔

ایک اہم نصیحت

فرمایا کہ بہت سے لوگوں کو یہ فکر رہتی ہے کہ ہم مرجع خلائق نہیں۔ خوب سمجھ لو کہ مرجع بنا

کوئی کمال نہیں۔ اصل کمال راجح بننے میں ہے یعنی اللہ کی طرف رجوع ہونے والا بنے۔ پھر وہ چاہیں کسی کو مرجع بھی بناویں یا نہ بناویں۔ دونوں میں خیر ہی خیر ہے جو حالت پیش آجائے اس پر راضی اور شاکر رہنا چاہیے۔

ایک انگریز مورخ

نے کہا کہ ہندوستان میں اسلام کی اشاعت زیادہ تر صوفیاء اور تاجریوں کے ذریعہ ہوئی ہے۔

اجمیر شریف

فرمایا کہ اجمیر شریف کی حاضری احمد آباد جاتے ہوئے بمعیت حضرت مولانا خلیل احمد صاحب ہوئی۔ تو معنوی طور پر شاہانہ دربار معلوم ہوتا تھا۔ ہر درود یا رانوار سے معمور نظر آتے تھے۔

علماء کا باہمی اختلاف رائے

مولانا عبد الحق خیر آبادی اور مولانا عبد الحیی صاحب لکھنؤی کے درمیان چند مسائل میں علمی اختلاف تھا۔ بعض لوگوں نے مولانا عبد الحیی صاحب کے سامنے مولانا عبد الحق صاحب کا ذکر برائی سے کیا تو مولانا نے ان کو ڈانٹ کر خاموش کر دیا۔

حضرت شاہ ولی اللہ کا ارشاد

حضرت شاہ صاحب نے فوض المحرمین میں فرمایا ہے کہ چند چیزوں میں میری طبیعت کے خلاف مجھے حضور ﷺ نے مجبور فرمایا۔ ایک یہ کہ مجھے طبعی طور پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی تفصیل مرغوب تھی۔ آپ نے شیخین کو ان پر ترجیح دینے کے لئے مجبور فرمایا۔ دوسرے یہ کہ مجھے تقلید سے طبعاً نفرت تھی آپ نے مذاہب اربع سے خروج کو منع فرمایا۔

مخالف سے انتقام یا صبر میں عارفین کا ضابطہ

ارشاد فرمایا کہ مولانا محمد علی صاحب مونگیریؒ حضرت شاہ فضل الرحمن صاحبؒ گنج مراد آبادی کے خلیفہ تھے۔ شروع میں کسی نیم مجدوب سے بھی استفادہ کیا تھا ان کا ایک ملفوظ مجھے یاد رہ گیا۔ فرمایا کہ:-

”اگر کوئی تمہیں ستائے تو تم نہ انتقام لواور نہ بالکل صبر کرو۔“

مطلوب یہ تھا کہ مکمل صبر کرنے سے بعض اوقات ستائے والے پر منجانب اللہ کوئی عذاب آ جاتا ہے اس لئے اس پر نظر شفقت کر کے کچھ معمولی سائل انتقامی کرو۔

حضرت مولانا دیوبندی (شیخ البند) نے حدیث لدود کی تشریح اسی اصول کی بناء پر فرمائی ہے لدود اس دواء کو کہتے ہیں جو خاص طریقہ سے مریض کے حلق میں ڈالی جاتی ہے۔ واقعہ حدیث کا یہ ہے کہ ایک مرتبہ آنحضرت ﷺ یمار ہوئے۔ صحابہ کرام میں باہم مشورہ ہوا کہ آپ ﷺ کو لدود کیا جائے۔ مگر آنحضرت ﷺ نے منع فرمادیا۔ بعد میں اتفاقاً آپ ﷺ کو غشی ہو گئی۔ صحابہ کرام نے یہ خیال کیا آپ ﷺ کا منع فرمانا ایک طبعی امر ہے کہ مریض کو دواء سے کراہت ہوا کرتی ہے کوئی واجب التعمیل حکم نہیں ہے۔ اس لئے غشی کی حالت میں لدود کر دیا۔ جب آپ ﷺ کو افاقہ ہوا تو پوچھا کہ کس نے مجھے لدود کیا تھا۔ اور فرمایا کہ جس جس نے لدود میں شرکت کی ہے ان سب کو لدود کیا جائے۔ چنانچہ ایسا کردیا گیا۔

اس واقعہ میں بظاہر رسول اللہ ﷺ نے مخالفت کرنے والوں سے اپنا انتقام لے لیا ہے۔ حالانکہ آپ ﷺ کی عام عادت کسی سے اپنے نفس کا انتقام لینے کی نہیں۔ حضرت شیخ البندؒ نے فرمایا کہ اس وقت غالباً انتقام لیتا اس مصلحت سے تھا کہ یہ لوگ جن سے یہ مخالفانہ عمل سرزد ہو گیا ہے۔ دنیا یا آخرت کے کسی بڑے عذاب میں بختانہ ہو جائیں۔

حضرت شیخ البندؒ نے فرمایا کہ ایک بزرگ راستہ پر تشریف لے جار ہے تھے۔ کہ ایک مرید ان کے ساتھ تھا۔ ایک کنویں پر گزر ہوا جہاں لوگ پانی بھر رہے تھے ان میں ایک بڑھیا عورت بھی

تھی اس لئے ان بزرگوں کو دیکھ کر کچھ ناشائستہ الفاظ برائی کے کہے۔ ان بزرگ نے مرید سے کہا کہ اس کو مارو، مرید حیرت میں رہا کہ یہ بزرگ کسی سے کبھی انتقام نہیں لیتے اور اس وقت ایک عورت کو مارنے کے لئے فرمار ہے یہ شاید ان کی بات کو سمجھنا نہیں۔ اس میں کچھ توقف ہوا تو یہ بڑھیا وہیں گر کر مر گئی۔ ان بزرگ نے مرید سے کہا کہ ظالم تو نے اس کا خون کیا جب اس نے وہ کلمات کہے تو میں نے دیکھا کہ اللہ کا قہر اس کی طرف متوجہ ہوا اس کو قہر سے بچانے کا ایک ہی راستہ تھا کہ میں کچھ انتقام لے لوں اس لئے مارنے کو کہا تھا تم نے تاخیر کر دی جس کی وجہ سے عذاب نے اس کو پکڑ لیا۔

وقت میں برکت

یہ بات بہت مشہور ہے بلکہ شاہد ہے کہ اللہ والوں کے وقت میں برکت بڑی ہوتی ہے وہ تھوڑے سے وقت میں بہت بڑے کام کر لیتے ہیں امام غزالیؒ کی پوری عمر پر انکی کاصی ہوئی تصانیف کو حساب سے تقسیم کیا جائے تو روزانہ سولہ جزو کی تصنیف بنتی ہے جو کسی طرح سمجھ میں نہیں آتی اور شیخ عبدالوہاب شعرائیؒ نے اپنی کتاب الیوقیت والجواہر میں فرمایا ہے کہ اس کتاب کے تین سواباب ہیں اور ہر باب کے لکھنے پر میں نے شیخ اکبر ابن عربیؒ کی کتاب الفتوحات پوری طرح مطالعہ کی ہے اور یہ پوری کتاب کئی ہزار صفحات کی ہے تو کتاب الیوقیت کی تصنیف میں پوری فتوحات کا مطالعہ تین سو مرتبہ ہوا۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی لکھا ہے کہ یہ کتاب میں نے تیس دن کے اندر تصنیف کی تو گویا روزانہ فتوحات کا مطالعہ دس دفعہ ہوا جس کے صفحات دو ہزار سے کم نہیں۔ اس طرح کے واقعات علماء صلحاء اور بزرگانِ دین کے بہت معروف و مشہور ہیں۔

یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وقت میں اتنی بڑی وسعت کیسے پیدا ہو جاتی ہے جبکہ گھنٹہ سانچھ منٹ سے کسی کا نہیں بڑھتا اور شب و روز چوبیس گھنٹے سے نہیں بڑھتے۔ جمۃ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانو تویؒ کی تحقیق اس معاملہ میں یہ ہے کہ وقت کا ایک تو طول ہے۔ جس کو سب جانتے ہیں یہ گھنٹے منٹ اس طول کا نام ہیں اسی طرح وقت میں ایک عرض (چوڑائی) بھی ہوتی ہے

جو عام نظر وں کو نظر نہیں آتی۔ یہ بزرگ اس وقت کے عرض میں بڑے بڑے کام کر لیتے ہیں۔

بزرگوں کی بے تکلف مہمانی

حضرت مولانا محمد یعقوب صاحبؒ کے صاحبزادے حکیم معین الدین صاحبؒ نانوتوی کے یہاں ایک روز حضرت مولانا شیداحمد صاحب گنگوہیؒ مہمان ہوئے۔ حکیم صاحبؒ کے گھر میں اس وقت کھانے پکانے کو کچھ فاقہ تھا۔ حکیم صاحب نے مہمان سے صاف عرض کر دیا کہ ہمارے گھر تو آج فاقہ ہے لیکن بہت لوگ آپ کی دعوت کو کہا کرتے ہیں لیکن میں قبول نہیں کرتا آج اگر آپ کی اجازت ہو تو قبول کرلوں؟ حضرت گنگوہیؒ نے فرمایا کہ نہیں آج میں کسی کی دعوت قبول نہیں کروں گا۔ جب آپ کے گھر میں فاقہ ہے تو ہمارا بھی فاقہ ہی ہوگا۔ مگر شام کو کسی نے حکیم صاحبؒ کو دس روپیہ دے دیئے تو حضرت گنگوہیؒ کے پاس حاضر ہو کر عرض کیا کہ اب تو پیے آگئے ذرا تکلف کا کھانا پکاؤں گا۔ دیر لگے گی ذرا انتظار کیجئے۔

حضرت گنگوہیؒ

فرمایا کہ میں نے خواب میں ایک بزرگ سے پوچھا کہ حضرت مولانا شیداحمد گنگوہیؒ کس مقام پر ہیں تو فرمایا کہ ”قطب الارشاد“ ہیں اور فرمایا کہ بعض لوگوں نے مجھ سے میرے ہی بارہ میں پوچھا کہ آپ ”قطب الارشاد“ ہیں تو میں نے عرض کیا کہ وجود عدم دونوں کا احتمال ہے اور فرمایا کہ حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہیؒ اپنی تحریرات کے خاتمہ پر لکھا کرتے تھے دعا گوئی عالم۔ یہ اشارہ قطبیت کی طرف ہے کیونکہ قطب عالم ساری مخلوق کا خیر خواہ ہوتا ہے۔

ایک اہم نصیحت

فرمایا کہ دینداری کا سارا امداد کسی بزرگ کے اعتقاد اور انقیاد پر ہے مگر جس کا معتقد ہو اس میں بڑی احتیاط اور تنقید و تحقیق کی ضرورت ہے ورنہ پھر بھی راستہ گمراہی کا ہو جاتا ہے۔

لوگوں کو تشویش سے بچانے کا اہتمام

ارشاد فرمایا کہ میں سفر میں اپنا سامان خود نہ اٹھاتا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ ساتھیوں کو اس میں تکلیف ہوتی وہ دوڑتے اور تشویش میں پڑتے۔ میں جب کبھی صحیح کو سوریے خانقاہ میں آ جاتا ہوں تو جو شخص رات کو سردی میں حفاظت کے لئے سوتا ہے اس کو خود نہیں جگاتا جب تک کہ وہ خود اپنے وقت پر اطمینان کے ساتھ نہ اٹھ جاتا اس وقت تک باہر مسجد میں بیٹھتا ہے۔

ارشاد

فرمایا کہ حدیث میں جو آیا ہے کہ امت تہتر فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی جن میں سے ایک جنت میں جائے گا بہتر دوزخ میں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ بہتر فرقے مخلد فی النار ہوں گے اور فرقہ ناجیہ کے لئے بھی لازم نہیں کہ وہ دوزخ سے بالکل بری ہو۔ بلکہ مراد یہ ہے کہ بہتر فرقوں کو عقائد و اعمال دونوں پر عذاب ہوگا۔ اور فرقہ ناجیہ کو حفظ اعمال پر۔ خلود نار دونوں کے لئے نہیں۔

علوم مکاشفہ کی تحقیق سے مخالفت

ارشاد فرمایا کہ میں وصیت کرتا ہوں کہ علوم مکاشفہ کی تحقیق و تقریر کے درپے ہرگز نہ ہوا چاہیے کیونکہ بڑے خطرہ کی چیز ہے۔ ریل میں سب سوار ہوتے ہیں مگر انہیں کے کل پرزوں کی تحقیق میں کوئی مسافر نہیں لگتا۔

بزرگوں کے ملفوظات یاد کرنے سے زیادہ اپنے اندر استعداد پیدا کرنے

کی فکر چاہیے

ایک بزرگ نے یہ وصیت فرمائی ہے کہ کبھی ملفوظات کے یاد کرنے کی فکر میں نہ پڑنا۔ بلکہ اس کی کوشش کرو کہ تمہاری زبان سے بھی ایسے ہی ملفوظات نکلنے لگیں۔ حضرت نے فرمایا کہ ملفوظات یاد کرنے کی مثال ایسی ہے جیسے ایک ناتمام کنوں کھو دا جائے اور پھر مختلف کنوں سے پانی لا کر اس میں جمع کیا جائے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ اسی کنوں کو اور کھو دکر پانی کی سطح تک پہنچا دو۔

کہ خود بخود اس میں سے پانی نکلنے لگے۔ اس لئے کسی خاص ملفوظ کی تحقیق میں نہ پڑنا چاہیے۔ ہاں بے ساختہ جوز بان پر آجائے اس کو محفوظ کر لینا اچھا ہے۔

ایک دیوانے کی ہوشیاری

کسی نے ایک مبتدوب دیوانے سے پوچھا کہ عقل کیا چیز ہے تو بتایا کہ جو خدا کو پادے پھر پوچھا کہ خدا کیا ہے تو کہا کہ جو عقل میں نہ آوے۔

ربط حادث بالقديم اور مسئلہ وحدة الوجود

ارشاد فرمایا کہ ربط حادث بالقديم کا مسئلہ مشکل میں اور فلسفہ بھی کے نزدیک ایک سخت کٹھن مسئلہ ہے۔ اس کی پوری حقیقت کسی کی سمجھی میں نہیں آتی۔ اس کی اصل وجہ یہ کہ رابط ایک نسبت ہے اور کسی نسبت کا اور اک اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اس کے طرفین یعنی مشتبین کا اور اک نہ ہو۔ اور یہاں طرفین ایک طرف تو حادث ہے جس کا اور اک انسان کے لئے مشکل مگر دوسرا طرف قدیم اور ذات واجب الوجود ہے جس کی حقیقت کا اور اک انسان کے لئے ممکن نہیں۔

مسئلہ وحدۃ الوجود بھی اسی ربط حادث بالقديم کا ایک طریق ہے مجملہ ان پانچ طریقوں کے جو حکماء میں معروف و مشہور ہیں۔ درحقیقت وحدۃ الوجود کوئی تصوف کا مسئلہ ہی نہیں بلکہ مسئلہ کلامیہ ہے۔ صوفیائے کرام نے ذوقاً اس صورت کو ترجیح دے کر اس سے کام لیا ہے۔

ایک لطیفہ

خواجہ عزیز الحسن صاحب نے عرض کیا کہ میرے پاس یادگار غالب رکھی ہے اگر آپ کبھی کبھی دیکھیں تو آپ کے پاس رکھ دوں تو فرمایا کہ یہاں مغلوبوں کا ہی کلام دیکھنے سے فرصت نہیں غالب کا کلام کہاں دیکھیں۔

بزرگوں کا مقولہ

اور بعض نے اس کو حدیث بھی کہا ہے یہ ہے کہ تین شخصوں پر حکم کھاؤ۔ ایک وہ جو کسی قوم

میں عزت رکھتا تھا پھر ذلیل ہو گیا۔ دوسرے وہ جو مالدار تھا پھر فقیر و محتاج ہو گیا۔ تیسرا وہ عالم جو
جاہلوں کا کھلونہ بن جائے۔

ملک معتدل

ارشاد فرمایا محققین کا ملک یہ ہے کہ اپنے نفس کے عمل میں تنگی بر تے۔ اولیٰ اور اعلیٰ کو عمل
کے لئے اختیار کرے مگر رائے اور فتویٰ میں وسعت رکھ کر لوگوں کے لئے مقدور بھر آسانی تلاش
کرے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں ارشاد ہے ما کر هت فدعہ ولا تحرمه علی احد یعنی جو
مشتبہ چیز تمحیص ناپسند ہو تو اپنے عمل میں اس کو چھوڑ دو مگر دوسروں کے لئے اس کو حرام نہ قرار دو۔

قیامِ میلاد

کانپور میں ایک مقام پر حضرتؐ نے سیر طیبہ کا بیان کیا جس میں کوئی رسکی بدعت وغیرہ بالکل
نہ تھی۔ ختم وعظ پر بعض شریروں کو لوگوں نے یہ حکمت کی کہ ایک آدمی نے کھڑے ہو کر درودِ سلام شروع کر
دیا اور لوگوں کو بھی کھڑا ہونے کو کہا۔ سب لوگ کھڑے ہو گئے یہاں تک کہ اپنے بعض علماء بھی۔
مگر حضرتؐ بیشتر رہے۔ ایک طالبعلم نے عربی میں کہا کہ حضرتؐ اس موقع پر یہ مناسب نہیں مگر
حضرتؐ نے جبرا فرمایا لا طاعة لمخلوق فی معصیت الخالق یعنی خالق کی معصیت میں کسی
مخلوق کی اطاعت جائز نہیں۔

پھر فرمایا کہ مضبوطی کی بات یہی ہے کہ آدمی کسی ایسی مجلس میں پھنس جائے تو خود ایسے افعال
میں شریک نہ ہو مگر ضعفاء کو شرکت کی بھی اجازت ہے۔ (۲۵ شعبان ۹۳۹ھ)

اولیاء اللہ کی اہانت دین و دنیا کا خطرہ ہے

ایک صاحب کو حضرتؐ نے کوئی بات ان کی طبیعت کے خلاف کہی تھی۔ تھا نہ بھون سے
واپس جا کر خط میں لکھا کہ آپ نے میری سخت اہانت کی ہے اگر علم کا ادب مانع نہ ہوتا تو میں اس کا
انتقام لیتا۔

اس کے بعد پھر اس کا دوسرا خط آیا جس میں لکھا تھا کہ جس روز سے میں نے وہ کلمات آپ کو لکھے ہیں اسی روز سے میری بینائی گھٹنی شروع ہو گئی اور روز گھٹتی جا رہی ہے خوف ہے کہ اندازہ ہو جاؤں۔ خدا کے لئے معاف فرمادیں۔

حضرتؐ نے جواب میں تحریر فرمایا کہ تمہارا پہلا خیال کہ میں نے تمہاری اہانت کی یہ بھی محض وہم تھا اور یہ دوسرا خیال کر مجھے ایسا لکھنے کی وجہ سے بینائی گھٹتی۔ یہ بھی وہم ہے مگر میں نے بہر حال معاف کر دیا اور تمہارے لئے دعا کرتا ہوں۔

تعویز گند اخلاق خدا کو نفع پہنچانے کے لئے اچھا ہے

فرمایا کہ حضرت گنگوہیؓ فرماتے تھے کہ بعض مرتبہ تو اس پر افسوس ہوتا ہے کہ ہم نے تعویز گندے کیوں نہ سیکھ لئے کہ لوگوں کو نفع ہوتا۔

اخلاص عمل

فرنگی محل لکھنؤ کے بعض علماء نے بہشتی زیور پر شدید نکتہ چینی کے اور حضرتؐ کے خلاف بہت سے سخت کلمات کہے تھے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے قلوب میں حضرت کی کچھ عقیدت پیدا فرمادی۔ تو تھا نہ بھون حاضر ہونے کی اجازت خواجہ عزیز الحسن صاحبؒ کے ذریعے طلب کی حضرتؐ نے اجازت دے دی۔ مگر خواجہ صاحبؒ سے فرمایا کہ یہ حضرات آئے ہیں تو ان کی تعظیم و تکریم اور خاطر تواضع مہمانداری اچھی طرح کروں گا مگر بات چیت ان سے زیادہ نہ کروں گا کیونکہ اگر یہ کروں تو نیت بہت خراب ہو گی یعنی اپنے کمالات کا اظہار۔ افادہ کی نیت ہونا اسلئے مشکل ہے کہ انکی طرف سے استفادہ کے لئے تیار ہونے کی توقع نہیں۔

ارشاد

فرمایا کہ غیر مقلدی بے عقلی کی دلیل ہے بے دینی کی نہیں۔ ہاں جو آئندہ مجتہدین پر تبرا کرے تو بے دینی بھی ہے۔ اور فرمایا کہ میں نے ایک غیر مقلد کو بیعت کیا تھا اور اس کو یہ وصیت کی

تحتی کہ میلاد فاتحہ پڑھنے والوں کو عموماً کبھی برانہ کہنا کیونکہ ان میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کی نیت بھی نیک ہے اور عقیدہ بھی صرف ایک مسئلہ فقیہ ہے میں اختلاف ہے اور وہ مسئلہ حنفیہ و شافعیہ میں بھی زیر اختلاف ہے وہ یہ کہ جس مستحب اور نیک کام میں بعض منکرات و بدعاں شامل ہو جائیں تو اس کے متعلق حنفیہ کا مسلک تو یہ ہے کہ سرے سے اس مستحب ہی کو ترک کر دیا جائے جس میں عادۃ منکرات شامل ہو جاتے ہیں اور حضرات شافعیہ کا مسلک یہ ہے کہ اس عمل مستحب کو ترک نہ کیا جائے البتہ منکرات و بدعاں کو اس سے خارج کیا جائے۔

اپنے نفس کا محاسبہ

ارشاد فرمایا کہ میرے مزاج میں ایک شدت ہے اور گواں کی کچھ تاویل میں بھی اور میرے احباب بھی کر لیتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کمی ہے۔

نام کا اثر انسان پر

فرمایا کہ کانپور میں ایک صاحب تھے جن کا نام کلیم اللہ تھا اکثر بیکار رہتے تھے۔ مجھ سے کہا گیا تو میں نے کہا کہ اپنا نام بدل دو۔ کلیم اللہ کے بجائے سلیم اللہ نام رکھلو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ نام بدلتے ہی وہ اچھے ہو گئے۔

نسبت و ولایت

صوفیائے کرام کی اصطلاح میں ایک خاص کیفیت کے پیدا ہو جانے کو حصول نسبت سے تعبیر کرتے ہیں اور یہ علامت ولی ہونے کی ہوتی ہے اور اس کیفیت کا خلاصہ حضرتؐ نے دوام طاعت اور کثرت ذکر کے دلفظوں میں بیان فرمایا ہے یعنی صاحب نسبت و شخص ہوتا ہے جو ہمیشہ احکام شرعیہ کا پابند ہو۔ ہرگناہ سے اجتناب کرتا ہو اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہو۔ اس نسبت کا حاصل کرنا امر اختیاری ہے۔ یا محض وہی غیر اختیاری ہے اس میں تردید تھا حضرتؐ سے احرانے سوال کیا تو فرمایا۔

"کہ حصول نسبت اصل سے تو وہی اور غیر اختیاری ہے مگر کسی اور اختیاری اعمال پر مرتب اور موعود الترتب ہے یعنی خاص خاص اعمال کے کرنے پر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ نسبت کو مرتب فرمادیتے ہیں۔"

مدارس عربیہ اور ان کے طلباء کے لئے خاص فصیحت

ارشاد فرمایا کہ ہمارے زمانہ میں طلباء پر اپنے اساتذہ کے سوا کسی کارنگ واشنن جمیتا تھا طلباء کو اپنے اساتذہ سے خاص عقیدت و محبت اور اساتذہ کو ان پر خاص شفقت ہوتی تھی۔ اب مزاج و مذاق بدل گئے۔ طلباء و اساتذہ میں وہ تعلق قائم نہیں رہا اس لئے عملی ذوق اور علمی رنگ بھی ان میں پیدا نہیں ہوتا اور کسی رنگ میں بھی پختہ نہیں ہوتے۔ علمی استعداد اور عملی تربیت بھی کمزور ہو گئیں۔ اس لئے مدارس میں طلباء کی عملی تربیت اور اساتذہ کی خدمت کا جذبہ پیدا کرنا اور ایسے طریقے اختیار کرنا بہت ضروری ہیں کہ طلباء و اساتذہ میں باہم ربط و مناسبت پیدا ہو اور استعداد کی کمی پوری کرنے کے لئے فرمایا کہ میرے نزدیک اس وقت بہت ضروری ہے کہ ہمارے مدارس میں تفسیر جلائیں سے پہلے قرآن مجید کا ترجمہ التزام سے پڑھایا جائے۔ فرمایا کہ الحمد لله مجھے یوں تو اپنے کبھی اساتذہ سے محبت و عقیدت تھی۔ خصوصیت سے حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب سے قلب میں خاص محبت تھی اس زمانے میں حضرت گنگوہی کے یہاں گنگوہ میں دورہ حدیث ہوتا اور صحابہ کا درس خود حضرت گنگوہی دیتے تھے۔ دیوبند کے اکثر طلباء دورہ حدیث سے پہلے کی کتابیں دیوبند میں پڑھ کر دورہ حدیث کے لئے گنگوہ چلے جاتے تھے۔ دیوبند میں کم رہ جاتے تھے۔ مجھے چونکہ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب سے گہری محبت تھی مجھے بے وفائی معلوم ہوئی کہ میں دورہ حدیث کے لئے ان کو چھوڑ کر کہیں جاؤں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے حدیث میں بھی مجھے اپنے دوسرے ساتھیوں سے کم نہیں رکھا۔

خیوة المسلمين کی خصوصیت

ارشاد فرمایا کہ درحقیقت یہ تو ایک سیاسی رسالہ ہے۔ مسلمانوں کی قومی ترقی اور ہر طرح کی

فلاح اس کا اثر ہے مگر نہ بھی رنگ میں لکھا گیا ہے اگر مسلمان اس کا اتباع کر لیں تو مسلمانوں کو اجتماعی قوت و عزت وہ حاصل ہو جائے جو کسی سیاسی تحریک سے حاصل نہیں ہو سکتی۔

اور فرمایا کہ ہمارا کام اتنا ہے کہ حق کی اشاعت کر دیں پھر گروہ بنانا اور درپے ہونا نفس کی

آمیزش سے خالی نہیں ہوتا۔

سینہ بانوِ حق گلزار کن

جملہ اوراق کتب درنا کرن

مولانا مظفر حسین صاحب کا ندھلوی

کتاب دیکھ کر وعظ فرمایا کرتے تھے مگر مجمع پر اثر حیرت انگیز ہوتا تھا۔ لوگوں نے اس اثر کی وجہ پوچھی تو فرمایا کہ جب میں کوئی بات کہتا ہوں تو میری دلی تمنا یہ ہوتی ہے کہ سب کے سب اس کے مطابق کام کرنے لگیں یہ بالکل صحیح ہے

ہر چہ از دول خیزد بردول ریزد

وعظ و نصیحت کے موثر ہونے میں واعظ و ناصح کا خیر خواہ اور دول سے طالب اصلاح ہونا سب سے زیادہ اہم شرط ہے۔

مال اور جاہ کے صحیح منافع

ارشاد فرمایا کہ جاہ کا اصل فائدہ دفع مضرات ہے اور مال کا اصلی فائدہ جلب منفعت یعنی مال خرچ کر کے آدمی اپنی ضروریات پوری کر کے نفع حاصل کرے۔ مگر جاہ سے جلب منفعت کا کام لیا گیا تو اس کا حلال ہونا مشکوک ہے کیونکہ بعض اوقات کوئی آدمی دوسرے کے جاہ جلال سے مرعوب ہو کر کچھ دے دیتا ہے مگر دول اس پر مطمئن نہیں ہوتا۔ اسی صورت میں اس جاہ سے حاصل شدہ منفعت حرام ہے۔ مال و جاہ کے معاملہ میں استاذ مرحوم حضرت مولانا محمد یعقوب صاحبؒ کے دو شعر ہمیشہ یاد رکھنے کے قابل ہیں۔

طالب مال ہوں نہ طالب جاہ

آفرین تجھ پہ بہت کوتاہ

جاہ اتنا کہ ہوں نہ میں پا مال

مال اتنا کہ جس سے ہو خور و نوش

اکبر شاہ

اکبر شاہ کی غلط کاریاں غلط عقیدے اور عمل بہت معروف ہیں مگر میں نے کسی تاریخ میں دیکھا ہے کہ اس نے مرنے سے پہلے علماء کو جمع کر کے سب کے سامنے توبہ کی ہے اس لئے ان کو بھی حقیر نہ سمجھیں بلکہ۔

یقین کا فر راجحواری منگر یہ

حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی نے ایک ہندو بنتے کو مرنے کے بعد خواب میں دیکھا کہ جنت میں ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ تم یہاں کیسے آئے۔ اس نے کہا کہ میں نے مرنے سے پہلے کلمہ اسلام پڑھ لیا تھا وہ مقبول ہو گیا۔

سرسید بانی علی گڑھ کی نظر میں علماء دیوبند

سرسید کے متعلق فرمایا کہ اس شخص میں مسلمانوں کی قومی ترقی کا جذبہ اور محبت مخلصانہ تھی اپنے مخالفین تک کو بھی نفع پہنچانے سے دریغ نہ کرتے تھے۔ میں نے اتنے اخبار تہذیب الاخلاق میں چھپا ہوا دیکھا ہے کہ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحبؒ اور مولانا محمد قاسم صاحبؒ بانی دارالعلوم دیوبند کے متعلق لکھا تھا کہ یہ لوگ فرشتہ خصلت ہیں اور حضرت گنگوہیؒ کی بھی تعریف کرتے تھے۔ ایک بزرگ عالم ایک مرتبہ علی گڑھ کالج میں گئے لوگوں نے کالج دکھلایا اور سرسید سے بھی ملاقات کرائی۔ وہ فرماتے تھے کہ جب تک میں بیٹھا رہا بزرگوں کا تذکرہ کرتے رہے۔ اسی سلسلہ میں شاہ اخلاق صاحبؒ کا ذکر کرنے لگے کہ لوگ ان کو شدید اور سخت سمجھتے ہیں حالانکہ وہ صرف اپنے نفس پر سخت تھے دوسرے لوگوں کے لئے بہت نرم تھے اور میں نے سنا ہے کہ مولانا رشید احمد صاحب گنگوہیؒ صاحبؒ بھی ایسے ہی ہیں۔

بچوں کی ذہانت، ایک خاص مثال

فرمایا کہ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحبؒ نے ایک حکایت سنائی تھی کہ ایک ریاست

کے ہندو راجہ کا انتقال ہو گیا اس کی اولاد میں ایک نابالغ بچہ تھا جو اس کا جانشین ہونا پایا تھا۔ مرنے والے کے بھائی کو طمع ہوئی کہ ریاست مجھے ملنا چاہیے بچہ اس کو نہیں چلا سکتا۔ وزراء ریاست کی خواہش تھی کہ یہ بچہ ہی اپنے باپ کی ریاست کا وارث بنے۔ معاملہ بادشاہ وقت عالمگیر کی خدمت میں پیش ہونا تھا۔ وزراء اس بچہ کو لے کر دہلی پہنچے اور تمام راستہ بچہ کو محتمل سوالات کے جوابات سکھاتے رہے کہ بادشاہ تم سے یہ سوال کریں تو یوں کہنا۔ جب وہ سب اپنی تعلیم ختم کر چکے اور دہلی پہنچے تو بچے نے وزراء سے کہا کہ یہ سوالات جوابات تو آپ نے مجھے بتلادیئے اور میں نے یاد کر لئے لیکن اگر بادشاہ نے ان کے علاوہ کوئی اور سوال کر لیا تو کیا ہو گا؟ وزراء نے کہا کہ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ آپ اتنے غلطمند ہیں ورنہ راستہ میں ہم آپ سے کچھ بھی نہ کہتے۔ بس اب ہمیں فکر نہیں جس کے وہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے اس کو جواب بھی اللہ ہی سکھائے گا۔ پھر ہوا یہ کہ جب یہ بادشاہی دربار میں پہنچے تو دربار برخواست ہو چکا تھا۔ عالمگیر اپنے زنانہ مکان میں چلے گئے تھے۔ اس بچہ کے آنے کی اطلاع ملی تو اس کو اندر مکان میں ہی بلا لیا۔ اس وقت عالمگیر گھر میں ایک حوض کے کنارے تہبند باندھے ہوئے نہانے کے لئے تیار تھے۔ یہ بچہ حاضر ہوا تو ہنسی کے طور پر عالمگیر نے بچے کے دونوں بازوں پکڑ کر حوض کی طرف اٹھایا اور کہا کہ ڈال دوں۔ بچہ یہ سن کر ہنس پڑا۔ بادشاہ نے اس کو نظر تا پریب سے دیکھا تو بچہ یو لا کہ مجھے ہنسی اس پر آگئی کہ آپ کی ذات تو ایسی ہے کہ جس کی ایک انگلی پکڑ لیں اسکو کوئی دریا غرق نہیں کر سکتا میرے تو دونوں بازوں آپ نے تھامے ہوئے ہیں میں کیسے ڈوب سکتا ہوں۔ عالمگیر نے اس کو گود میں اٹھایا اور ریاست اس کے نام لکھ دی۔

غیر مسلم کا اکرام بقدر ضرورت

ایک ہندو ڈپٹی کلکٹر نے حضرتؐ سے ملاقات کے لئے مجلس میں آنے کی خواہش کی۔ حضرتؐ نے اجازت دے دی اور جب وہ آئے تو خود تعظیم کیلئے کھڑے ہو گئے مگر اہل مجلس کو حکم دیا کہ وہ سب بیٹھیں رہیں۔ جب وہ چلے گئے تو فرمایا کہ میں تو اسلئے کھڑا ہوا کہ وہ میرے مہمان تھے

مہمان کا اکرام مأمور بہے آپ حضرات کو کھڑے ہونے سے اس لئے منع کیا کہ آپ کی تعظیم بے ضرورت تھی۔ اس طرح اکرام مہمان کا حق بھی ادا ہو گیا اور کسی غیر مسلم کی تعظیم بے ضرورت بھی نہ ہوئی۔

عوام کا دین و ایمان علماء سے رابطہ اور اعتقاد پر موقوف ہے

ارشاد فرمایا کہ جب کوئی عامی آدمی علماء پر اعتراض کرتا ہے تو اگر وہ اعتراض صحیح بھی ہو جب بھی یہ بھی چاہتا ہے کہ علماء کی نصرت کروں۔ جو بظاہر عصیت ہے مگر میری نیت درحقیقت یہ ہوتی ہے کہ عوام علماء سے غیر معتقد نہ ہوں ورنہ ان کے دین ایمان کا کہیں ٹھکانا نہیں۔

غیر مسلم حکام کے ساتھ تعلقات

کے متعلق فرمایا کہ ان کی محبت اور دوستی فتنہ باطنہ ہے اور ان کی ناراضی فتنہ ظاہرہ اور بیانیں رسول اللہ ﷺ نے ان دونوں فتنوں سے اللہ کی پناہ لینا سکھایا ہے حدیث میں ہے اللهم انی اعوذ بک من الفتنة ما ظهر منها وما بطن۔

غیر محرم عورتوں کی طرف نظر

کے متعلق فرمایا کہ یہ اگرچہ اپنی ذات سے ایک صیرہ گناہ ہے مگر اثرات و نتائج کے اعتبار سے بعض کبائر سے بھی زیادہ سخت ہے اور فرمایا کہ عورتوں کو غیر محرموں سے پردہ نہ رکھنا ایسا عقلی اور بدیہی مسئلہ ہے کہ اگر قرآن و حدیث میں ایک بھی حکم اس کے لئے نہ آتا جب بھی انسانی عقل اور غیرت کا تقاضا ہی ہوتا ہے کہ عورتوں کو پردہ میں رکھا جائے۔ آپ کسی شخص کو نہیں دیکھتے کہ وہ سور و پیہ کے نوٹ ریل کے تختے پر ڈال دیتا ہو۔ انکو چھپا کر جیب کے اندر رکھنے کا اہتمام ایک فطری امر سمجھا جاتا ہے کیونکہ باہر نکالنے اور ڈالنے میں او باش لوگوں کے اچک لینے کا خطرہ ہوتا ہے تو کیا عورت کی قیمت سور و پیہ کے نوٹ کے برابر بھی نہیں کہ اس کو او باش نظرؤں سے چھپایا جائے۔

خطوط میں لکھے ہوئے سلام کا جواب بھی واجب ہے

خطوط میں جو سلام کسی کی طرف سے لکھا ہوا آتا ہے اس کا جواب دینا بھی واجب ہے خواہ زبان سے یا قلم سے یادوں سے۔ یہی حال زبانی سلام کا ہے کہ اسکا نفس جواب واجب ہے اور سنانا مستحب ہے (اس میں غور کیا جائے اگر سلام کرنے والے نے جواب نہ سناتا تو جواب نہیں ہوا۔ سنانا ضروری ہے البتہ اگر دور ہو کہ سنانے میں مشقت ہے تو زبان سے جواب دے کر اشارہ منہ سے کر دے کہ وہ سمجھ جائے کہ جواب دیا ہے)۔

لفظ صلم سے درود و سلام کا اختصار ادب کے خلاف ہے

فرمایا کہ حضور ﷺ کے نام مبارک کے ساتھ درود شریف پڑھنا واجب ہے اگر کسی نے صرف لفظ صلم قلم سے لکھدیا زبان سے درود سلام نہیں پڑھا تو میراً گمان یہ ہے کہ واجب ادا نہیں ہو گا۔

مجلس میں چند علماء بھی تھے انہوں نے اس سے اختلاف کیا اور عرض کیا کہ آج کل لفظ صلم پورے درود پر دلالت تامة کرنے لگا ہے اس لئے کافی معلوم ہوتا ہے۔ حضرتؓ نے فرمایا کہ میرا اس میں شرح صدر نہیں ہوا۔ اور اصل بات تو یہ ہے کہ حضور ﷺ جیسے محسن خلق کے معاملہ میں اختصار کی کوشش اور کاوش ہی کچھ سمجھ میں نہیں آتی۔ اگر آپ ﷺ ہمارے معاملہ میں اختصارات سے کام لینے لگیں تو ہم کہاں جائیں۔

احقر جامع عرض کرتا ہے کہ جہاں تک ضرورت کا تعلق ہے سب سے زیادہ ضرورت اختصار کی حضرات محدثین کو تھی جن کی ہر سطر میں تقریباً حضور ﷺ کا نام مبارک آتا ہے مگر آپ آئے حدیث کی کتابوں کا مشاہدہ فرمائیں کہ انہوں نے ہر ہر جگہ نام مبارک کے ساتھ پورا درود و سلام لکھا ہے اختصار کرنا پسند نہیں کیا۔

ایک سید صاحب کی حکایت

ایک مولوی صاحب کے پاس آئے اور اپنے آپ کو سید ظاہر کر کے کچھ سوال کیا مولوی صاحب نے کہا کہ آپ کے سید ہونے کی کیا دلیل ہے؟ اس نے کہا کہ دلیل تو میرے پاس بجز اپنے بیان کے نہیں۔ مولوی صاحب نے ان کو کچھ نہ دیا۔ رات کو خواب میں دیکھا کہ میدان حشر قائم ہے پیاس شدید ہے اور حوض کوثر پر رسول اللہ ﷺ اپنی امت کو پانی پلار ہے ہیں۔ یہ مولوی صاحب بھی حاضر ہوئے کہ میں بھی آپ ﷺ کا امتی ہوں مجھے بھی حوض کوثر کا پانی عطا فرمائیے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ تمہارے امتی ہونے کی کیا دلیل ہے اس وقت ان کو اپنے کئے پر پیشمانی ہوئی۔

موئے مبارک

دنیا میں بہت سے مقامات میں آنحضرت ﷺ کے موئی مبارک موجود ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے اسکی زیارت کرائی جاتی ہے اور عام طور سے کسی کے پاس اسکی سند نہیں ہوتی کہ یہ حضور ﷺ کا موئی مبارک ہے۔ اسی حالت میں اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے فرمایا کہ اتنی بات تو صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ صحابہ کرام آنحضرت ﷺ کے وضوء کا گرا ہوا پانی اور آپکے کٹے ہوئے موئے مبارک کو ضائع نہ ہونے دیتے تھے بلکہ اکرام تعظیم کیسا تھا بطور تبرک رکھتے تھے اور موئے مبارک کا صحابہ کرام میں تقسیم ہونا بھی ثابت ہے اور یہ بھی ظاہر ہے کہ بالوں کی تعداد بہت بڑی ہوتی ہے اسلئے کثرت سے دنیا میں موجود ہونا مستبعد نہیں۔ اور ایسے معاملات میں کسی سند صحیح سے ثابت ہونا ضروری نہیں کہ معاملہ احکام کا نہیں۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں اسکے مصنوعی ہونے پر کوئی دلیل نہ ہو اسکا اکرام ہی کرتا چاہیے۔ حضرت شاہ صاحب نے اسکے متعلق یہ شعر پڑھا۔

مرا از لف تو موئی پسند است

ہوں راراہ مدد ہوئے پسند است

علمائے حق کا اپنے مخالفین کے ساتھ معاملہ

ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص میری کسی کتاب کا رد لکھتا ہے تو جب وہ میرے پاس آتا ہے تو اول نظر میں میرا خیال بھی ہوتا ہے کہ مجھے کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ اس کو اسی نظر سے دیکھا ہوں کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی تاکہ اس سے رجوع کر کے تصحیح کروں۔ اس کا جواب دینے کی نیت سے نہیں دیکھتا۔

مولانا محمد حسین بٹالوی اہل حدیث کی انصاف پسندی

مولانا موصوف غیر مقلد تھے مگر منصف مزاج۔ حضرت نے فرمایا کہ میں نے خود انکے رسالہ "اشاعتۃ النہ" میں انکا یہ مضمون دیکھا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ:-

"چیز سال کے تجربے سے معلوم ہوا کہ غیر مقلدی بے دینی کا دروازہ ہے"

حضرت گنگوہیؒ نے اس قول کو سبیل اللہ اور میں نقل کیا ہے۔

ایک حدیث کی تشریح

حدیث میں رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے لا یقص الامیر او مامور او مختار۔ یعنی وعظ کہنا تین آدمیوں کا کام ہو سکتا ہے۔ ایک وہ شخص جو مسلمانوں کا امیر ہو وہ مسلمانوں کو وعظ نہیں۔ دوسرا وہ جسکو امیر نے وعظ کہنے پر مامور کیا ہو۔ اگر یہ دونوں نہیں تو پھر وہ متکبر ہے جو اپنے کو دوسروں سے بڑا سمجھ کر وعظ گوئی کے لئے کھڑا ہو گیا۔ حضرتؓ نے فرمایا کہ اس زمانہ میں کوئی امیر و مامور تو ہے نہیں اور سب کو مختار و متکبر بھی نہیں کہا جا سکتا اسلئے میرا خیال یہ ہے کہ جن علماء سے عوام و ععظ کو کہتے ہیں وہ من جانب عوام مامور میں داخل ہیں۔ کیونکہ درحقیقت امیر بھی تو عوام ہی کا مامور ہوتا ہے۔

جماعت میں صفوگنگی درستی کا اہتمام

ارشاد فرمایا کہ حضرت مولانا گنگوہیؒ امامت کے وقت تو یہ صفوں کا انتظار فرماتے تھے نماز

اس وقت شروع کرتے جب معلوم ہو جائے کہ صافیں درست ہو چکی ہیں۔

علم کلام کے تمام مباحث بدرجہ ضرورت ہیں اصل دین نہیں

ارشاد فرمایا کہ علم کلام کے پیشتر مسائل بدرجہ منع یعنی طلب دلیل کے ہیں مسائل یا قاعدہ شرعیہ نہیں مثلاً متكلمین جو ترکیب اجسام میں جزء لاتتجزی کے قائل ہیں وہ اس کے مدعی نہیں بلکہ مانع ہیں۔ یعنی یہ کہتے ہیں کہ اسکی کیا دلیل ہے کہ جسم کا جزء لاتتجزی سے مرکب مانا محال ہے۔ حضرت شیخ ابو الحسن اشعریؒ جو علم کلام کے امام ہیں خود انکی تصریح سے یہ بات ظاہر ہے غالباً شرح عقائد کے حواشی میں یہ حکایت منقول ہے کہ ایک شخص حضرت ابو الحسن اشعریؒ کی شہرت سنکر انکی زیارت کے لئے چلا اتفاق سے راستہ میں ان سے ملاقات ہو گئی وہ اس وقت ایک مناظرہ کے لئے شاہی دربار میں جا رہے تھے۔ اس شخص نے انہیں سے پوچھا کہ شیخ اشعری کہاں ملیں گے انہوں نے فرمایا کہ ہمارے ساتھ چلو ہم تمھیں ان سے ملا دیں گے۔

شاہی دربار میں پہنچ کر مناظرہ شروع ہوا تو جب سب کی تقریریں ختم ہو چکیں اسوقت حضرت اشعریؒ اٹھے اور ایسے عجیب انداز سے ہر تقریر پر کلام اور شبہات کا جواب دیا کہ سب ساکت ہو گئے۔ مجلس برخاست ہونے کے وقت اس شخص کو اندازہ ہو گیا کہ یہی ابو الحسن اشعریؒ ہیں تو ان سے عرض کیا کہ آپ نے خواجہ اتنی دیر بحثیں ہونے دیں اگر آپ اول ہی یہ تقریر کر دیتے تو کسی کے بولنے کی مجال ہی نہ رہتی۔ اس پر حضرت اشعریؒ نے فرمایا کہ جب تک اہل الحاد کی طرف سے شبہات بیان نہیں کئے گئے تو میری اس تقریر کی ضرورت نہ تھی اس وقت میری ایسی گفتگو طریق سلف کے خلاف ہونے کی وجہ سے بدعت ہوتی۔ مگر جب مخدیں کے اعتراضات و شبہات سامنے آگئے تو جواب دینا واجب ہو گیا۔

حضرتؒ نے فرمایا کہ بس علم کلام کا یہی درجہ ہے کہ جب اور جہاں اسلام کے خلاف اہل کفر والحاد کی طرف سے شبہات و شکوک پیش کئے جاویں تو اس کا جواب دینا واجب ہے ورنہ ان سے سکوت ہی اسلام ہے جیسا کہ سلف صالحین و تابعین کا طریق تھا۔

اکابر دیوبند کا مسائل اجتہادیہ میں توسع

حضرتؒ نے فرمایا کہ جب میں کانپور میں حدیث پڑھاتا تھا تو میرے دل میں فاتح خلف الامام پڑھنے کی ترجیح قائم ہو گئی چنانچہ اس پر عمل بھی شروع کر دیا۔ مگر اپنے کسی عیب و صواب کو اپنے بزرگوں سے چھپانا مجھے کبھی پسند نہیں تھا اس لئے یہ واقعہ خط میں حضرت گنگوہی گولکھ کر بھیج دیا۔ اس کے جواب میں حضرتؒ نے مجھے کچھ نہیں فرمایا۔ مگر چند روز ہی گزرے تھے کہ پھر خود بخود دل میں ترک فاتح خلف الامام کی ترجیح قائم ہو گئی اور اسکے مطابق عمل کرنے لگا۔ اس کی بھی اطلاع حضرت گنگوہی کو کر دی آپ نے اس پر بھی کچھ نہیں فرمایا۔

بعض اوقات بعض لوگوں نے حضرت مولانا سے میری شکایت کی تو مولانا نے میری حمایت فرمائی جسکا مبنی یہ تھا کہ حضرت کو یہ معلوم تھا کہ یہ جو کچھ کرتے ہیں نیک نیتی سے کرتے ہیں۔

مولانا عبدالحق خیر آبادی کی ایک حکایت

ایک گاؤں والے خان صاحب مولانا کی ملاقات کے لئے حاضر ہوئے۔ زمانہ کھیتی کے کاروبار کا تھا۔ مولانا نے پوچھا کہ ایسے وقت میں آپ کہاں آگئے؟ کہنے لگے کہ کھیتی باڑی کے سب کام خوب جایز کر کے آگیا ہوں۔ مولانا نے فرمایا ابا ہم تو اب تک یہی سمجھتے رہے کہ حضرت خوب جایز اللہ کے ولی ہیں اب معلوم ہوا کہ وہ پڑھان بھی ہیں گاؤں کی کھیتی باڑی کا انتظام اچھا جانتے ہیں۔ ان سے کسی نے میلاد خوانی کے متعلق پوچھا تو فرمایا کہ بہت اچھا کام ہے پڑھنے والے کو مٹھائی کا دو ہر ا حصہ ملتا ہے۔

ارشاد

فرمایا کہ آج کل مسلمانوں کے اجتماعی کام آفتوں اور فتنوں سے خالی نہیں۔ اول تو اجتماع ہی نہیں ہوتا اور ہو بھی تو قلو بھم شتی کا مظاہرہ ہوتا ہے اسلئے اب میں تنہا کرنے کا جو کام ہے وہ تو کر لیتا ہوں جو مجمع پر موقوف ہوا سکے درپے نہیں ہوتا۔

ارشاد

کسی قوم یا کسی مذہب کے لوگوں پر زیادہ تشدد اور تعددی کرنا، سخت الفاظ کہنا خود کہنے والے کے لئے مضر ہوتا ہے مجھے اس کا بہت تجربہ ہوا ہے مولوی نذری حسین صاحب دہلوی پہلے کے حنفی اور حنفیوں کے مفتی اور قاضی تھے اور غیر مقلدوں کو بہت برا کہتے اور سخت سخت الفاظ کہا کرتے تھے پھر خود غیر مقلد ہو گئے تو مقلدوں کو سخت برا کہنے لگے۔ امام عظیم ابوحنیفہ کی شان میں بھی گستاخانہ الفاظ کہتے تھے۔ اسی لئے حضرت گنگوہیؒ ان سے بہت ناراض تھے مگر عدل کی صفت غالب تھی اس لئے جب حضرت گنگوہیؒ کے سامنے کوئی ان کو برا کہتا تو انکی طرف سے تاویل کرتے تھے۔

تفسیر بیان القرآن میں آیتوں پر عنوانات قائم کرنے کا کام سب سے اہم ہے مجلس میں کسی صاحب نے بیان القرآن میں ربط آیات کے اہتمام کی بہت تعریف کی اور کہا کہ یہ عجیب چیز ہے۔ حضرتؐ نے فرمایا کہ بیشک یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے لیکن میرے نزدیک کوئی زیادہ اہم چیز نہیں۔ کیونکہ ربط آیات کے بیان کی ضرورت ہی زیادہ نہیں، البتہ اس تفسیر میں ایک چیز ایسی ہے جس کو میں نے بڑی مشقت اور محنت سے جمع کیا ہے وہ اب تک کسی دوسری تفسیر میں میری نظر سے نہیں گزرا۔ وہ یہ کہ مفہامیں قرآنیہ کی سرخیاں آیات کے شروع میں لگادی ہیں کہ اہل علم تو اگر قرآن کے حاشیہ پر یہ عنوانات ہی لکھ لیں تو پوری تفسیر کا کام ان سے لے سکتے ہیں۔

مسائل اجتہاد میں بحث و تحقیق کا درجہ

ارشاد فرمایا کہ جن مسائل میں آئندہ مجتہدین کا اختلاف ہے ان میں بحث و تحقیق کی زیادہ کاوش طبعاً ناگوار ہے کیونکہ سب کچھ تحقیقات کے بعد بھی انجام یہی رہتا ہے کہ اپنا مذہب صواب محتمل الخطاء اور دوسروں کا مذہب خطأ محتمل الصواب ہے۔ کتنی ہی تحقیق کر لو کسی امام مجتہد کے مسلک کو بالکل نہیں ٹھہرایا جاسکتا۔ اسی لئے میں اس بات سے بہت گریز کرتا ہوں۔ بعض اوقات تو سوالات و شبہات کے جواب میں اسی بات پر قناعت کر لیتا ہوں کہ مسئلہ سے پوچھتا ہوں کہ یہ مسئلہ قطعی ہے یا ظنی۔ ظاہر بات ہے کہ قطعی ہوتا تو محل اجتہاد نہ ہوتا۔ وہ کہتا ہے کہ ظنی ہے تو میں کہہ

دیتا ہوں کہ پھر ظنی ہونے کا تقاضا ہی یہ ہے کہ جانب مخالف کا شہر اس میں رہتا ہے، اگر تصحیح شہر ہے تو ہوا کرے اس سے تو مسئلہ کی ظنیت کی تاکید و تقویت ہوتی ہے۔ ایسے شہر سے کچھ حرج نہیں ہے۔

حضرت شاہ احق صاحب اور ان کے ایک شاگرد عالم کی حکایت

حضرت شاہ احق صاحب دہلویؒ جب حج کے لئے تشریف لے گئے تو راستہ اجمیر کا اس لئے اختیار کیا کہ راستے میں حضرت خواجہ صاحب کے مزار پر حاضری ہو جانے گی۔ اجمیر شریف میں حضرت شاہ صاحب کے ایک شاگرد تھے آپ نے ان کو اپنے آنے کی اطلاع دی تو شاگرد صاحب نے جواب میں لکھا کہ آپ یہاں تشریف نہ لائیں کیونکہ میں یہاں زیارت مزارات کے لئے شدر حال اور سفر کر کے جانے کو منع کرتا ہوں کیونکہ لوگوں نے اس میں غلو بہت کر رکھا ہے اگر آپ تشریف لائے تو میں یہ کس سے کہتا پھر ورنگا کہ حضرت یہاں مستقل سفر کر کے تشریف نہیں لائے بلکہ سفر حج کے راستے میں یہاں آنا ہوا ہے۔ حضرت شاہ صاحبؒ نے پھر اس کو جواب میں لکھا کہ مجھ سے تو پر صبر نہیں ہوتا کہ اجمیر شریف کے راستے گزروں اور مزار پر حاضری نہ دوں، البتہ آپ کی مصلحت بھی قابل رعایت ہے اس لئے اسکی صورت یہ ہے کہ جب میں وہاں حاضر ہوں آپ ایک مجلس وعظ منعقد کریں اور اس میں زیارت قبور کے لئے شدر حال اور مستقل سفر کرنے کی مخالفت بیان کریں۔ میں بھی اسی مجلس میں شریک ہوں گا اور ختم وعظ پر میں اعلان کر دوں گا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو بہ کرتا ہوں۔

حضرتؒ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو لوگ وہابی کہتے ہیں۔ حالانکہ یہ کام عاشقوں کے سوا کوئی نہیں کر سکتا (احقر جامع کہتا ہے) کہ استاد شاگرد کی بے تکلفی اور دین کی فکر و اہتمام بھی اس واقعہ میں قابل تقلید ہے۔

ارشاد

فرمایا کہ ایک کتاب بچپن میں نظر سے گزری تھی جو غالباً مفتی سعد اللہ صاحب کی تصنیف

تحتی۔ اس میں دیکھا کہ امام عظیم ابوحنیفہ فرماتے ہیں کہ مجھے جو کچھ ملا وہ اس دعاء کی برکت سے ملا
وہ دعا یہ ہے اللهم انا نستعينك على طاعتك میں نے اسی وقت سے اس کا التزام کر لیا
ہے حفظ قرآن کے طالبعلم کو تعریز کی درخواست پر بھی تلقین فرمائی کہ ہر نماز کے بعد گیارہ مرتبہ یہ
دعای پڑھ لیا کرے۔ (۳۰ شعبان ۱۴۲۹ھ)

مسئلہ جبر و قدر پر ایک مختصر جامع تقریر

ارشاد فرمایا کہ دنیا میں کوئی بھی اختیاری کام دو مشتبیوں کے بغیر وقوع میں نہیں آتا۔ ایک
مشیت الہیہ دوسری مشیت عبدیہ۔ جن لوگوں نے صرف مشیت قریبہ یعنی مشیت عبدیہ پر نظر کی وہ
قدرتی ہو گئے اور جنہوں نے صرف مشیت بعیدہ یعنی مشیت الہی پر نظر کی وہ جبر ہو گئے۔ اور جنہوں
نے دونوں مشتبیوں پر نظر کی وہ اہل سنت رہے۔

ایک آیت کی تفسیر و تحقیق

تعدد ازدواج کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد ہے و ان خفتم ان لاتعد
لواف واحدة۔ یعنی اگر تمھیں اس کا خطرہ ہو کہ تم متعدد بیویوں کے درمیان عدل و مساوات کا معاملہ
نہ کر سکو گے تو ایک ہی عورت سے نکاح کرتا چاہیے۔ دوسرا نکاح کرو گے تو بے انصافی کے گناہ میں
بتلا ہو جاؤ گے۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا و ان تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء۔ اس میں
صراحةً اس کی نفی کر دی ہے کہ تمھیں دو بیویوں میں عدل و انصاف پر قدرت و استطاعت ہی
نہیں۔ ان دونوں کے ملانے سے بعض لوگوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ عدل پر قدرت نہیں۔ اور جب
عدل پر قدرت نہ ہو تو ایک بیوی پر اکتفا کرتا واجب ہے۔ اس سے لازم آیا کہ ایک سے زائد نکاح
کرنا ہی جائز نہیں۔

حضرتؐ نے فرمایا کہ ان دونوں آیتوں میں لفظ عدل کا مفہوم الگ الگ ہے۔ پہلی آیت
میں عدل سے مراد وہ عدل ہے جو انسان کے اختیار میں ہے یعنی معاملات میں مساوات اور دوسری
آیت میں جس عدل کی نفی کی گئی ہے اس سے مراد غیر اختیاری عدل ہے یعنی قلبی محبت میں دونوں کو

برا بر رکھنا یہ انسان کے اختیار کی بات نہیں۔ اور قرینہ اس کا خود آیت میں موجود ہے۔ آگے فرمایا فلا تمیلو اکل المیل۔ جس سے معلوم ہوا کہ عدم استطاعت عدل میں مراد یہ میلان قلبی ہے کہ میلان قلبی کسی کے اختیار میں نہیں۔ اس لئے پہلی آیت سے صرف اتنی بات ثابت ہوئی کہ جس شخص کو اختیاری عدل و مساوات میں پورا نہ اترنے کا خطروہ ہوا اس کو ایک سے زائد نکاح ممنوع ہوا اور غیر اختیاری چیزوں میں عدل کا انسان مکلف نہیں۔ واللہ اعلم

ارشاد

فرمایا کہ جس درویش کی طرف زیادہ تر دنیادار لوگوں کا میلان ہو وہ حقیقت میں درویش نہیں ہوتا خود بھی دنیادار ہوتا ہے کیونکہ قاعدہ ہے *الجنس یمیل الی الجنس* یعنی ہر شخص اپنی جنس کی طرف مائل ہوتا ہے اگر درویش میں دنیاداری نہ ہوتی تو زیادہ اجتماع دنیاداروں کا نہ ہوتا۔

آداب معاشرت

ارشار فرمایا کہ سلف صالحین میں آداب معاشرت کا بڑا اہتمام تھا جیسا کہ قرآن و سنت میں اس کا اہتمام کیا گیا ہے افسوس ہے کہ آج کل اس سے غلفت اتنی بڑھ گئی کہ گویا یہ دین کا کوئی جزء ہی نہیں عوام تو عوام خواص اور علماء بھی آداب معاشرت میں بہت کوتا ہیاں کرتے ہیں۔

پھر فرمایا کہ مہمان کا اکرام اور خاطر مدارات میزبان پر توازن ہی، ساتھ ہی مہمان پر بھی کچھ حقوق ہیں۔ مجملہ ان کے یہ ہے کہ میزبان جس جگہ بٹھائے وہیں بیٹھ جائے۔ بعض اوقات کسی خاص جگہ بٹھانے میں میزبان کی کوئی خاص مصلحت پر وہ وغیرہ سے متعلق ہوتی ہے اور مجملہ آداب مہمانی کے ایک یہ بھی ہے کہ کسی ایسی چیز کی فرماں ش نہ کرے جس کا مہیا ہونا مشکل ہو اگرچہ کم ہی درجہ اور آسان چیز ہو۔ کیونکہ بعض اوقات میزبان کو پریشانی ہوتی ہے کہ وہ چیز نہیں ملتی۔ اور فرمایا مجملہ آداب مہمانی کے ایک یہ بھی ہے کہ اگر کھانے میں کسی چیز سے پرہیز ہو تو پہلے ہی اطلاع کر دے یعنی وقت پر دستِ خوان پر بیٹھ کر کہنا بڑی ہی بے تمیزی کی بات ہے۔

قصبہ کرانہ کے دو بزرگ۔ ایک حکیم اور صوفی، دوسرے عالم اور مناظر قصبہ کرانہ ضلع مظفر نگر کے باشندے مولانا رحمت اللہ کرانوی تو اپنی تصانیف اور پادری فنڈر سے مناظرہ کی بناء پر بہت معروف و مشہور ہیں۔ ان کے بھائی ایک صوفی مزاج حکم حاذق اور اپنے وقت کے ولی اللہ تھے حضرت نے ان کا نام بھی ذکر فرمایا تھا جو مجھے یاد نہیں نہیں رہا۔ ان کے حالات بھی عجیب تھے۔ جب کبھی بازار جاتے تو محلے کی بیواؤں اور بوڑھیوں سے پوچھ کر جاتے کہ کوئی بازار کا کام تو نہیں۔ اور سب کے کام کر کے لاتے تھے۔ ایک مرتبہ گیہوں کی ایک پوت باندھ کر خود سر پر رکھ کر لارہے تھے۔ لوگ دوڑے کہ ان سے یہ بوجھ لے لیں۔

اپنے گھر پر جو مریض آتے ان سے کوئی فیس نہ تھی جو کسی گاؤں میں لے جائے تو صرف آٹھ آنے فیس مقرر تھی اور سب مریضوں کے لئے تہجد کی نماز کے بعد صحبت کی دعا کیا کرتے تھے۔ سید ہے سادے بزرگ مگر ذی علم تھے۔ ایک مرتبہ محلہ میں کچھ لوگ شب معراج کے متعلق یہ نظم پڑھ رہے تھے کہ فلک پر دھوم تھی احمد رسول اللہ آتے ہیں، یہن کفر فرمایا کہ جھونٹ خدا کی قسم جھونٹ ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں تو یہ ہے کہ جب جبرائیل امین نے آپ ﷺ کو لے کر آسمان میں داخل ہونا چاہا تو آسمانی دربانوں نے سوال کیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ جب انہوں نے نام بتایا تو دروازے کھولے گئے۔ دھوم ہوتی تو سوال کرنے کی ضرورت نہ ہوتی۔

حضرت نے ان حکیم صاحب کے بہت سے عجیب و غریب حالات و ایقاعات سنائے تھے دوسرے بزرگ ان کے بھائی مولانا رحمت اللہ کیرانوی ہیں جن کی کتاب عیسائیوں کے رد میں اظہار الحق کے نام سے عربی زبان میں شائع ہوئی۔ پھر انگریزی عربی وغیرہ دوسری زبانوں میں شائع ہوئی اور حال ہی میں اس کا اردو ترجمہ اور تحقیقی شرح دارالعلوم کراچی کی طرف سے تین جلدیوں میں شائع ہوئی۔ اس کے شروع میں مولانا کی سیرت و سوانح کا کچھ حصہ بھی مذکور ہے۔ ۴۵ء کی جگ آزادی جو ہندوستان کی زمین پر لڑی گئی اور بالآخر انگریز غالب آئے اور ہندوستان کے علماء و مشائخ کچھ انگریزوں کے مظالم کا شکار ہو کر شہید یا قید ہو گئے کچھ روپوں

ہو گئے کچھ گوشہ گنائی میں چلے گئے اور پھر انگریزوں نے یہ چاہا کہ اپنے مذہبی پادریوں کے تبلیغی مشن کے ذریعہ یہاں کے مسلمانوں کے قلوب اور ذہنوں سے اسلام کی محبت نکال دیں تاکہ وہ دل سے انگریز کی اطاعت قبول کر سکیں اس کام کے لئے شہر شہر قصبه قصبه پادریوں کی ٹولیاں گھونمند لگیں جو اسلام کے خلاف علماء اور عوام کو چیلنج کرتے تھے۔ اس وقت کے بقیہ السلف علماء میں سے چند بزرگ جو گوشہ گنائی میں تھے انہوں نے اس فتنہ کا مقابلہ کیا۔ ان حضرات میں سرفہrst حضرت مولا نارحمت اللہ کیرانوی کا نام ہے۔ عیسائیوں کے سب سے بڑے پادری فنڈر سے انہوں نے مناظرہ کیا اور برسر مجلس اس سے یہ اقرار لکھوا کر چھوڑا کہ انہیں میں تحریف ہوئی ہے۔

پھر یہی پادری مسلمانوں کے مرکز خلافت قحطانیہ پہنچا اور وہاں چیلنج کیا۔ یہ زمانہ سلطان عبدالعزیز خاں کی حکومت کا تھا مگر سلطان عبدالحمید خاں سابق خلیفہ بھی موجود تھے تو سلطان عبدالحمید خاں نے اس کے جواب کے لئے مولا نارحمت اللہ کیرانوی کو دعوت دی۔ اور پھر مولا نے عیسائی مذہب کی پوری حقیقت کھولنے کے لئے اپنی بینظیر کتاب اظہار الحق تصنیف فرمائی جس کے متعلق عیسائی پادریوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ کتاب شائع ہوتی رہی تو دنیا میں عیسائیت کو فروع نہیں ہو سکتا۔

اُنکے تذکرہ میں حضرتؒ نے فرمایا کہ قحطانیہ کے بعد مولا نارحمت اللہ صاحب مکہ معظمہ پہنچے (مجھے یاد پڑتا ہے کہ مولا نارحمت اللہ مکہ معظمہ سے قحطانیہ بلائے گئے تھے جب سلطانی علماء نے کتاب اظہار الحق دیکھی تو ان کو معلوم ہوا کہ اس کا مصنف مکہ معظمہ میں ہے تب سلطان نے بلا یا اور پادری فنڈر مولا نا کا آنا معلوم کرتے ہی وہاں سے چلا گیا) وہاں کچھ قیام ہوا تو دیکھا کہ عرب لوگ ہندیوں کی تلاوت وغیرہ پڑھنے لیے۔ محبت قومی کا تقاضا سے وہاں ایک مدرسہ حوصلتیہ کے نام سے قائم کیا اور ایک مصری قاری جن کو سلطان عبدالحمید خاں کی آمد کے وقت پانچ سو قاریوں میں سے انتخاب کیا گیا تھا ان کو قرأت و تجوید کے لئے مدرس رکھا اور چند ہندی طلباء ان

کے پرد کئے جن کو وہ تجوید و قرأت سکھلائیں۔ ان طلباء میں جو اپنی جگہ قائم رہے اور کامیاب ہوئے ان میں قاری عبد اللہ صاحب متاز تھے۔ ان کی محنت اور سعادتمندی دیکھ کر مصری قاری نے بڑی توجہ کے ساتھ ان کو پورا فن سکھلایا۔ یہاں تک کہ بعض لوگوں نے ان کے استاد مصری سے پوچھا کہ قاری عبد اللہ تمام ہندیوں میں بہتر ہیں تو فرمایا کہ نہیں بلکہ تمام عرب میں بہتر ہیں۔

حضرتؐ نے فرمایا کہ میں جب مکہ معظمه دوسری مرتبہ حاضر ہوا تو خیال ہوا کہ اب کچھ عرصہ یہاں (حاجی صاحبؒ کی خدمت میں) قیام رہے گا اسوقت تک تجوید قرآن کی مشق کسی سے کروں اتفاقاً ایک روز حضرت حاجی صاحبؒ نے بہت سے علماء اور قراء کی دعوت کی اور دعوت میں سب قرآنے قرآن مجید بھی سنایا۔ مجھے ان سب میں قاری عبد اللہ صاحبؒ کی قرأت زیادہ پسند آئی کیونکہ اس میں تصنیع نہ تھا۔ میں نے ان سے مشق کرنے کی درخواست کی اور کام شروع کر دیا۔ اور محمد اللہ اس میں ایسی صورت ہو گئی کہ بالآخر نہ پڑھ رہا ہوں یا قاری صاحبؒ سے مشق کرتا تھا تو یخچے سننے والوں کو یہ امتیاز مشکل ہوتا تھا کہ میں پڑھ رہا ہوں یا قاری صاحبؒ۔ لیکن قاری صاحبؒ فرماتے تھے کہ ہندوستان کی آب و ہوا کا یہ اثر ہے مگر یہ کیفیت وہاں پہنچنے کے بعد باقی نہ رہے گی۔ البتہ اگر پاؤ پارہ روزانہ علیحدہ بیٹھ کر اسی طرح تلاوت کرنے کا معمول بنالو تو یہ کیفیت باقی رہ سکے گی۔ حضرتؐ نے فرمایا کہ مجھے اس کا التزام نہ ہو سکا۔ مولانا رحمت اللہ کیرانوی نے تذکرہ میں حضرتؐ نے فرمایا کہ شروع میں حضرت حاجی صاحبؒ کے معتقد نہ تھے بلکہ صوفیوں پر مناظرانہ تنقید فرمایا کرتے تھے اور حضرت حاجی صاحبؒ کے ساتھ مناظرانہ مکالمہ ہوتا تھا۔

ایک مرتبہ حضرت حاجی صاحبؒ سے فرمایا کہ آپ تو اپنے کو جنید بغدادی سمجھتے ہیں حضرت حاجی صاحبؒ نے فرمایا کہ ہاں مجھے یہ حق ہے کہ میں آپ کو کہوں کر آپ اپنے آپ کو بوعلی سینا سمجھتے ہیں مگر دلیل کسی کے پاس نہیں۔

حضرت حاجی صاحبؒ نے فرمایا کہ اصل چیز مدارس دینیہ ہیں۔ مولانا نے فرمایا کہ ساری مساجد ڈھا کر مدرسے بنادو۔ پھر مولانا نے فرمایا کہ تسبیح گھمانے سے کیا ہوتا ہے حضرتؐ نے فرمایا

کہ تسبیح سے یہ ہوتا ہے کہ آپ جیسے سینکڑوں میرے قدموں میں آ کر گرے کبھی مجھے جیسا بھی آپ کے پاس آیا ہے انہی کلامہ (۵ رمضان المبارک ۱۳۲۹ھ)۔

حضرتؐ نے فرمایا تھا کہ ابتداء میں مولا نا رحمت اللہ حضرت حاجی صاحبؒ کے معتقد نہ تھے اس سے معلوم ہوا کہ بعد میں یہ حالات نہیں رہے تھے۔ واللہ اعلم

ادھار کی وجہ سے قیمت میں زیادتی سود کے مشابہ ہونیکی وجہ سے مکروہ اور

خلاف مردود ہے

احقر نے سوال کیا کہ بہت سی کمپنیاں نقداً اور ادھار کی قیمتوں میں فرق کرتی ہیں کہ نقداً ایک سو روپیہ میں ہوتا اور ادھار ایک سو روپیہ میں دیتے ہیں۔ یہ بظاہر ایک حیلہ سود کھانے کا ہے اس پر ارشاد فرمایا کہ فتویٰ تو جواز ہی کا دینا چاہیے (قلت کمانی الحدایہ) مگر یہ کہہ دیا جائے کہ تجہ بالمربا کی وجہ سے مکروہ ہے۔ دوسرے مردود کے خلاف ہے۔

بزرگوں کی صحبت دنیا داروں کی نظر میں

حضرت مولانا محمد یعقوب صاحبؒ نے حکایت نقل فرمائی کہ حکیم ضیاء الدین صاحب جو رامپور کے رئیس تھے جب وہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب قدس سرہ کی خدمت میں تھا نہ بھوان آنے لگے تو گاؤں والوں نے ان کے والد صاحب سے کہا کہ ابھی تمہارے لڑکے کا بڑا افسوس ہے کہ اچھا خاصا ہو کر بگزگیا۔ ابھی بری صحبت کا براہی اثر ہوتا ہے۔

ایک عالم پر عتاب کے وقت معاملہ میں عدل و اعتدال

۵ رمضان المبارک ۱۳۲۹ھ کا واقعہ ہے کہ ایک عالم جو آج کل بڑے مشہور اور مقدس عالم مانے جاتے ہیں اس وقت حضرتؐ کا ان پر کسی وجہ سے عتاب تھا۔ وہ اس زمانہ میں حج کو گئے واپس آ کر تبرکات حج کھجوریں اور زمزم حضرتؐ کی خدمت میں بھیجے۔ تو حضرتؐ نے فرمایا کہ یہ ہدیہ دو جنتیں ہے ایک آپ کا ہدیہ ہونے کی حیثیت سے دوسرے مکہ مدینہ کا تبرک ہونا۔ دوسری حیثیت

سے واپس کرنا بے ادبی ہے اس لئے میں میں صورت اختیار کرتا ہوں ایک زمزی اور چند کھجوریں رکھ کر باقی واپس کر دیں۔

حضرت ابراہیم بن ادھم

جب ترک سلطنت کر کے گوشہ نشین ہو گئے تو وزراء اور اركان دولت کا ایک وفد ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آپ نے سلطنت کیوں ترک فرمادی؟ ہم سب آپ کے فرمانبردار ہیں۔ فرمایا کہ میرے قلب پر ایک فکر محیط ہے اور فکر کی حالت میں سلطنت کے کام انجام دینا مشکل ہیں۔ ان حضرات نے عرض کیا کہ فرمائیے کیا فکر ہے ہم اس فکر میں آپ کی مدد کریں گے فرمایا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے فریق فی الجنۃ و فریق فی السعیر یعنی آخرت میں انسانوں کا ایک فریق جنت میں اور دوسرا جنم میں ہو گا۔ اور حدیث میں ہے کہ قیامت کے روز حق تعالیٰ پوری مخلوق کو مٹھی میں بھریں گے دھنی مٹھی والے جنت میں اور باسیں مٹھی والے دوزخ میں جائیں گے۔

اب مجھے یہ فکر درپیش ہے کہ میں ان دونوں فریق میں اور دونوں مٹھیوں میں سے کس میں ہوں گا۔ اس غم و فکر نے مجھے انتظام سلطنت کے قابل نہیں چھوڑا۔ حقیقت یہ ہے کہ جب فکر آخرت سوار ہو جائے تو اس کو تعلقات رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔

خود چہ جائے جنگ و جدل نیک و بد
کیس دلم از صلحجا هم مے امد

شہرت کی طلب بڑا فتنہ ہے

ارشاد فرمایا کہ جامع صغیر میں ایک حدیث مرفوع نظر سے گزری کہ عالم کے لئے یہ بہت بڑا فتنہ ہے کہ وہ اس کی خواہش رکھے کہ لوگ اس کے پاس آ کر بیٹھا کریں۔

تربیت سالکین میں ایک عجیب طریقہ

ارشاد فرمایا کہ میں بعض لوگوں سے ناراض تھا ان کو یہ مشورہ دیا کہ تم کسی اور سے بیعت

ہو جاؤ میں راضی ہو جاؤ گا۔ بعض لوگوں نے ایسا کر بھی لیا اور میں واقعی ان سے راضی ہو گیا۔

حب جاہ مقبولیت عند اللہ سے بہت بڑا منع ہے

حضرت گنگوہیؒ نے ایک شیخ اور مرید کی دعایت سنائی کہ مرید بہت عبادت و ریاضت کرتا تھا مگر کچھ اثر نہ ہوتا تھا۔ شیخ نے بہت سے وظائف تبدیل کئے اور تدبیر میں اختیار کیں لیکن اس کے باطنی حالات درست ہوتے نظر نہ آئے۔ پھر ایک تدبیر کی جو جاہ اور ظاہری عزت کے خلاف تھی وہ یہ کام نہ کر سکا اس وقت معلوم ہوا کہ یہ طالب جاہ تھا یہی طلب جاہ اس کے راستے کا نگر گراں بن گئی تھی۔

بزرگانِ دین نے حب جاہ کے علاج کے لئے اپنے نفس کے خلاف بڑے بڑے مجاهدے کئے ہیں۔ حضرتؐ نے فرمایا کہ جاہ کی تحصیل اس قدر کہ لوگوں کے ظلم سے فیجائے جائز ہے مگر مقصود یعنی نہیں اور اس درجہ سے زائد ہو تو دین کے لئے مضر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث میں یہ دعا سکھائی گئی ہے اللهم اجعلنی فی عینی صفیرو و فی اعین الناس کبیر العین یا اللہ مجھے میری نظروں میں حقیر اور لوگوں کی نظروں میں بڑا بنادے تو یہ دعا طلب جاہ کی دعا ہے مگر حدیث میں صرف دعا پر اکتفا کیا گیا ہے اسکی تحصیل کے لئے کوئی تدبیر نہیں بتائی گئی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جاہ دراصل محض خداداد ہوتا ہے تدبیروں سے حاصل نہیں ہوتا۔

حضرت گنگوہیؒ کی قسم

حضرتؐ نے ایک مکتوب میں بحلف یہ لکھا ہے کہ میں کچھ نہیں اس پر بعض علماء کو یہ شبہ ہو گیا کہ یہ حلف کیسے درست ہوا۔ بات یہ ہے کہ حضرتؐ نے کمالات متوقعہ کے اعتبار سے حلف فرمایا اور ہم آپ کو کمال واقعہ کے اعتبار سے بزرگ سمجھتے ہیں مگر حضرتؐ کے سامنے چونکہ کمالات متوقعہ مطلوبہ تھے جن کا درجہ بہت بلند ہے۔ اتنے بالقابل کمالات واقعہ حاصلہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے۔

لوگوں کے ساتھ معاملات میں درجات کا تفاصل

ارشاد فرمایا کہ میں ایک مدت تک اس میں بنتا رہا کہ سب دوستوں کے ساتھ معاملہ میں مساوات کروں عرصہ تک ایسا کیا بھی مگر اس میں تکلیف بھی ہوئی اور پھر یہ بھی سمجھ میں آیا کہ ایسا کرنا تو سنت کے خلاف ہے کیونکہ حضور ﷺ کا جو معاملہ شیخین کے ساتھ تھا وہ رسول کے ساتھ نہیں تھا۔ مجلس میں بھی ایسے امور پیش آتے تھے جن سے ان کا امتیاز ظاہر ہوتا تھا۔ اس وقت سے اب اس میں کاوش نہیں کرتا وقت پر جیسا برتاو جس سے کرنے کو جی چاہتا ہے کر لیتا ہو۔

مدرسہ خانقاہ کے چندہ میں مالداروں سے استغنا

فرمایا کہ ہمارے مدرسہ کے لئے ایک صاحب نے چار ہزار روپے بھیج دیئے اور یہ شرط لگائی کہ رجسٹر کے سامنے تصدیق کر دی جائے میں نے یہ شرط نام منظور کر کے رقم واپس کر دی۔ کسی مناسبت سے اشعار ذیل پڑھے سابق یاد نہیں رہا۔ مگر اشعار سالمین طریق کے لئے سبق آموز ہیں ۔

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| اے بادشہ خوبیں دادا ز از غم تہائی | دل بی تو بجان آمد وقت است کہ باز آتی |
| اے درد تو ام درمان بر بستر نا کامی | ولے یا تو دام مونس در گوشہ تہائی |
| فکر خود در رائے خود در عالم رندی نیست | کفر است درین مذہب خود بینی و خود رائی |

جماعت دیوبند میں حضرت گنگوہی کا مقام

فرمایا کہ حضرت حاجی صاحب مولانا گنگوہی کا بہت ادب کرتے تھے اسی طرح علماء دیوبند کا سارا مجمع حضرت گنگوہی کا ادب و تعظیم سب سے زیادہ کرتے تھے۔ مولانا محمد یعقوب اگرچہ حضرت گنگوہی کے مرشدزادہ ہونے کی وجہ سے ایک مندویت کی حیثیت رکھتے تھے مگر وہ بھی حضرت کا بہت ادب کرتے تھے اور حقیقت یہ ہے کہ یہ حضرات جب کسی مجلس میں جمع ہوتے تھے تو ہر ایک دوسرے کو آگے بڑھانے اور تعظیم و اکرام میں لگا ہوتا تھا۔ ابھی آدمی کو یہ پہنچانا مشکل ہوتا

تحاکہ ان میں بڑا کون ہے۔

ارشاد

فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت حاجی صاحبؒ نے ارادہ فرمایا کہ اپنی سب کتابیں مجھے عطا فرمادیں۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت کتابیں لیکر کیا کروں گا مجھے تو اپنے سینہ مبارک سے کچھ عطا فرمائیے۔ حضرت میری اس عرض سے بہت محظوظ ہوئے۔

ارشاد

فرمایا کہ حضرت حاجی صاحبؒ کی خدمت میں میرا قیام صرف چھ ماہ رہا حضرت نے اتنے عرصے کے لئے فرمایا تھا میں کچھ زیادہ قیام کرتا مگر اس لئے نہ کیا کہ حضرتؒ کی عنائیں اور شفقت مجھ پر بہت تھیں جن کا اظہار بھی مختلف موقعہ میں ہوتا رہتا تھا۔ بعض لوگوں کو حسد ہوتا تھا اور وہ میری شکایتیں حضرتؒ سے کرتے تھے مگر حضرتؒ نے کبھی کسی شکایت کو قابل اعتناء نہیں سمجھا۔

ارشاد

فرمایا کہ رمضان المبارک میں تو یہ جی چاہتا ہے کہ وہی عبادتیں زیادہ کی جائیں جو منصوص ہیں۔ صوفیاء کرام کی مجتهد فیہا عبادات خاص قسم کے ذکر شغل وغیرہ کو جی نہیں چاہتا۔

ارشاد

فرمایا کہ میں نے بہت سے درویشوں سے سنا ہے کہ بزرگوں کے نام کے شجرے تو لوگوں نے بہت لکھے ہیں لیکن کوئی شجرہ حضرت حاجی صاحبؒ کے شجرہ سے بہتر نہیں۔ اس میں خاص درد ہے اگرچہ شاعری کے اعتبار سے بلند پایہ نہ ہو۔

الہام کسی بزرگ کا کسی کے حق میں قطعی نہیں ہوتا

یہاں تک کہ جس شخص کو الہام ہو خود اس پر بھی انکا اتباع واجب شرعی نہیں ہے جس کے خلاف کرنے سے گناہ ہو۔ البتہ اپنے الہام کی مخالفت کرنے سے بعض اوقات دنیا میں کوئی تکلیف

پہنچ جاتی ہے۔

ایک بزرگ ایک شہر میں تشریف لائے تو ایک بزرگ جو اسی شہر میں رہتے تھے انہوں نے ارادہ کیا کہ آنے والے بزرگ کی زیارت کے لئے جائیں۔ الہام ہوا کہ مت جاؤ تو بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر ارادہ ہوا تو پھر یہی الہام ہوا کہ مت جاؤ۔ پھر بیٹھ گئے تو تیسرا مرتبہ پھر داعیہ پیدا ہوا۔ اسے تو دو چار قدم چلے تھے کہ ٹھوکر کھا کر گرے اور ناگ ٹوٹ گئی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ یہ آنے والے بزرگ بدعتات میں بتلا تھے ان کے وہاں جانے سے عام مسلمانوں کو ضرر پہنچتا۔ اپنے الہام کی مخالفت سے اس طرح کی تکلیف تو پہنچ جاتی ہے مگر آخرت میں کوئی عذاب نہیں ہوتا۔ اور فرمایا کہ یہ حال اجتہادی غلطی کا ہے کہ اس پر عتاب نہیں ہوتا، مگر دنیا میں بعض اوقات تکلیف پہنچ جاتی ہے۔

مزارات اولیاء سے استفادہ

ارشاد فرمایا کہ قبور اولیاء سے یہ فیض ہو سکتا ہے کہ نسبت قوی ہو جائے۔ تعلیم سلوک کا فیض قبور سے نہیں ہوتا۔ الحقر نے سوال کیا کہ مزارات سے استفادہ کی کوئی خاص صورت ہے تو فرمایا کہ صرف یہ کہ فاتحہ وغیرہ پڑھ کر صاحب قبر کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھ جائے اس سے نسبت کی تقویت ہوتی ہے۔ یہ تقویت نسبت بعض لوگوں کو تو پوری طرح معلوم و محسوس ہوتی ہے ورنہ کم از کم اتنی بات محسوس ہوتی ہے کہ کوئی نئی کیفیت قلب میں پیدا ہوتی۔ مگر اس میں زیادہ کاوش نہ کرنا چاہیے کیونکہ بعض حضرات اکابر کا مقولہ ہے کہ ”روبا درہ زندہ بہ کہ شیر مردہ“ یعنی مرے ہوئے شیر سے زندہ لومڑی بہتر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ زندہ پیر اگر چہ ناقص ہو، کامل شیخ مردہ سے اسکے حق میں زیادہ مفید ہے کیونکہ وہ تعلیم کرتا ہے اور تعلیم سے بعض اوقات نسبت قوی پیدا ہو جاتی ہے۔ دوسرے یہ کہ مزارات سے حاصل شدہ فیوض و کیفیات پائیدار نہیں ہوتیں۔ مفارقت کے بعد گھٹ جاتی ہیں اور فرمایا کہ مسئلہ سماع موتی میں فقہاء کا اختلاف ہے مگر اہل کشف سماع کے وجود پر متفق ہیں۔

سلب نسبت کی حقیقت

کسی نے سوال کیا کہ یہ جو مشہور ہے کہ بعض مشارخ نے دوسرے کی نسبت سلب کر لی، اسکی حقیقت کیا ہے تو فرمایا کہ نسبت حقیقیہ تعلق مع اللہ کا نام ہے اس کو کون سلب کر سکتا ہے البتہ ایک نسبت عوام کی اصطلاح ہے اس کو سلب کیا جاسکتا ہے۔ یہ کیفیت نشاط و انبساط ہوتی ہے جو ذکر اللہ اور عبادت کی کثرت میں معین ہوتی ہے۔ یہ کیفیت نفسانی ہے روحانی نہیں۔ جیسے حزن و نشاط وغیرہ اسکے سلب کرنے سے فی نفس تو کوئی ضرر نہیں مگر اس سے سہولت اعمال مسلوب ہو جاتی ہے اگر کوئی شخص سہولت نہ ہونے کے باوجود مشقت اٹھا کر سب کام پورے کرتا رہے تو اسکو کوئی ضرر دیتی نہیں۔ ہاں جو مقام دن کر سکے اور سہولت مسلوب ہو جانے کے بعد اعمال میں کمی کر دے تو یہ دینی ضرر بھی ہے۔ اس لئے ناجائز ہے۔ ہاں خود سالم کا اپنی ضرورت کے لئے ایسا کرنے میں مفہماً نہیں۔ جیسا کہ بعض بزرگوں کے واقعات سے ثابت ہے کہ جو شخص ذکر شغل میں لگ کر حقوق العباد کے فریضہ میں کوتاہی کرنے لگا اسکی یہ نسبت انبساط سلب کر لی تو وہ پھر سب حقوق ادا کرنے لگے۔

نسبت ولایت کی تعریف

فرمایا کہ اصطلاح صوفیہ میں جس کو نسبت کہا جاتا ہے وہ اس تعلق مع اللہ کا نام ہے جس کے لوازم میں سے دو چیزیں ہیں ایک دوام طاعت، دوسرے کثرت ذکر۔ ذکر کے ساتھ دوام اس لئے نہیں کہ وہ انسان کے اس میں نہیں۔ البتہ طاعت یعنی اطاعت احکام اس پر دوام انسان سے ہو سکتا ہے اور فرمایا کہ ولی سے معصیت کا صدور ہو سکتا ہے مگر صدور معصیت کے ساتھ بھی یہ نسبت خاصہ باتی نہیں رہتی، البتہ توبہ کرنے سے پھر عود کر آتی ہے۔

آیت ربنا لاتؤاخذنا ان نسيينا پر شبہ اور جواب

فرمایا کہ حدیث میں ارشاد ہے کہ رفع عن امتی الخطاء والنسیان یعنی میری امت

سے خطا اور نیان اٹھائے گئے ہیں۔ یعنی خطا اور نیان میں کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ آیت مذکورہ میں خطا اور نیان پر موافذہ نہ کرنے کی دعا پر یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ کے بیان کے مطابق خطا اور نیان کا گناہ معاف ہو چکا تو پھر اس دعا کی کیا ضرورت ہے؟ مولانا رومیؒ نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ اگرچہ خطا اور نیان کا گناہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے معاف فرمادیا مگر دراصل وہ فعل موافذہ ہے کیونکہ اس سے بچنا ایک حیثیت سے اختیار میں داخل ہے یعنی اس سے بچنے کے اسباب اختیار یہ میں کوتا ہی نہ کرے۔

ایک اہم وصیت

ارشاد فرمایا کہ میری یہ وصیت ہے کہ بزرگوں کے نظم و کلام سے کسی مسئلہ پر استدلال کرنا ہرگز مناسب نہیں۔ کیونکہ شعر میں اکثر معانی الفاظ میں تابع ہو جاتے ہیں۔ پہلے سے جو مسئلہ معلوم تھا اس پر اسکو منطبق کر لینا تو درست ہے لیکن اس سے کوئی مستقل مسئلہ نکالنا درست نہیں۔ مولانا رومیؒ نے فرمایا ہے

معنی اندر شعر جزء باخط نیست
چوں غلامگست اور اضبط نیست

حضرت شاہ احق صاحب دہلویؒ اور انکے بھائی شاہ یعقوبؒ

ان کی عادت تھی کہ جوان کو کسی سفارش کرنے کے لئے کہتا تو فوراً سفارش کر دیتے تھے اور انکے بھائی شاہ یعقوب کسی کی سفارش نہ کرتے تھے۔ شاہ احق صاحب پر خلق خدا کی نفع رسانی کا غلبہ تھا اور شاہ یعقوب یہ کہتے تھے کہ سفارش کرنا بیکث متحب ہے مگر میں دیکھتا ہوں کہ جس سے سفارش کی جاتی ہے بسا اوقات اس کو تکلیف ہوتی ہے اور مومن کو تکلیف وایدا سے بچانا واجب ہے اس لئے میں بمقابلہ واجب متحب کی فکر نہیں کرتا۔

حضرت شاہ احق صاحبؒ سے ایک صاحب ملنے آئے، اور آپ سے ایک ایسے شخص کے پاس سفارش کرنے کی درخواست کی جو شاہ صاحب کا مخالف تھا۔ شاہ صاحب نے فوراً سفارش لکھ دی۔ جب وہ شخص شاہ صاحب کا خط لیکر اس کے پہنچا تو اس گستاخ نے اس خط کو موز کر ایک بتی

سی بنا دی، اور کہا کہ لے جاؤ شاہ صاحب سے کہو کہ اس کو اپنی فلاں جگہ میں رکھ لو (گالی دی) یہ شخص بھی عجیب تھا۔ یہ سید ہاشم صاحب کے پاس واپس آیا اور جو الفاظ اس نے کہے تھے وہ نقل کر دیئے۔ شاہ الحق صاحب نے فرمایا کہ اگر میں جانتا کہ میرے اس عمل سے تیرا کام ہو جائے گا تو میں اس میں بھی تأمل نہ کرتا۔ مگر میں جانتا ہوں کہ یہ ایک لغور کرت ہے یہ شخص یہاں سے پھر اس شخص کے پاس پہنچا اور شاہ صاحب کا قول اس کو سنادیا۔ اب تو اس شخص پر وجود طاری ہو گیا اور فوراً حضرت شاہ صاحبؒ کی خدمت میں حاضر ہو کر معافی مانگ لی اور مرید ہو گیا۔

حضرت مولانا محمد اسماعیل شہید نواب محمود علی صاحب کے پاس ہرسال جاتے تھے اور لوگوں کی سفارشیں ایک بیاض میں لکھتے رہتے تھے۔ جب ملنا ہوتا تو یہ لمبی فہرست سفارشوں کی نادیتے۔ اکثر کونواب سے پوری کرتے اور بعض سے عذر کر دیتے۔ مگر یہ سلسلہ اتنا دراز ہوا کہ ایک مرتبہ نواب صاحبؒ کو یہ کہنا پڑا کہ حضرت آپ اتنی زیادہ سفارشیں نہ لایا کہیں مولانا نے فرمایا کہ ٹھیک ہے مگر پھر مجھے حاضری سے بھی معدود رسم بھیں۔ میری تو حاضری کی وجہ بھی یہ ہے کہ آپ کو لوگوں کے حالات و حاجات کی اطلاع دیوں۔ اگر اسی سے گرانی ہے تو میں حاضری سے معدود ہوں۔ البتہ یہ میں نہیں کہتا کہ سب سفارشیں پوری ہی کرو میرا کام پہنچا دینا ہے آگے آپ کا کام ہے۔

نتیجہ:- احقر جامع کہتا ہے کہ حدیث شریف میں رسول اللہ ﷺ نے سفارش کرنے کی فضیلت بیان فرمائی ہے اور اس کے ذریعہ بے وسیلہ لوگوں کی بات بڑوں تک پہنچ جانے کا فائدہ بھی ہے مگر ساتھ ہی یہ بھی ضروری ہے کہ جس سے سفارش کی جائے اس کو ایذا نہ پہنچے۔ اس کو اپنے اثر سے سفارش قبول کرنے پر مجبور نہ کیا جائے۔ بلکہ اپنے قول و عمل سے بتا دیا جائے کہ سفارش قبول نہ ہوئی تو بھی مجھے کوئی گرانی نہیں ہوگی۔ ایسی سفارش تو مستحب ہے اور جس میں دوسرے شخص کے اختیار کو اپنے اثر و سوخ سے سلب کیا جائے یہ ناجائز ہے (یہ تشریع بھی حضرتؐ سے ہی سنی ہوئی ہے)۔

مہمانداری کا عجیب اصول

حضرت مولانا محمد قاسم نانو تویی مالدار مہمانوں کو معمولی کھانا اور غرباء کو عمدہ کھانا کھاتے تھے کسی نے وجہ پوچھی تو فرمایا کہ بھائی مہمان کو ایسا کھانا کھانا چاہیے جو عموماً وہ نکھاتا ہو۔

بزرگانِ دین کا حلم و کرم

ایک بزرگ کو ایک شخص گالیاں دیا کرتا تھا اور وہ اسکے پاس ہدایا بھیجتے تھے پھر اس نے گالیاں دینی چھوڑ دیں۔ تو انہوں نے بھی ہدایا بھیجنے چھوڑ دیئے۔ اس نے سبب پوچھا تو فرمایا بھائی یہ تو لین دین کا معاملہ ہے۔ پہلے تم ایک چیز ہمیں دیتے تھے اس کے بدلہ میں ایک چیز ہم تمھیں دیتے تھے۔ اب تم نے وہ دینی چھوڑ دی تو ہم نے بھی چھوڑ دی۔

حضرت مرزا مظہر جان جاناںؒ کی گوشہ گیری کا سبب

کسی نے ان سے عرض کیا کہ آپ لوگوں سے کیوں نہیں ملتے، فرمایا کہ میرا مزاج نازک کو لوگوں کی ذرا سی غلط حرکت سے اذیت ہو جاتی ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ میری اذیت سے ان پر قبر الہی متوجہ ہوتا ہے۔ میں نے ہر چند دعا کی کہ میری وجہ سے کسی پرشدت و عناداب نہ ہو مگر قبول نہیں ہوئی اس لئے میں لوگوں سے علیحدہ رہتا ہوں۔

حکایت:- حضرت مولانا سید احمد صاحب دہلویؒ کے صاحبزادہ مصطفیٰ سے یہ حکایت سنی تھی کہ ایک بزرگ حلم و برداہی میں مشہور تھے۔ ایک شخص ان کا حلم آزمانے کے لئے ان کے دروازہ پر گیا اور دستک دے کر ان کو بلایا۔ وہ تشریف لائے تو اس شخص نے کہا کہ آپکی والدہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں نے سنا ہے کہ وہ ایسی ایسی حسین ہیں اور ایک شخص سراپا بیان کر دیا۔ وہ بزرگ یہ سب سنتے رہے جب ختم کر چکا تو کہا کہ بہتر ہے مگر وہ عاقلہ بالغہ ہیں اپنے معاملہ کی مختار ہیں ان سے دریافت کرلوں وہ چاہیں تو کوئی مضائقہ نہیں یہ کہہ کر گھر کی طرف بڑھے، پیچھے مزکر دیکھا تو اس شخص کا سر کٹا ہوا پڑا تھا انہوں نے دیکھا تو کہا کہ قتلہ صبری اس کو

میرے صبر قتل نے کر دیا۔

اس لئے ایک نیم مجدوب نے یہ نصیحت کی کہ جب تصحیں کوئی برا کہے تو نہ انتقام لواور نہ صبر کرو۔ مطلب یہ ہے کہ پورا انتقام نہ لواور پورا صبر بھی نہ کرو کچھ کہہ لوتا کہ وہ قبر خداوندی سے نجات ہے۔

شیخ العرب والجم مولانا دیوبندی

حضرت قدس سرہ کی تواضع اور مہمان نوازی کی ایک عجیب حکایت مولوی محمود صاحب رامپوری نے سنائی کہ ایک مرتبہ ہمارا ایک مقدمہ دیوبند میں درپیش تھا۔ اس لئے رامپور سے دیوبند آئے تو ایک بیدیہ ہندو بھی ہمارے ساتھ ہو لیا۔ اس کو بھی کوئی ایسا ہی کام دیوبند میں تھا جب شہر میں پہنچے تو بیدیہ نے کہا کہ جہا آپ لوگ تھہر و میرا بھی وہیں رہنے کا انتظام ہو جائے تو اچھا ہے۔ مولوی محمود صاحب نے فرمایا کہ تم حضرت شیخ الہند کے مکان پر مہمان ہوئے، بیدیہ کو بھی یہیں تھہر ا دیا۔ جب رات کو سب سو گئے تو میں نے دیکھا کہ مولانا شیخ الہند بیدیہ کے پاس گئے اور آہستہ آہستہ اسکے پاؤں دبانا شروع کئے، میں نے دیکھا تو عرض کیا کہ حضرت یہ کیا ہے؟ اگر یہی کرتا ہے تو اس خدمت کے لئے میں حاضر ہوں فرمایا نہیں یہ تو میرا مہمان ہے اس کا اکرام و خدمت میرے ذمہ ہے۔

چھینک لینا اور اس کا جواب

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان چھینک لے اور الحمد لله کہے تو سننے والوں پر مغل سلام کے بر حمک اللہ کہہ کہ اس کا جواب دینا واجب ہے۔ اس لئے اس میں کلام ہے کہ چھینکنے والے کو الحمد لله با آواز بلند کہنا بہتر ہے تاکہ لوگ بر حمک اللہ کہہ کر جواب دیں تو ان کو بھی ثواب ملے۔ اس کے لئے بھی دعا ہو۔ علامہ شامیؒ نے اسی کو ترجیح دی ہے حضرتؐ نے فرمایا کہ جس جگہ لوگ اپنے کاموں میں مشغول ہوں اور یہ خطرہ ہو کہ ہم نے با آواز بلند الحمد لله کہا تو ان کو جواب دینے میں تکلیف ہوگی۔ ایسی صورت میں بہتر یہ ہے کہ بلند آواز سے

الحمد لله رب العالمين

باطنی امور میں تفہم صوفیہ کا حصہ ہے

جس طرح احکام ظاہر میں اجتہاد اور تفہم کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح احکام باطنیہ میں بھی اس کی ضرورت ہے احکام ظاہر کے آئندہ اجتہاد معروف آئندہ مجتہدین اور فقہاء ہیں اور امور باطنیہ کے فقہاء صوفیہ ہیں۔ حضرت حاجی صاحبؒ نے فرمایا کہ جو مسئلہ احکام ظاہر سے متعلق ہو اور اس میں فقہاء اور صوفیہ کا اختلاف ہو جائے تو میں فقہاء کی تحقیق کو ترجیح دیتا ہوں لیکن اگر مسئلہ امور باطنیہ سے متعلق ہے تو میں اس میں صوفیہ کے قول کو اختیار کرتا ہوں کیونکہ ان امور میں ان کا تفہم زیادہ قابلِطمیمان ہے (احقر جامع کہتا ہے) کہ امام غزالیؒ نے اپنی کتاب فاتحۃ العلوم میں فرمایا ہے کہ آئندہ ارجاع اور بیشتر آئندہ فقہاء مجتہدین صرف ظاہری کے امام نہیں بلکہ تصوف اور سلوک کے اور امور باطنیہ کے بھی امام ہیں۔ حضرت حاجی صاحبؒ کا یہ ارشاد عام علماء ظاہر کے متعلق معلوم ہوتا ہے جو امور باطنیہ کے مانہنیں۔ واللہ اعلم۔

عام حیوانات اور انسان میں فرق کی ایک خاص وجہ

ارشاد فرمایا کہ جتنے حیوانات دنیا میں ہیں ان کے افراد میں قوت و استعداد کے اعتبار سے کمی بیشی ہوتی ہے۔ بعض دفعہ ایک فرد اتنا قوی ہوتا ہے کہ دو کام کر لے بعض اس سے بھی زیادہ چار چھ یا آٹھ دس فرد کا کام پورا کرے۔ ایک گھوڑا چار گھوڑوں کا کام پورا کرے یا ایک گدھا چار گدھوں کا بوجھا اٹھا لے۔ اسی طرح تمام حیوانات کے افراد میں تفاوت اور تفاصل ہر شخص جانتا ہے مگر یہ تفاوت اور تفاصل نوع انسانی میں تمام انواع سے اتنا زیادہ ہے کہ اسکی کوئی حد نہیں۔ ایک انسان سو آدمیوں کا اور دوسرا ایک انسان ہزار بلکہ لاکھ آدمیوں کا کام اکیلا انجام دے سکتا ہے حدیث میں یہ قصہ معروف ہے کہ فرشتوں نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ پورے عالم کا موازنہ کیا تو آپؐ کی ذات سب پر بھاری رہی۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کا ایک فرد سارے عالم کے برابر یا اس سے بڑھ کر بھی ہو سکتا ہے اسی لئے حضرت مولانا محمد یعقوب صاحبؒ فرمایا کرتے کہ در

حقیقت انسان ایک نوع نہیں بلکہ جنس ہے اور نوع انسان کے افراد جن کو حکماء افراد کہتے ہیں درحقیقت افراد نہیں انواع ہیں۔ گویا انسان کا ہر فرد ایک مستقل نوع ہے مگر منحصر فی فرد واحد یعنی ایسی نوع ہے کہ اس کا فرد صرف ایک ہی ہے۔

حضرت حاجی صاحبؒ کی ایک وصیت

ارشاد فرمایا کہ جب کسی معاملہ میں لوگ تم سے جھگڑا کریں تو تم رطب ویا بس سب اس کے حوالہ کر کے خود علیحدہ ہو جاؤ اور اسکی ایک مثال حضرت حاجی صاحبؒ نے بیان فرمائی کہ ایک شخص نے نئی شادی کی تھی داڑھی میں کچھ بال سفید آگئے تھے جام کے پاس جا کر کہا کہ داڑھی میں سے سفید بال چھانٹ کر کاٹ دو۔ جام نے پوری داڑھی موٹڈ کر سامنے رکھ دی کہ آپ خود چھانٹ لیں مجھے اتنی فرصت نہیں۔

حضرتؒ نے فرمایا کہ میرا عمر بھر کا یہی معمول ہے کہ کچھ مدت ہوتی کہ میں قصبه کی جامع مسجد میں ہفتہ وار وعظ کہتا تھا جس میں شادی غمی کی مرجبہ رسوم کی اصلاح پر زیادہ زور دیا لوگوں میں کچھ خلاف کا چرچا ہوا۔ میرے کافی تک بھی الفاظ پہنچے میں نے رمضان المبارک کے آخری جمعہ کے وعظ میں اختتام پر لوگوں کو نہرا کر کہا کہ میں جو کچھ کہتا ہوں محض آپ لوگوں کے نفع کے لئے ہوتا ہے۔ دینی نفع تو معاصری سے بچنا اور دنیوی نفع اسراف سے اور اس سے پیدا ہونے والے مصائب سے بچانا ہے اور وعظ کہنا میرا کوئی پیشہ نہیں۔ اگر آپ لوگ اپنے نفع کو نہیں چاہتے تو میں اعلان کرتا ہوں کہ یہ وعظ کہنا میرا کوئی پیشہ نہیں۔ کچھ یہ تو فوں نہ آئے گی۔ بہت سے رونے لگے اور پاؤں میں پڑنے لگے کہ ہمارا تو کوئی قصور نہیں۔ کچھ یہ تو فوں لوگوں نے کوئی بات کی تو ہم پر اس کی سزا کیوں جاری ہو۔ حضرتؒ نے فرمایا کہ بے شک آپ کا قصور نہیں آپ اپنے گھر بلا کرو وعظ کہلوانے میں کہوں گا۔ چنانچہ بستی میں گھر لھر بہت وعظ ہوئے اور گھروں کے اندر یہ وعظ زیادہ مفید ثابت ہوئے کیونکہ ان رسم کی پابندی کا بڑا سبب عام طور پر عورتیں ہوتی ہیں۔ گھروں میں یہ وعظ زیادہ تر عورتوں نے سنے اور میرا اصل مقصد حاصل ہو گیا۔

اور فرمایا کہ یہ خدا تعالیٰ کا فضل ہے کہ بستی کے لوگ خلاف نہیں کرتے۔ اس لئے اب تھانہ بھون میں رسم قریب معدوم ہو گئیں۔

حضرتؐ نے حضرت حاجی صاحبؒ کی وصیت اور اپنے مذکورالصدر معمول پر ایک حدیث سے بھی استدلال فرمایا کہ جو جامع صفیر میں رزین سے مرفو عاروایت کی گئی ہے کہ:-

نعم الرجل الفقيه ان احتجج اليه نفع و ان استغنى عنه اغنى نفسه۔ بہت اچھا وہ مرد فقیہ ہے کہ اگر لوگ اسکی ضرورت محسوس کریں تو ان کو نفع پہنچائے اور اگر لوگ اس سے استفادہ برٹیں تو یہ بھی ان سے استغناہ کا معاملہ کرے۔

اور فرمایا کہ اسی لئے میں نے آجکل دارالعلوم دیوبند کی سرپرستی سے بھی استغفاء دے دیا ہے مجھے جھگڑوں اور سوال و جواب میں پڑنے کی کہاں فرصت ہے اپنے بزرگوں کی طفیل سے میرا تو یہ مسلک ہے۔

کیس دلم از صلبها هم مے رد
خود چ جائی جنگ و جدل نیک و بد

ارشاد

فرمایا کہ فقد میں بطور جریان عادت اب اجتہاد ختم ہو گیا اور ضرورت بھی باقی نہیں رہی لیکن طب اور معالجات جسمانی ہوں یا روحانی دونوں میں اجتہاد کے بغیر کام نہیں چلتا۔ جو مجتہد نہ ہو اس کو علاج بھی نہ کرنا چاہیے۔

ایک آیت کی تفسیر اور شبہ کا ازالہ

آیت اولنک علیٰ هدی من ربهم واولنک هم المفلحون۔ اس میں دو چیزیں ہیں ایک بُدایت دوسرے فلاح کو بطور جزاء کے ذکر فرمایا ہے کیونکہ ان سے پہلے ایمان بالغیب اور ایمان بالرسل کے اوصاف مذکور ہیں۔ اس ایمان کی جزا کے طور پر اس میں بُدایت و فلاح کو بیان فرمایا گیا ہے۔ ان میں فلاح کا جزا یعنی عمل ہونا تو سمجھ میں آتا ہے کہ فلاح کے معنی کامیابی اور مراد پوری ہونے کے ہیں لیکن بُدایت تو راستہ دکھانے کو کہا جاتا ہے۔ کسی چیز کا راستہ

دیکھ لینا نہ کوئی مقصد ہے اور نہ جزاۓ عمل میں ہو سکتا ہے۔ اس شبہ کے ازالہ کے لئے فرمایا کہ ایک واقعہ نے جو میرے ساتھ پیش آیا اس شبہ کا جواب بہت واضح کر دیا۔

واقعہ یہ ہوا کہ ایک صاحب میراث جانیوالی گاڑی میں سوار ہونا چاہتے تھے اور غلطی سے رُز کی جانے والی گاڑی میں سوار ہو گئے۔ گاڑی چلنے کے بعد احساس ہوا۔ میں بھی رُز کی اسی گاڑی سے جارہا تھا میں نے دیکھا کہ یہ سخت بے چین ہیں اور میں اپنی جگہ مطمئن بیٹھا ہوں میں اسکو سلی بھی دینا چاہتا ہوں تو وہ التفات نہیں کرتا۔ جوں جوں گاڑی چلتی رہی اسکی پریشانی بڑھتی رہی۔ اس وقت اندازہ ہوا کہ کسی شخص کو اس کا علم یقینی ہو جاتا کہ میں منزل مقصود کی طرف صحیح راستہ پر چل رہا ہوں خود ایک بہت بڑی نعمت دراحت ہے اس لئے وہ جزاۓ عمل بھی کہلا سکتی ہے۔ اس آیت نے ایمان والوں کو اطمینان دلادیا کہ تم صحیح راستہ پر چل رہے ہو اس لئے بے فکر ہو اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو گی۔

اہل باطل کے کلام کا مطالعہ سخت مضر ہے

فرمایا کہ اہل باطل کے اقوال و افعال اور حالات میں گفتگو یا اس پر مشتمل کتابوں کا مطالعہ قلب کے لئے سخت مضر ہے۔ بضرورت مناظرہ کبھی دیکھنا پڑے تو بھی ضرورت سے تجاوز نہ ہونا چاہیے۔

ارشاد

فرمایا کہ حدیث لا تجعلوا بيوتكم قبوراً يعني اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ اس کا یہ مفہوم تو مشہور ہے کہ تلاوت قرآن اور ذکر اللہ سے خالی رہنے کو قبر بنانے سے تعبیر کر کے اسکی خرابی کا بیان ہے مگر اسکی ایک تشرع بعض نے یہ بھی کی ہے کہ اپنے گھروں کے اندر قبریں نہ بناؤ کہ گھروں سے قبرستان کا کام لینے لگو۔

وقف کے مسئلہ میں ایک فقہی اشکال اور جواب

احقر کے ایک سوال کے جواب میں فرمایا کہ نقد رقم کا وقف یا اوقاف کی حاصل شدہ نقد آمدنی وقف کے حکم میں ہے یا نہیں۔ اس میں ایک زمانے تک مجھے بہت تردد رہا کیونکہ نقودے انتفاع بغیر انکے استھلاک کے نہیں ہوتا۔ اور وقف کے لئے تابید اور بقاء عین شرط ہے اور پھر جب اس پر وقف کی تعریف صادق نہ آئی تو اس سے لازم آیا کہ یہ وقف کی ملک ہو اور واقف مر جائے تو اس کے وارثوں میں تقسیم ہو۔ مگر قاوی عالمگیری کی ایک عبارت میں یہ مسئلہ الحمد للہ حل کر دیا۔
 (عالمگیری طبع مصطفائی کتاب الوقف جلد نمبر ۳ صفحہ ۲۳۰ باب الحادی عشر فصل ثانی میں یہ عبارت مذکور ہے)

ان کان لا یمن تصحیحہ و قفا فیجوز تصحیحہا کا المسجد هبة علی المسجد۔

اگرچہ نقود کے وقف کو وقف صحیح کہنا مشکل ہے مگر اسکو اس حدیث سے صحیح کہا جاسکتا ہے۔

حضرتؐ نے فرمایا کہ میرے نزدیک ملک مسجد تعبیر ہے ایک خاص صورت کی جو وقف اور ہبہ کے میں میں اس کو ملک مسجد سے تعبیر کر دیا گیا ہے فللہ الحمد۔ بہر حال اس عبارت سے اتنا معلوم ہو گیا کہ یہ اوقاف کی نقد رقم ملک واقف سے نکل گئی ہے ورنہ انکا امانت رکھنا ہی مشکل ہو جاتا۔

ارشاد

فرمایا کہ میں لوگوں سے کام اس لئے زیادہ نہیں لیتا کہ مجھ میں احسان ماننے کا مادہ بہت زیادہ ہے۔ جس سے ذرا سا کام لیتا ہوں پھر ہر معاملہ میں اسکی رعایت منظر ہوتی ہے اور یہ رعایت اس شخص کے لئے مضر ہوتی ہے۔ البتہ جس سے بے تکلفی ہو جائے وہ مستثنی ہے۔

حضرت مولانا محمد یعقوب صاحبؓ دارالعلوم دیوبند کے پہلے صدر مدرس فرمایا کہ مولانا بڑے جامع علوم اور جامع کمالات تھے۔ ہر فن کے ماہر تھے کھانا پکانے کے زر

بیو نہنے اور سینے کا عجیب ملکہ تھا۔ موسیقی کے فن کو پورا جانتے تھے۔ مولانا کے مفہومات عجیب حکیمانہ تھے حضرت کے جتنے مفہومات مجھے یاد ہیں شاید اور کسی کو نہیں ہو نگے۔ وجہ یہ ہے کہ مجھے مولانا سے محبت و عقیدت بھی سب سے زیادہ تھی اور میری حاضری کے وقت مولانا کا دل افادہ کے لئے کھل جاتا تھا۔

”فرمایا کہ وفادارناقص اچھا ہے بے وفا کامل سے“

فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی سے چھپنا چاہے مثلاً مظلوم ہو ظالم سے بھاگے تو چاہیے کہ کسی قریب ہی جگہ پر چھپے کیونکہ دیکھنے والے عموماً قریب نہیں دیکھتے اور اسکی دلیل حضور ﷺ کا غار ثور میں چھپنا ہے۔

فرمایا کہ راز کو پوشیدہ کر کے کہنے کا طریقہ تو سب جانتے ہیں۔ ایک صورت یہ بھی ہے کہ مجمع عام میں باتوں کے درمیان رلاملا کر راز کی بات کہدے تو کسی کو اتفاقات بھی اس طرف نہ ہوگا اور جس کو سمجھانا ہے وہ کبھی جائے گا۔

ارشاد

فرمایا کہ دیوبند میں بزرگوں کا اجتماع ایک مستقل نعمت و دولت تھی جس کے فقدان کے لازمی اثرات آج کل محسوس ہو رہے ہیں۔ ورنہ مدرسہ تو بظاہر ترقی پر ہے۔ آمد و خرچ اور تعمیری ترقی کے علاوہ اہل علم کی تعداد بھی زیادہ ہو گئی ہے مگر اہل باطن بزرگوں کی کمی ہے اور کچی بات یہ ہے کہ علوم میں تبحر بھی جسمی مفید ہوتا ہے کہ جب باطنی حالات اور اخلاق و اعمال درست ہوں۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ

آپ سے کسی ملحد نے کہا کہ آپ کا عقیدہ ہے کہ کوئی آدمی اپنے وقت مقرر سے پہلے مرتا نہیں۔ فرمایا کہ ہاں کہنے لگا تو اچھا آپ ایک بلند عمارت پر چڑھ کر نیچے کو دیں۔ فرمایا کہ بلاشبہ مجھے یقین ہے کہ ایسا کرنے سے اگر میری موت کا وقت نہیں ہے تو موت نہیں آئے گی۔ لیکن ایسا کرنا گویا امتحان لینا ہے تقدیر الہی کا جو بڑی گستاخی ہے۔ اس لئے میں ایسا نہیں کر سکتا۔

زندگی مکہ کی اور موت مدینہ کی

حضرت حاجی صاحبؒ نے فرمایا کہ زندگی تو مکہ مکرمہ کی بہتر ہے (یعنی ایک کے ایک لاکھ بننے ہیں) اور موت مدینہ میں بہتر ہے کہ محشر میں رسول ﷺ کے ساتھ ہونا اور شفاعت کی قوی امید ہونا اس کا لازمی اثر ہے اور احادیث مختلفہ کو جمع کرنے کی بھی بہتر صورت یہی ہے۔

ارشاد

فرمایا کہ آزادی مطلقاً محمود نہیں بلکہ اگر شر سے آزادی ملے تو خیر ہے اور اگر خیر سے آزادی ہے تو شر ہے اور ایک شر سے آزادی بھی اسوقت خیر سمجھی جائے گی جبکہ اس سے زیادہ شر میں بتلا ہونے کا خطرہ ہو۔

صلحاء کے اجتماع کی برکات

حضرت مولانا محمد یعقوب صاحبؒ نے فرمایا کہ ہماری بزرگی کی مثال ایسی ہے کہ جیسے رڑکی گودام کے کارگروں کی کارگیری۔ رڑکی گودام کے نام سے ایک قدیم کارخانہ (بل) میں پر زے بنانے کا انگریزروں نے بنایا تھا اس میں مشینیں فتحیں ہر کارگر اپنی اپنی مشین پر کام کرتا تھا ارشاد کا حاصل یہ ہے کہ جیسے یہ کارگر جب اس کارخانہ سے باہر ہوں تو انکی کوئی کارگیری نہیں چل سکتی کیونکہ وہ مشینوں پر موقوف ہے اور وہ باہر ہیں نہیں۔

اسی طرح فرمایا کہ دارالعلوم میں بہت سے علماء و صلحاء کا مجتمع ہے جس کی برکت سے سب متاثر ہو کر ان میں نیک کاموں کی طرف رغبت اور برے کاموں سے نفرت قدرتی طور پر پیدا ہو جاتی ہے اس مجتمع سے باہر نکل کر وہ کیفیت باقی رہنا آسان نہیں۔

احقر جامع کہتا ہے کہ یہ بہت ہی اہم ارشاد ہے کیونکہ انسان کی خوبی اور خرابی سب اس کے ماحول اور گرد و پیش سے آتی ہے۔ جس کا ماحول نیک ہو اس کا نیک ہونا فطری امر ہے اسی طرح جس کا ماحول خراب ہو اس کا خراب ہونا ایک طبعی امر ہے۔ اس لئے ہر انسان کو چاہیے کہ کم از کم

اپنے گھر کے ماحول کو دینی بنانے پر پوری توجہ دے۔ آیت قرآن یا یہاں الذین امنوا
قو انفسکم و اهیں کم نارا سے بھی اسکی تائید ہوتی ہے اس آیت میں مسلمانوں کو یہ حکم ہے کہ تم
خود بھی آگ سے بچو اور اپنے اہل و عیال کو بھی آگ سے بچاؤ۔

بخل اور اسراف

فرمایا کہ لوگ بخل کو اسراف سے زیادہ برا سمجھتے ہیں اور میرا خیال یہ ہے کہ اسراف زیادہ برا
ہے۔ اس لئے کہ اسراف کے نتائج بد نسبت بخل کے بہت زیادہ ہیں دینی بھی اور دنیوی بھی یہی
وجہ ہے کہ ہم نے کسی بخیل کو مرتد ہوتے نہیں دیکھا اور بہت سے اسراف کر کے فقیر ہونے والوں کو
مرتد ہوتے دیکھا ہے۔

ایک واعظ کی دلیری

ایک واعظ کی مجلس میں امام احمد بن حنبل اور تجھی بن معین شریک تھے۔ واعظ نے بہت سی
احادیث غلط سلط امام احمد بن حنبل کے حوالہ سے بیان کیں، یہ دونوں بزرگ ایک دوسرے کو دیکھے
کر رہنے تھے کہ کیا کہہ رہا ہے۔ جب واعظ ختم ہوا تو امام احمد بن حنبل آگے بڑھے اور واعظ سے
پوچھا کہ آپ احمد بن حنبل کو جانتے ہیں؟ تو کہا ہاں جانتا ہوں پھر فرمایا کہ مجھے بھی جانتے ہو؟ کہا
نہیں امام صاحب نے فرمایا کہ میں ہی تو احمد بن حنبل ہوں واعظ نے بڑی دلیری سے کہا کہ خوب
کہا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ احمد بن حنبل ایک آپ ہی ہیں۔ معلوم نہیں کتنے آپ جیسے احمد بن حنبل دنیا
میں موجود ہیں۔

حضرت مولانا محمد قاسم نانو توکی اور امام رازی

حضرت مولانا نے تفسیر کبر امام رازی کا کوئی مقام بضرورت دیکھنے کے لئے اپنے احباب
میں کسی کو مامور فرمایا انہوں نے وہ مقام حضرت کو سنایا تو فرمایا کہ ہم سمجھتے تھے کہ امام رازی بہت
ذہین ہیں مگر اب معلوم ہوا کہ ان کا ذہن طول و عرض میں تو چلتا ہے عمق اور گہرائی میں نہیں چلتا۔

حضرتؐ نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے ہر زمانے کی ضرورت کے مطابق رجال کا رپیدا فرمائے ہیں
دوسرے وقت میں وہ بیکار ہونے لگیں تو وہ بیکار نہیں ہوتے۔

حضرت شاہ عبدالرحیم دہلوی والد ماجد حضرت شاہ ولی اللہ

یہ دونوں حضرات حضرت نظام الاولیاء کے مزار پر اکثر حاضر ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ شاہ عبدالرحیم صاحبؒ کو یہ خیال ہوا کہ میں تو یہاں کثرت سے حاضر ہوتا ہوں معلوم نہیں کہ حضرت نظام الاولیاءؒ کو ہمارے آنے کی خبر بھی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ایک روز مزار پر تشریف لے گئے اور مزار کی طرف متوجہ ہوئے تو حضرت سلطان الاولیاءؒ کی روحانیت کو مشکل موجود دیکھا کہ وہ یہ شعر نظامی کا پڑھ رہے ہیں۔

من آیم بجان گر تو ای بتن
مرا زندہ پندا رچوں خو شتن

شاہ عبدالرحیم صاحبؒ موصوف میرزاہر کے شاگرد تھے زمانہ تعلیم میں ایک روز شیخ سعدیؒ کا ایک قطعہ پڑھتے ہوئے جا رہے تھے مگر تین مصرعے یاد تھے چوتھا یاد نہ آتا تھا کہ یہاں ایک ایک بزرگ صورت آدمی سامنے آئے اور ان کا بھولا ہوا مصرعہ پڑھ دیا۔ وہ یہ تھا (علیے کرہ حق تماید جہالت ست) اور آگے چل دیئے۔ شاہ صاحبؒ نے دوڑ کر ان کا ہاتھ پکڑا اور پوچھا آپ کا اسم شریف؟ تو فرمایا کہ مصلح الدین شیرازی۔

حضرت شاہ عبدالرحیم صاحبؒ ایک مرتبہ حضرت سلطان نظام الدین اولیاء کے مزار پر مراقب تھے کہ حضرت اولیاء کی روحانیت مشکل ہو کر سامنے آئی۔ حضرت شاہ صاحبؒ نے پوچھا کہ سماع کے بارہ میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ آپ شعر کے بارہ میں کیا فرماتے ہیں؟ شاہ صاحب نے عرض کیا کہ کلام حسن و قبیح۔ یعنی شعر ایک کلام ہے جو کلام اچھا ہے وہ اچھا ہی ہے اور جو برا ہے وہ برا ہی ہے پھر فرمایا کہ خوش آوازی کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ شاہ صاحب نے فرمایا کہ یزید فی الخلق ما یشاء کی تقریر بعض حضرات نے صوت حسن (آواز خوش) سے کی ہے پھر فرمایا کہ اگر یہ دونوں جمع ہو جائیں شاہ صاحب نے عرض کیا کہ نور علی نور یہدی اللہ

لنورہ من یشاء۔ حضرت نظام الدین الاولیاء نے فرمایا کہ بس سماع کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں۔

(احقر جامع کہتا ہے) کہ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت نظام الدین الاولیاء قدس سرہ سے جو سماع ثابت ہے اس میں مزامیر نہ تھے صرف خوش آوازی سے اشعار پڑھنا تھے۔

کرامت موئشریٰ القرب نہیں

ارشاد فرمایا کہ محققین کے نزدیک کرامت کا درجہ ذکر لسانی سے بھی کم ہے کیونکہ ذکر لسانی سے اللہ تعالیٰ کا قرب بڑھتا ہے اور کرامت سے قرب میں کوئی زیادتی نہیں ہوتی۔

ذکر قلبی

ارشاد فرمایا کہ ذکر قلبی کی حقیقت سے قلب کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہونا اور دل کا دھڑکنا جس کو اکثر لوگ قلب کا جاری ہونا سمجھتے ہیں وہ محض خفغان ہے۔ حضرت شاہ عبدالرحیم دہلویؒ سے کسی نے کہا کہ میرا قلب جاری ہو گیا ہے تو فرمایا کہ ہاں بھائی ہو گیا ہو گا۔ جب چلا گیا تو فرمایا کہ اس کو خفغان ہو گیا ہے یہ اس کو ذکر قلبی سمجھتا ہے۔

(احقر جامع کہتا ہے) کہ احقر نے حضرت سے کسی دوسری مجلس میں ذکر قلبی کی ایک قسم الفاظ متحیله سے بھی سنی ہے یعنی تخلیل میں کوئی اللہ کا نام اس کے الفاظ کے ساتھ ادا کرے بغیر زبان کی حرکت کے۔

نیند سے انبیاء علیہم السلام کا وضو نہیں ٹوٹا

یہ مسئلہ تو معروف مسلم ہے۔ فرمایا کہ اس کی وجہ میری سمجھ میں یہ آئی ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی نیند مکمل غفلت کی نیند نہیں ہوتی بلکہ ایسی ہوتی ہے جیسی ہماری نعاس (اوگھ) جس میں غفلت تامہ نہیں ہوتی اور ارشاد فرمایا کہ اس تقریر سے لیلۃ التعریس والی حدیث پر جو اشكال ہے وہ بھی رفع ہو جاتا ہے۔ لیلۃ التعریس کے واقعہ میں آپ کی آنکھی صبح کے میں وقت نہ کھلی بلکہ آفتاب

چڑھنے کے بعد کھلی۔ اس پر یہ اشکال معروف ہے کہ حدیث میں تو یہ آیا ہے کہ میری آنکھ سوتی ہے قلب نہیں سوتا۔ جب قلب بیدار تھا تو نماز قضا ہو جانے کی نوبت کیونکر آئی۔ اس تقریر پر جواب یہ ہے کہ اونگھ میں اگرچہ مکمل غفلت نہیں ہوتی مگر وقت کا اندازہ نہیں رہتا۔ پھر فرمایا کہ اس تقریر سے شبہات تو اچھی طرح حل ہو جاتے ہیں مگر میں نے یہ تقریر کہیں نہیں دیکھی اس لئے اگر قواعد کے موافق ہو تو قبول کیا جائے ورنہ رد کیا جائے۔

پھر فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر اپنی سمجھ میں کوئی بات ایسی آبھی جائے جو کہ حضرات متقدین سے منقول نہ ہو تو جی چاہتا ہے کہ جہاں تک ہو سکے تلاش کر کے متقدین بزرگوں میں کسی کا قول ایسا مل جائے تو انکی طرف نسبت کی جائے۔ بیان القرآن میں اس کی میں نے بہت کوشش کی ہے۔

درع و تقویٰ میں نفس کا کوئی حظ نہیں اور عبادات میں کچھ حظ نفس بھی ہے ارشاد فرمایا کہ تجربہ شاہد ہے کہ انسان پر عبادات اتنی شاق نہیں ہوتیں جتنا تقویٰ یعنی محترمات و مکروہات سے بچنا۔ وجہ یہ ہے کہ عبادات وجودی چیزیں ہیں دیکھنے والوں کو نظر آتی ہیں خود بھی آدمی ایک کام کرتا ہوا اپنے آپ کو پاتا ہے تو اس سے ہلکا نفس ہوتا ہے بخلاف درع اور تقویٰ کے کوہ ایک عدمی چیز ہے۔ محترمات و مکروہات کے ترک کرنے کا نام تقویٰ ہے اس میں نہ کوئی کام کرنا پڑتا ہے نہ کسی کو کوئی کام نظر آتا ہے۔ (یکم محرم ۱۴۹۳ھ شنبہ)

ارشاد

فرمایا کہ چ تو یہ ہے کہ فقهاء کا مقام سب سے بڑا ہے کیونکہ وہ معانی کے خواص کو پہنچانے میں بخلاف حکماء کے کوئی نظر صرف اجسام کے خواص پر محصور ہے۔

ایک لطیفہ

حضرت شریع کا قول ہے کہ جب اپنی کوئی حاجت پیش آئے تو جوانوں سے طلب کرو وہ

دیر نہ لگا نہیں گے بوزھوں سے مانگو گے تو ملاد ہی نگے اور دیر لگا دی نگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے واقعہ سے عبرت حاصل کرو کہ جب انکے بھائیوں نے اپنی غلطی کا اعتراض کر کے معافی مانگی تو یوسف علیہ السلام نے فوراً کہہ دیا لا تشریب علیکم الیوم اور جب والد یعقوب علیہ السلام سے معافی طلب کی تو انہوں نے فرمایا کہ سوف استغفر لكم ربی۔

حضرت نے فرمایا کہ یہ بات اگر تجربہ سے ثابت کی جائے تو مفاسد نہیں مگر قرآن سے اس پر استدلال کرنا مندوش ہے کیونکہ تفسیر درمنثور میں حدیث مرفوع میں بیان کیا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے جو دعائے مغفرت کو موخر کرنے کے لئے فرمایا اس کا مقصد ملانا یاد ریلگا نہیں تھا بلکہ آخر شب کے وقت تک اس لئے موخر کرنا تھا کہ وہ وقت دعا کی قبولیت کے لئے افضل اور ارجمند لائق ہے۔

نیک فال اور بدفالي

مولانا شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے فرمایا کہ ازرو نے احادیث معتبرہ کسی چیز سے نیک فال لیتا تو جائز و درست ہے مگر بدفالي لینا درست نہیں۔ وجہ فرق یہ ہے کہ نیک فال کا حاصل زیادہ سے زیادہ یہ ہو گا کہ اپنا مقصد پورا ہونے کی رجائے اور امید قوی ہو جائے گی اور بندہ ہی اس کا مامور ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنی دعا اور تمنا کی قبولیت کی امید رکھے نیک فال اس رجائے کی تقویت ہو گئی۔ اس میں کوئی مخدود رشیعی نہیں بخلاف بدفالي کے کہ اس کا حاصل اللہ کی طرف سے مایوسی اور قطع رجائے ہے اللہ سے رجائے کا قطع کرنا حرام ہے جو چیز اس کا سبب ہے وہ بھی ناجائز ہے۔

حضرت نے فرمایا کہ قرآن مجید سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب تک شر کے لئے کوئی دلیل نہ ہو حسن ظن مامور ہے اور بدگمانی منوع ہے۔ غرض حسن ظن کے لئے دلیل کی ضرورت نہیں عدم الدلیل علی خلاف کافی ہے اور بدگمانی بغیر دلیل کے جائز نہیں۔ واقعہ انک میں قرآن کریم کا ارشاد اس پر مشاہد ہے

فلولا اذ جاء وهم الاية.

ارشاد

فرمایا کہ حضرت حاجی صاحب قدس سرہ بطور پیش گوئی کے فرمایا کرتے تھے کہ تجھے (یعنی حضرت گو) تفسیر اور تصوف سے مناسبت ہوگی۔ نقل کر کے حضرت نے حضرت کے فرمایا کہ الحمد للہ یہ کچھ نہ کچھ ہے پھر فرمایا کہ حضرت کے یہ الفاظ اگرچہ جملہ خبر یہ تھے مگر میرا خیال یہ ہے کہ حقیقت میں یہ جملہ انشائی یعنی دعاء تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت حاجی صاحبؒ کی یہ دعاء قبول فرمائی۔ پھر فرمایا کہ میں تو بزرگوں کے اخبار کو بھی انشاء سمجھتا ہوں اور لوگوں کا حال یہ ہے کہ انکے انشاءات کو بھی اخبار بناؤ لتے ہیں۔

نابالغ کے پیچھے نماز تراویح

ایک استفتاء اس مضمون کا آیا تھا کہ نابالغ کے پیچھے نماز تراویح پڑھنے میں آپ کے نزد یک قول راجح کیا ہے حضرتؐ نے فرمایا کہ میں نے شامی سے ممانعت کی ترجیح بحوالہ ہدایہ نقل کر دی۔ اور وجہ ذیل سے موجہ کر دیا۔

(۱) اول تو نابالغ کی نماز نفل ہے اور تراویح سنت موکدہ اور بناء اقوی کی اضعاف پر جائز نہیں۔

(۲) اور اگر سب کی نفل ہی مان لی جائے تو نفل بالغ کی اقوی ہے پہنست نفل نابالغ کے کیونکہ بالغ کی نفل شروع کرنے سے واجب ہو جاتی ہے نابالغ کی واجب نہیں ہوتی۔

(۳) پچھے عموماً مسائل طہارت سے ناواقف بھی ہوتے ہیں اور قسم اس لئے فاد صلوٰۃ کا امکان ہے۔

تمن کتابیں الیبلی ہیں

حضرت مولانا محمد قاسمؒ نے فرمایا کہ تمن کتابیں الیبلی ہیں قرآن مجید، بخاری شریف۔ مثنوی شریف۔

ایک غیر مقلد کی دعوت اور حضرت کی حکیمانہ تعلیم

فرمایا کہ قتوں میں ایک غیر مقلد صاحب نے میری دعوت کی، میں نے منظور کر لیا۔ اہل سنت بھائیوں نے مجھے اشارہ سے منع کیا انکو خطرہ تھا کہ یہ سب غیر مقلد ہیں اور کسی مقلد کو دعوت میں شریک نہیں کیا۔ کہیں خدا نخواستہ کوئی ایذا پہنچے مگر مجھے شبہ نہ تھا اس لئے میں نے دعوت قبول کر لی۔ جب وہاں پہنچا تو ایک شخص نے نواب صدیق حسن خان صاحب کی ایک کتاب میں ایک مضمون تقلید کے خلاف دکھلایا اور پوچھا کہ آپ کی اسکے بارے میں کیا رائے ہے؟ میں نے پوچھا کہ آپ کو نواب صاحب کے لکھے ہوئے میں کچھ تردہ ہے یا نہیں؟ وہ آدمی ہوشیار تھا میری غرض سمجھ گیا اور کہنے لگا بس تسلی ہو گئی۔ حضرت نے فرمایا کہ اسکے بعد میں نے ان سے کہا کہ میں چونکہ اب آپ کا نیک کھاؤنگا آپ کا حق میرے ذمہ ہو گیا اس لئے میں محض خیرخواہی سے ایک بات کہتا ہوں وہ یہ کہ ترک تقلید تو ایک مسئلہ ہے اسکی میں گنجائش ہے اگر آپ نیک نیتی سے کرتے ہیں تو ہمیں اس میں زیادہ کلام نہیں۔ لیکن دو چیزیں آپ کے یہاں زیادہ شدید اور یقینی معصیت ہیں ان سے بچنے کا اہتمام کیجئے۔

ایک بدگمانی دوسرے بدزبانی

بدگمانی تو یہ کہ آپ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جس مسئلہ کی کوئی دلیل حدیث کتب صحاح میں نہیں، تو اس کی کوئی دلیل ہی نہیں۔ حالانکہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ حدیث کا ان صحاح سترے میں انحراف نہیں اور صحاح سترے کی بھی سب حدیثیں صحیح نہیں۔ اور بدزبانی یہ کہ بڑے بڑے آئندہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں سب نے اپنی اس غلطی کا اقرار کیا اور توبہ کی۔

تفسیر قرآن کے متعلق ایک اہم ارشاد

فرمایا کہ میں بلا کسی ضرورت داعیہ کے یہ بھی نہیں سوچتا کہ قرآن نے جس مضمون کو جس عنوان سے تعبیر کیا ہے اس میں کیا نکتہ ہے۔ مجھے اس معاملہ میں کشاف کی بات بہت پسند ہے کہ

جس مضمون کی تعبیر کے لئے مختلف عبارتیں ہو سکتی ہوں ان میں کسی ایک کو اختیار کر لینا کافی ہے جب ترجیح بتلانے کی ضرورت نہیں۔ ایک روز مولانا محمد یعقوب صاحبؒ کیا تھا غالباً مغرب کے بعد جارہا تھا آپ نے فرمایا کہ مجھے ایک علم عطا ہوا تھا جس میں قرآن مجید کی تمام تعبیرات اور عنوانات کی حکمتیں بتائی گئی تھیں مگر وہ اب باقی نہیں رہا۔ (حضرت سے کسی دوسری مجلس میں اس کے متعلق یہ بھی سناتھا کہ یہ اتنا بڑا بھاری علم تھا کہ میری برداشت سے باہر تھا اسلئے رفع کر لیا گیا)۔

ارشاد

فرمایا کہ جب میں نے اول اول حدیث پڑھانی شروع کی تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ میں اور حضور ﷺ بالکل متبدی ہیں اور اسوقت مجھ پر علوم و معارف کے عجیب دروازے کھلتے تھے۔

حضرت مولانا محمد قاسمؒ کی عمر اور حضرت مولانا محمد یعقوب صاحبؒ کا کشف حضرت مولانا محمد قاسم صاحبؒ مرض وفات میں تھے۔ تکلیف بڑھی تو لوگ گھبرا نے لگے مولانا محمد یعقوب صاحبؒ نے فرمایا کہ گھبراو نہیں یہ دس سال اور زندہ رہیں گے۔ مگر پھر اسی مرض میں مولانا کی وفات ہو گئی۔ لوگوں کو تعجب ہوا کہ مولانا محمد یعقوب صاحبؒ کا کشف غلط ہو گیا مولانا نے فرمایا کہ کشف تو دراصل صحیح تھا مگر مجھے سمجھنے میں غلطی ہو گئی۔ وہ یہ کہ میں نے بذریعہ کشف مولانا کی عمر کے متعلق حال دریافت کرنا چاہا تو لفظ مہدی منکشف ہوا میں نے اس سے حروف کے اعداد سمجھے جو ۵۹ ہوتے ہیں۔ مولانا کی عمر اس وقت ۲۹ سال تھی اس لئے میں نے کہہ دیا کہ دس سال اور زندہ رہیں گے مگر بعد میں ثابت ہوا کہ لفظ مہدی کے حروف کے اعداد مراد نہ تھے بلکہ حضرت مہدی کی عمر مراد تھی اور انکی عمر ۲۹ سال ہو گی۔ اسی کے مطابق انکی وفات ہو گئی۔ اور فرمایا کہ میں نے یہ دعا بھی کی تھی کہ یہ بزرگ نافع خلائق ہیں۔ میری عمر میں سے کچھ حصہ ان کی عمر میں اضافہ کر دیا جائے مگر یہ دعا قبول نہ ہوئی۔

حضرت نے فرمایا کہ یہ دونوں بزرگ کوئی استاد شاگرد یا پیر مرید نہ تھے بلکہ ہم سبق ہم مکتب معاصر اور پیر بھائی تھے مگر انکا عمل اپنے معاصرین کے حق میں یہ تھا تو اپنے بڑوں کے حق

میں کیسا ہوگا۔

دارالعلوم و یوبند کی سرپرستی سے استغفاری

فرمایا کہ میں مجبور ہو کر استغفار دیتا ہوں کیونکہ لڑنے جھگڑنے کی عادت نہیں لیکن الحمد للہ ضابطہ کا تعلق قطع کر رہا ہوں رابطہ کا تعلق قطع نہیں۔ بلکہ شاید اور بڑھ جائے اور فرمایا کہ فتنہ اور اختلاف امت کے خوف کے وقت اپنے آپ کو معزول کر لینے کی سنت حضرت حسنؓ سے ثابت ہے اور رسول اللہ ﷺ سے ان کے عمل کی تقریر و تصویب بھی قول آثارت ہے باہمہ یہ توقع ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ مدرسہ اسی طرح رہے گا بزرگوں کے اخلاص و محبت کی برکات اس میں موجود ہیں۔

کعبہ را ہر دم جلی می فزود
این ز اخلاق اسات ابراہیم بود

بازیمی رواداری اور رعایت رفقاء

فرمایا کہ اب سے کچھ پہلے کا زمانہ کتنا مبارک اور بہتر تھا تجھ بوتا ہے کہ پہلے تو اپنے بڑے بھی چھوٹوں کی رعایت کرتے تھے۔ اس پر قصہ رامپور کی ایک شادی کا ذکر فرمایا جس میں دیوبند سے شیخ العرب والجم حضرت مولانا دیوبندی اور شہارپور سے حضرت مولانا خلیل احمد صاحب تھانہ بھون سے حضرت سب حضرات کو جمع کیا تھا وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ میزبانوں نے شادی کی رسوم مروجہ سے احتساب نہیں کیا۔ حضرت انہی ایام میں شادی غنی کی رسوم کے خلاف تقریریں تھانہ بھون وغیرہ میں کر رہے تھے اور بحمد اللہ نفع ہو رہا تھا۔ حضرت نے دیکھا کہ اگر میں یہاں شریک شادی ہو گیا تو ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ ساتھ ہی یہ فکر بھی تھی کہ حضرت کے اکابر حضرت دیوبندی اور شہارپوری وہاں تشریف فرماتھے۔ بڑی فکر ہوئی کیا کریں لیکن حضرت کو اپنے اکابر پر اعتماد تھا کہ وہ میرے عذر کو محسوس فرمائیں گے برانہ مانیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب نے تو یہ فرمایا کہ جب فتویٰ اور تقویٰ میں خلاف ہوتا ہے تو اکثر یہی ہوتا ہے کہ وہ (یعنی حضرت تھانوی) تقویٰ کو اختیار کرتے ہیں اور حضرت مولانا دیوبندی نے

فرمایا کہ عوام کے حالات و خیالات اور ان کے مفاسد کی اطلاع جتنی انکو ہے ہمیں نہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ اکابر نے تو اس طرح نواز اور چھوٹے لوگوں کے خطوط مناظرانہ آئے۔ اور فرمایا کہ درحقیقت یہ علم احکام نہیں علم واقعات ہے علم احکام میں تو وہی حضرات اعلم و اعلیٰ تھے مگر واقعات عوام شاید مجھے زیادہ معلوم ہیں اور اس میں کوئی فخر نہیں۔ آخر ہدہ کو ایسے واقعات معلوم ہو گئے جو سلیمان علیہ السلام کو معلوم نہ تھے اور بوجہ مومن ہونے کے میں ہدہ سے کم نہیں اور ہمارے اکابر حضرت سلیمان علیہ السلام سے افضل و اعلیٰ نہیں۔

ارشاد

فرمایا کہ حضرت گنگوہیؒ فرماتے تھے کہ مجھے احادیث میں مذہب حنفی ایسا نظر آتا ہے جیسے آفتاب۔ اور فرمایا کہ ہمارے حضرات کا طرز درس نہایت سادہ تھا۔ بہت کتابوں کے حوالے نہ دیتے تھے کتاب کامل کرتے اور آگے چلتے تھے۔

حضرت مولانا گنگوہیؒ اور حضرت نانوتویؒ

ایک روز دونوں ایک جگہ جمع تھے۔ حضرت مولانا محمد قاسم فرمانے لگے میاں ہمیں تمہاری ایک بات پر بہت رشک ہے کہ تم فقیہ بہت بڑے ہو ہمیں یہ نصیب نہیں۔ حضرت گنگوہیؒ نے فرمایا جی ہاں ہمیں چند جزئیات یاد ہو گئیں تو آپ کو رشک ہونے لگا اور آپ جو مجتہد بنے بیٹھے ہیں اس پر ہمیں کبھی رشک نہ ہوا۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی قسم کھالے کہ میں فقیہ کو دیکھوں گا تو آج کل اسکی قسم پوری نہ ہو گی۔ جبکہ مولانا گنگوہیؒ کو نہ دیکھے گا۔

عوام کو مغالطہ سے بچانے کا اہتمام

حضرت مولانا شیخ محمد تھانویؒ کی ایک بیوی پڑھ کر مع سود کے ہو گئی اور سود بھی کافی مقدار آٹھ سور و پیہ تھا مولانا نے سود لینے سے انکار فرمادیا۔ سب نجح جو ایک مولوی آدمی تھے انہوں نے مولانا سے کہا کہ درخت میں تو یہ لکھا ہے کہ لا ربوابین المسلم والحربي یعنی مسلمان اور حرbi

کافر کے درمیان سود کا معاملہ بحکم سود نہیں (تو اس کا فردیہ کو آپ کیوں رقم چھوڑتے ہیں) حضرت مولانا نے فرمایا کہ یہ مسئلہ تو مجھے بھی یاد ہے مگر میں درختار بغل میں دبائے کہاں کہاں پھروں گا۔ اوگوں میں توجہ چاہیہ ہو گا کہ شیخ محمد نے سود لیا۔

عمل میں احتمال ریاء کے سبب عمل کونہ چھوڑے

کسی بزرگ سے ایک شخص نے شکایت کی کہ فلاں آدمی ریاء کاری کے طور پر ذکر اللہ کرتا ہے۔ فرمایا کہ تم ریاء سے بھی ذکر نہیں کرتے۔ اسکا ذکر ریائی بھی قیامت میں ایک ثمنہ ما تا ہوا چہارغ ہو کر پل صراط پر رہبر ہو گا۔ حضرتؐ نے فرمایا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان بزرگ کو معلوم ہو گا کہ اس شخص کے عمل میں ریاء اور اخلاص ملے جلے ہیں ورنہ جو عمل خالص ریاء کے لئے ہواں کا کوئی نور نہیں ہو گا۔

پھر فرمایا کہ میرا مشورہ تو یہ ہے کہ کسی کام میں ریاء کا احتمال قلب میں آئے تو کام کو ہرگز نہ چھوڑے بلکہ یہ ارادہ کرے کہ کام تو میں یہ ضرور کروں گا بعد میں استغفار کرلوں گا۔

سالکین کے لئے ایک اہم نصیحت

ارشاد فرمایا کہ اچھی صورت یہ ہے کہ اگر کسی عمل میں کوتا ہی کا احتمال ہو تو اسکی تحقیق اور کاوش میں نہ پڑے بلکہ اس کو واقع سمجھ کر استغفار کرے جیسے کسی راستہ میں دلدل ہو اور یہ خیال پیدا ہو کہ شاید پاؤں خراب ہوا ہو تو راہر دکونہ چاہیے کہ اس کا مطالعہ کرنے بیٹھ جائے کہ کہاں لگا اور کیا لگا بلکہ جب کہیں پانی ملے دھوڈا لے۔ حدیث کی تعلیم ولکن سددوا و قادر بوا کا یہی خلاصہ ہے۔

تعلیم میں سہولت

فرمایا کہ میں تعلیم میں زیادہ مستحبات کا اہتمام نہیں کرتا۔ آج کل تو لوگ واجبات ہی سے بری ہو جائیں تو غنیمت ہے۔

ضیاء القلوب میں ذکر و مراقبہ وغیرہ کی شرائط کا درجہ

حضرتؐ نے فرمایا کہ میں نے ضیاء القلوب حضرت حاجی صاحبؒ سے سبقاً پڑھی ہے اس میں جتنی قیود ذکر کے لئے لکھی ہیں سب کے متعلق فرمایا کہ غیر ضروری ہیں اور بعض طبائع تو ان قیود سے مشوش ہو جاتی ہیں۔

مقصود اصلی اعمال نہیں بلکہ رضاۓ حق ہے

حضرتؐ نے فرمایا کہ لوگوں نے خلط کر رکھا ہے کہ مقصود اصلی اعمال کو سمجھ لیا ہے اور ظاہر ہے کہ اعمال میں مومن قوی اور مومن ضعیف برابر نہیں ہو سکتے اس لئے بعض آدمی غمگین ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں مقصود رضاۓ حق ہے اور اس میں قوی اور ضعیف اپنی اپنی قوت کے موافق عمل کر کے برابر ہو سکتے ہیں۔ اور اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے صحت اور قوت میں فرق ہے قوی آدمی تند رست ہو کر بڑے بڑے کام کرنے لگتا ہے اور ضعیف باوجود تند رست ہو جانے کے وہ کام نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر اس سے وہ یہ سمجھے کہ میں تند رست نہیں ہوں تو غلط ہے۔ غرض طبیب صحت کا ذمہ دار ہے قوت کا نہیں۔ اسی طرح طریق سلوک طے کرنے سے صحت روحاںی پیدا ہو جاتی ہے مگر قوت ایک فطری اور طبیعی امر ہے۔ صحت روحاںی کی حقیقت یہ ہے کہ اعمال ظاہرہ و باطنہ کو اخلاص کیسا تھے کرنے لگے۔

صوفی کی تعریف

شیخ عبدالوهاب شعرانی نے الیوقیت والجوہر میں صوفی کی تعریف عالم باعمل۔ سے کی ہے اور حقیقت یہی ہے کہ تیسیر عمل کے لئے جو تمدیریں اور طریقے اختیار کئے جاتے ہیں انہی کا نام سلوک و طریقت ہے۔

متاخرین صوفیہ کے بعض اعمال و وظائف جو سلف صالحین میں معروف نہ تھے حضرت مولانا محمد یعقوب صاحبؒ نے انکے متعلق فرمایا کہ یہ بدعت کی تعریف میں نہیں آتے۔ اسکی مثال

ایسی ہے کہ کسی نسخہ میں طبیب نے شربت بزوری لکھا اور یہ شربت اس وقت عام طور پر بازار میں ملتا تھا۔ نسخہ استعمال کرنے والوں کو کوئی تکلیف نہ تھی پھر ایک ایسا وقت آگیا کہ یہ شربت بازار میں مفقود ہو گیا تو اب کسی نے شربت بزوری کا نسخہ لکھا۔ مریض کو اس کے تمام مفردات جمع کر کے شربت بنانے کا کام کرنا پڑا۔ اب کوئی شخص اس سے یہ کہے کہ حکیم صاحب کے نسخہ میں تو صرف ایک لفظ شربت بزوری لکھا تھا یہ سارا جھگڑا جو تم نے کھڑا کیا نسخہ میں زیادتی یا بدعت ہے تو جیسا اس کا کہنا معقول نہیں اسی طرح صوفیہ کے مجوزہ خاص خاص اعمال مراقبات جو بعض باطنی امراض کا علاج ہوتے ہیں ان کا بھی یہی حال ہے۔

میرزاہد

حضرت شاہ عبدالرحیم دہلوی کے استاد ہیں اور حضرت شاہ ولی اللہ نے بھی معقولات میں اپنی سند میرزاہد سے ملائی۔ عالمگیر نے ان کو قاضی مقرر کیا تھا۔ عالمگیر ایسے شخص نہ تھے جو کسی ایسے شخص کو قاضی شرع کی جگہ بٹھا دیں جو شریعت کا ماہر نہ ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ میرزاہد کے جو اقوال علم باری وغیرہ میں بظاہر خلاف جمہور معلوم ہوتے ہیں وہ تشییہا ہیں یا کوئی اور تاویل کی جائے۔

حقہ پینے کا حکم

فرمایا کہ میرے نزدیک صاف بات یہ ہے کہ یہ ایک دواء ہے۔ جو حکم اور دواؤں کا ہے وہی اس کا ہے یعنی جائز بلا کراہت۔ مگر اس میں بدبو ہے سو مسجد میں جانے کے وقت منہ صاف کرے۔

حضرت شاہ عبدالعزیز صاحبؒ کی عالالت اور ایک ناواقف حکیم سے سابقہ

حضرت شاہ صاحبؒ اپنے چند احباب کے ساتھ سکندرہ تشریف لے گئے وہاں یہاں ہو گئے۔ میز بانوں نے ایک حکیم کو بایا۔ اس نے عجیب طرز اختیار کیا کہ حضرت شاہ صاحبؒ نے ایک حال بیان کیا تو چند دوامیں لکھ دیں پھر آگے اور کچھ بیان کیا تو اور کچھ لکھ دیں۔ اسی طرح جوں

جوں کوئی حال وہ کہتے رہے حکیم صاحب دو چار دوا میں لکھتے رہے اب نہیں ایک دفتر بن گیا۔ جب حکیم صاحب چلے گئے تو ساتھیوں نے عرض کیا کہ یہ کوئی نسخہ ہے یہ تو ایک قرابادین ہے۔ حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ نہیں ہم انہیں کا علاج کریں گے۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ شاہ صاحبؒ نے انگلی دوالی اور اچھے ہو گئے۔ حکیم صاحب کی شہرت ہو گئی۔ مقصد حضرت شاہ صاحبؒ کا یہی تھا کیونکہ یہ حکیم صاحب نیک آدمی تھے واقف زیادہ تھے نہیں اس لئے فقر فاقہ رہتا تھا انکو فائدہ پہنچ گیا۔

حضرتؒ نے فرمایا کہ جس طرح یہ حکیم ہر حال کو سن کر نئی دو تجویز کرتے تھے آج کل کے مشائخ نے روحانی علاج میں یہی طریقہ اختیار کر دیا ہے ہر مرض روحانی کے لئے وظیفہ تجویز کر رکھے ہیں عبادت میں جی نہ لگنے کا ایک وظیفہ تجویز کیا پھر اس وظیفہ میں جی نہ لگا تو اس کے لئے ایک اور وظیفہ تجویز کیا فربکم جرا۔ اور ضرورت اس کی ہے کہ مرض کے اسباب پر غور کر کے اسباب کا علاج کرے۔ آج کل کے ڈاکٹری انگریزی علاج میں بھی یہی سنتے ہیں کہ اسباب مرض پر زیادہ توجہ نہیں دیتے۔ ازالہ مرض کی دوا میں تجویز کردیتے ہیں وقتی طور پر مرض رفع ہو جاتا ہے پھر عود کرتا ہے۔

رسکی مناظرہ سے نفرت

ارشاد فرمایا کہ آج کل مجھے مناظرہ سے نفرت ہے اور طالب علمی کے زمانہ میں بہت مناظرے کرتا تھا۔ سبب یہ ہے کہ آج کل مناظروں میں تحقیقِ حق تو مقصود رہا ہی نہیں۔ صرف بات کی پیچ کرنے پر آدمی مجبور ہوتا ہے اس سے مجھے نفرت ہے۔

حضرت حاجی صاحبؒ کا ارشاد

فرمایا کہ الحمد للہ مجھے چار چیزوں میں شرح صدر ہے مشاجراتِ صحابہ، روح، مسئلہ تقدیر، مسئلہ وحدۃ الوجود۔

مرزا قادیانی اور اکابر دیوبند

مرزا قادیانی کے متعلق حضرت مولانا محمد یعقوب صاحبؒ کی رائے تو پہلے ہی سے شدید تھی اسکی کتاب براہین احمد دیکھ کر فرمایا کہ اس میں عیسائیت کی بوآتی ہے مگر حضرت گنگوہی شروع ہی میں زم تھے مرزا کی طرف سے تاویلیں کرتے تھے۔ جب اس نے بالکل ہی صراحت نبوت کا دعویٰ اور دوسرے کفریات واضح کر دیئے تو مجبور ہو کر تکفیر فرمائی۔

نیک گمانی اور بد گمانی میں اعتدال

فرمایا کہ شیخ سعدیؒ کے دو شعر اس معاملہ میں متصاد ہیں ایک گلستان میں ہے
ہر کرا جامد پار سا بینی
پار سادان و نیک مردانگار
دوسرابوستان میں ہے۔

نگہ دار دا ان شو خ در کیسہ ذر کے داند ہمہ خلق را کیسہ بر
گلستان کے شعر سے سب کے بارے میں نیک گمانی اور بوستان کے شعر سے بد گمانی کی تلقین معلوم ہوتی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ اعتقاد کے اعتبار سے تو گلستان کے شعر پر عمل چاہیے کہ جس کا ظاہر اچھا دیکھے اس کے ساتھ نیک گمان رکھے مگر معاملات میں بوستان کے شعر پر عمل کرے کہ اپنے راز اور خاص چیزیں ہر شخص کے سامنے نہ کھولے اس میں احتیاط کرے۔

ارشاد

فرمایا کہ میں نے بزرگوں کی بہت دعا میں لی ہیں۔ فرمایا کہ میں نے کبھی اللہ کا نام لینے والے بدعتی بزرگ کی بھی تو ہیں نہیں کی اور نہ برداشت و خشونت کا کیا۔

حضرت مولانا دیوبندی (شیخ الہند) کے متعلق حضرت حاجی صاحبؒ کا ارشاد جب حضرت مولانا دیوبندی حضرت حاجی صاحبؒ کی خدمت میں مکہ مظہرہ حاضر ہوئے تو حضرت نے مولانا سے کوئی سوال کیا۔ مولانا نے جواب دیا جس پر حضرت حاجی صاحبؒ نے خوش

ہو کر فرمایا کہ مولوی محمد قاسم نے تمہیں فقط مولوی ہی نہیں بنایا بلکہ فقیر بھی بنادیا ہے۔

رمضان المبارک ۱۴۴۰ھ

حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب رَجُلُنَّ مَرَادَ آبَادِي کے بعض مفہومات

حضرت شاہ عبدالعزیز صاحبؒ کے شاگرد اور بہت بڑے عالم ہونے کے ساتھ کچھ کیفیات مجد و بانہ تھیں گفتگو بھی عجیب ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ ایک جزا می آیا تھا ہم نے اسکے ساتھ کھانا کھایا وہ اتباع سنت کی برکت سے اچھا ہو گیا۔

ایک مرتبہ فرمایا کہ اجی ہم ایک مرتبہ یہاں ہوئے ہمیں ڈر ہوا کہ مرنے جائیں اور ہمیں مرنے سے بہت ڈر لگتا ہے۔ رات کو خواب میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی زیارت ہوئی انہوں نے ہمیں سینہ سے لگایا ہم اچھے ہو گئے۔

ایک اہم ہدایت

ایک مرتبہ بہت سے حفاظت و معارف کا بیان کرنے کے بعد فرمایا اور آخری بات یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے آپ کو میریض سمجھے اور علاج کرتا رہے اور استغفار کرتا رہے اور اس فکر میں نہ پڑے کہ کتنا اچھا ہوا کتنا میریض ہوں معا الجد اور استغفار کرتا رہے ساری عمر اسی طرح ختم کر دے۔

فرمایا کہ جو اس طریق (تصوف) میں داخل ہوا اور اس کو توضیح نصیب نہ ہوئی تو اسکو اس طریق سے کچھ حصہ نہیں ملا۔

ارشاد فرمایا کہ حضرت حاجی صاحبؒ نے فرمایا کہ جو چیز حب فی اللہ کی بناء پر اخلاق کے ساتھ آئے اس میں نور ہوتا ہے اس کو ضرور استعمال کرنا چاہیے۔ ایک بزرگ اپنے شیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہدیہ لانے کے لئے کچھ تھا نہیں۔ راستے میں سے خشک لکڑیوں کا ایک گٹھا باندھا اور لا کر بطور ہدیہ پیش کر دیا۔ ان بزرگ نے اسکی اتنی قدر کی کہ ان لکڑیوں کو احتیاط کے ساتھ رکھا اور وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد غسل کے لئے جو پانی گرم کیا جائے وہ اس سوختے سے

کیا جائے۔

غیر مسلموں کے ساتھ معاملہ

فرمایا کہ حیدر آباد کن کی نکال میں ایک انگریز افسر تھا اس نے مجھے نکال کی سیر پڑے اکرام کے ساتھ تفصیل سے کرتی۔ میں نے اکثر اس کا شکریہ ان الفاظ میں ادا کیا کہ آپ کے اخلاق تو ایسے اچھے ہیں جیسے مسلمانوں کے ہوتے ہیں۔

اور فرمایا کہ ایک سفر میں ایک انگریز کا ساتھ ہو گیا۔ کھانے کا وقت ہو گیا تو میں نے اپنے کھانے سے اس کی تواضع کی مگر اپنے برتن میں نہیں کھلایا الگ کر کے دے دیا۔ میں نے اس میں اسکا حق جو ارادا کیا کیونکہ قرآن میں اس شخص کو بھی وقت پڑوی قرار دیا ہے جو کسی سفر وغیرہ میں ساتھ ہو جائے۔ والصاحب بالجنب کا یہی مطلب ہے تو پڑوی ہونے کے اعتبار سے اس کا حق تھا وہ تو ادا کرو اگر اکرام و تعظیم نہیں کی۔ میرا یہی مذاق ہے کہ غیر قوموں کی تحقیر کرتا ہوں نہ تکریم و تعظیم۔

اور فرمایا میں ارشاد حدیث کے مطابق اکرام ضیف تو کرتا ہوں اکرام سیف نہیں کرتا۔ ضیف کے معنی مہمان اور سیف توارکو کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ مہمان کا بحیثیت مہمان کے اکرام کرنے کی حدیث میں تاکید ہے۔ لیکن کسی کے صاحب قوت و اقتدار ہونے کی وجہ سے اس کی تعظیم کا حکم نہیں۔

حضرت خواجہ بہاء اللہ ین نقشبندؒ کا اتباع سنت اور حسن ادب

حضرت خواجہ صاحبؒ نے جب یہ حدیث سنی کہ رسول ﷺ کے گھر میں جو کا آنا بغیر چھانے پکایا جاتا تھا تو گھر میں حکم دے دیا کہ آئندہ اسی سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ آنا چھانا نہ جائے۔ چنانچہ اس کی تعمیل کی گئی لیکن چونکہ اس کی عادت نہ تھی سب کے پیٹ میں درد اور تکلیف ہوئی تو فرمایا کہ ہم سے ایک گستاخی ہو گئی کہ ہم نے اپنے آپ کو آنحضرت ﷺ پر قیاس کر لیا۔ گویا ایک قسم دعوائے مساوات ہو گیا اس کا و بال ہم پر پڑا۔ ہم کہاں اور رسول ﷺ کہاں۔

ہمیں آپ ﷺ کے مقام سے نیچے ہی رہنا مصلحت ہے اور پھر سابق معمول کے مطابق آٹا چھان کر پکنے لگا۔

تنبیہ

مگر یہ صورت ان سنتوں کے متعلق درست ہے جو مقاصد شرعیہ میں سے نہیں ہیں جیسے آئے کا بغیر چھانے استعمال۔ اور سنن مقصودہ میں ہر مسلمان پر لازم ہے کہ آنحضرت ﷺ کے عمل کی نقل پوری اتارنے کی کوشش کرے۔ (محمد شفیع)

مولانا فیض الحسن سہار پوری

آپ سے کسی نے وہابی اور بدعتی کی تعریف پوچھی تو فرمایا کہ وہابی بے ادب با ایمان اور بدعتی با ادب بے ایمان کا نام ہے۔
کسی موقع پر اشعار ذیل پڑھے۔ موقع محل یاد نہیں رہا مگر اشعار مفید ہیں اس لئے لکھتا ہوں
(نعم ما قيل)

تاجر ما جنس درواز راہ دور آوردہ است از برائے داغ دل آتش ز طور آوردہ است
حضرت گنگوہی کے مکتوبات میں ہے۔

جملہ می میر ند بادست ہی نیست کس را ز حقیقت آگھی

خود حضرت کا ایک شعر

اندرین رہ ہر چمی آ یہ بدست حیرت اندر حیرت است

عمل تحریر کے متعلق حضرت مولانا محمد یعقوب کا ارشاد

ارشاد فرمایا کہ بچپن میں مجھے تعویذات کا بہت شوق تھا۔ ایک بیاض میں بہت سے تعویذات جمع کر کر کھے تھے جو عرصہ ہوا جلا دی۔ اور فرمایا کہ میں نے حضرت مولانا محمد یعقوب سے عرض کیا کوئی ایسا عمل بھی ہے جس سے مؤکلات مسخر ہو جائیں۔ حضرت نے فرمایا کہ ہاں ہے اور

آسان بھی ہے لیکن یہ بتاؤ کہ تم خدا بننے کے لئے پیدا ہوئے ہو یا بندہ بننے کے لئے؟ اس جملے سے آنکھیں کھل گئیں اور اس فن سے نفرت ہو گئی۔

مولوی غوث علی شاہ پانی پتی

کے متعلق فرمایا کہ ہمارے بزرگوں کی تحقیق ان کے بارہ میں یہ ہے کہ وہ صادق تو تھے کامل

نہ تھے۔

ایک اہم عمل

ارشاد فرمایا کہ الحمد للہ میں اپنی طبیعت کو عقل پر غالب نہیں آنے دیتا اور عقل کو شریعت پر غالب نہیں آنے دیتا۔

ازواج مطہرات کے لئے سال بھر کا نفقة

ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے ازدواج مطہرات کو سال بھر کا نفقة دینے کی سنت جاری فرمائی کرتے آسائی فرمادی کہ وہ بھی اتباع سنت کر سکیں ورنہ آپ کا اور آپ کے اہل و عیال کا تو کل اس قدر قوی تھا کہ اس کی حاجت نہ تھی۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے چھوٹے بچوں سے کلام کے وقت بڑے آدمی تلا کر بچوں کی طرح بولتے ہیں تاکہ انکو بولنا آسان ہو جائے۔

ارشاد

فرمایا کہ امت محمدیہ کا کمال اسی میں ہے کہ ہر شخص دوسروں کو اپنے سے بڑا سمجھے۔ اس طرح سب بڑے ہو جاتے ہیں ورنہ کوئی بھی بڑا نہیں رہتا۔

معمولاتِ سلف

ارشاد فرمایا کہ سلف صالحین کے تین معول تھے۔ نماز تلاوت، ذکر۔ متاخرین نے صرف ذکر کو تو رکھا تھا تو کوچھ بڑا دیا۔ اسی لئے ناقص رہے۔

مجالس حکیم الامت

مجالس رمضان المبارک ۱۳۵۲ھ

اختلافی مسائل میں عدل و اعتدال

فرمایا کہ کانپور میں ایک شخص نے میرے سامنے اہل بدعت کی برائی کرنا شروع کی۔ میں نے انکی طرف سے تاویلات شروع کیں جس سے وہ سمجھا کہ میں بدعتی ہوں۔ پھر اس نے غیر مقلدوں کی برائیاں بیان کرنا شروع کیں۔ میں نے انکی طرف سے تاویلات کرنا شروع کر دیں اس نے تغیری ہو کر پوچھا کہ آخر آپ کا مذہب کیا ہے؟ میں نے کہا کہ میرا مذہب یہ آیات قرآن ہیں کونو اقوامین لله شهداء بالقسط ولو على انفسکم اور لا يجر منکم شنآن قوم على ان لاتعدلوا اعدلو اهوا قرب للتفوی۔ پہلی آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ ہو جاؤ تم اللہ کے لئے کھڑے ہونے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے اگرچہ یہ گواہی خود تمہارے نفس ہی کے خلاف ہو اور دوسری آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ نہ بھڑکا دے تم کو غصہ کسی قوم کا اس بات پر کہ تم انصاف نہ کرو (بلکہ) تحسیں انصاف ہی کرنا چاہیے وہی تقویٰ کے قریب ہے۔

نعم ما قال المجاہی

زہغند و دو ملت کرد جامی رو بیش ق تو بلے عاشق ندارد مذہبے جز ترک مذہبہا

سالک کو جو حال پیش آئے اس پر راضی رہنا چاہیے

حضرت حاجی صاحبؒ کی مجلس تھی۔ حقائق و معارف کا بیان ہو رہا تھا کہ اچانک ایک شخص آیا اور اس نے ایک تعریز مانگا۔ حضرتؒ نے تقریر موقوف کر کے اس کو تعریز لکھ کر دیا۔ مجلس کے لوگ دل ٹنگ ہو رہے تھے کہ اس نے کیسے بے وقت یہ سوال کر کے مجلس کا لطف ختم کر دیا۔ حضرت حاجی صاحبؒ نے فرمایا کہ اپنے بندوں کی مصلحت کو حق تعالیٰ ہی خوب جانتے ہیں بعض دفعہ ایک مفید کام کا سلسلہ جاری رہنے میں کسی مفیدہ کا اندیشه ہوتا ہے۔ مثلاً کبر وغیرہ تو حق تعالیٰ اسکو قطع

کرادیتے ہیں جو بظاہر لوگوں کو ناگوار گزرتا ہے مگر اس میں ان کی مصلحت مضر ہوتی ہے اس لئے آدمی کو ابن الوقت ہونا چاہیے اور یہ ابن الوقت وہ ہے جو اب الوقت کا قسم و مقابل نہیں بلکہ اس معنی کے اعتبار سے ہر شخص کو ابن الوقت ہونے کی ضرورت ہے اسی کو فرمایا ہے۔

صوفی ابن الاوقت ماذدا رفیق

اور فرمایا کہ بعض اوقات ایک کام ہماری نظر میں بہت اہم ہوتا ہے مگر وہ اللہ کے نزدیک کچھ نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے وہ کام چھڑا کر اہم کام میں لگادیتے ہیں۔

حقیقی خواب میں ایک نور ہوتا ہے

ارشاد فرمایا کہ ہم لوگوں کے خواب عموماً اصنیفات احلام کی قسم سے ہوتے ہیں اور پچھے خواب میں ایک نور ہوتا ہے بیان ہوتے ہی اسکی تعبیر بمحض میں آنے لگتی ہے۔

اک اہم نصیحت

خواجہ عزیز اگسن صاحب ”اشرف السوانح“ لکھنے کے لئے طویل چھٹی لیکر تھانہ بھون میں مقیم تھے۔ چھٹی ختم پر آگئی اور کام بہت باقی تھا حضرت نے فرمایا کہ میں ہمیشہ کہتا تھا کہ منقر منحصر جو سامنے آؤے اس کو لکھ ڈالو پھر جو جو یاد آتا رہے گا اضافے ساری عمر کرتے رہنا۔ کام اسی طرح ہوتا ہے مگر کوئی بدھوں کی بات مانتا نہیں۔ جوانی کے جوش میں جب کام لیکر بیٹھتے ہیں تو یہ خیال کرے ہیں کہ کبھی کچھ کرڈا میں جرکا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔

نصحیحت گوش کن جانان که از جان دوست تر دارند
جو نان سعادتمند پند پیر دانارا

قلب کی نگرانی ہر وقت رکھنا چاہیے

ارشاد فرمایا کہ اس طریق تصور میں قلب کی ایسی حالت ہے جیسے چھوٹیں موئیں ہر وقت
مگر انی اور رذائل سے تحفظ کی ضرورت ہے۔ حضرت فاروق اعظم کو دیکھا گیا کہ پانی کا مشکلہ
کاندھے پر لادے ہوئے جا رہے ہیں۔ سبب پوچھا گیا تو فرمایا کہ دوسرا ملکوں کے وفاداؤے
ہوئے تھے اس وقت دربار کی ایک شان بن گئی خطرہ پیدا ہوا کہ قلب میں عجیب و تکبر پیدا نہ

ہو جائے اسکا علاج کرنے کے لئے ایسا کیا ہے۔

حضرت کی ایک بیماری اور خلق عظیم اور رعایت حقوق وحدود

۱۲ ربیع الثانی ۱۳۵۲ھ کی شب میں حضرت تجد کے لئے اٹھے۔ پیشاب کے لئے بیٹھنے تو ایک دورہ ایسا ہوا کہ زمین پر گر گئے نبضیں ساقط ہو گئیں پسلی در کہنی وغیرہ میں چوت بھی آئی۔ انھنا چاہا تو انھنہ سکے بھجوی زمین ہی پر لیٹ گئے۔ پھر بمشکل نماز کی چوکی تک پہنچا اس وقت تک بھی گھر والوں کو از راہ شفقت بیدار نہیں کیا کچھ دیر کے بعد گھروالے بیدار ہوئے۔ صبح کو ڈاکٹروں طیکیوں کا علاج شروع ہوا۔ سب کی رائے یہ ہوئی کہ حضرت چند روز مکمل آرام کریں۔ ذاک بھی نہ لکھیں اور کسی سے ملاقات بھی نہ کریں۔ یہ انتظام بھائی شبیر علی صاحب کے پردہ ہوا کہ لوگوں کو حضرت تک نہ پہنچنے دیں باہر ہی سے حالات بتا کر رخصت کر دیں۔

احقر کو دیوبند میں اطلاع ملی تو تھانہ بھون اس مقصد سے حاضر ہوا کہ قریب رہ کہ ہر وقت کا حال معلوم ہو سکے گا۔ ملاقات کے متعلق تو معلوم ہو گیا کہ ڈاکٹروں نے ممانعت کر دی ہے اس لئے احقر کا خیال تھا کہ اپنی حاضری کی اطلاع بھی حضرت تک نہ پہنچاؤ گا مگر ہوا یہ کہ میں شب میں تھانہ پہنچا صبح کا وضو حوض پر کر رہا تھا کہ حضرت مولانا ظفر احمد صاحبؒ کا چھوٹا بچہ قریب آ کر وضو کرنے لگا۔ وہ مجھے پہنچانتا تھا اس نے بغیر میری اطلاع کے گھر میں جا کر میرے آنے کی اطلاع حضرت کو کر دی۔

حضرت نے غایت شفقت سے یہ ارادہ فرمایا کہ تھوڑی دیر کے لئے مجھے اس طرح بلا نہیں کہ بھائی شبیر علی صاحبؒ کو اطلاع نہ ہو کیونکہ وہ ملاقاتوں کی ممانعت کے لئے مامور تھے۔ اس لئے اپنے خادم سلیمان سے فرمایا کہ مولوی شفیع کو صحیح دو۔ سلیمان کو معلوم تھا کہ آج کل حضرت بجز بھائی شبیر علی صاحب کے کسی کو نہیں بلواتے۔ وہ میرے نام میں حرف شیں کے اشتراک سے یہ سمجھا کہ بھائی شبیر علی کو بلوایا ہے جا کر ان سے کہہ دیا وہ حاضر ہوئے تو حضرت نے تبسم کے ساتھ فرمایا کہ ہم نے تو آپ سے پیوری کر کے ایک کام کرنا چاہا تھا اللہ کو منظور نہ تھا چوری کھل گئی۔ میں مولوی شفیع کو

بلا نا چاہتا تھا۔ بھائی شبیر علی صاحب نے خیال فرمایا کہ میں نے خود حضرت سے کوئی درخواست ملاقات کی کی ہے یا کم از کم اپنی حاضری کی اطلاع کر دی ہے اس لئے مجھ سے خفا ہوتے ہوئے تشریف لانے کے آپ لوگوں کو حضرت کی راحت اور صحبت کی پرواہ نہیں۔ اپنی ملاقاتوں کی فکر میں رہتے ہیں۔ میں نے عرض کیا مجھے قطعاً کوئی علم نہیں کہ حضرت کو میری حاضری کی اطلاع پہنچ گئی میں نے کسی سے نہیں کہا۔

خلاصہ یہ کہ بھائی شبیر علی صاحب نے مجھے حضرت کے زنانہ مکان میں جہاں حضرت فردش تھے پہنچا دیا اور بہت تاکید کی کہ چند منٹ سے زیادہ نہ بیٹھتا۔ چنانچہ احقر نے مختصر ملاقات اور مزاج پری کے بعد انہنا چاہا تو حضرت نے روک لیا اور کچھ دیر تک ارشادات فرماتے رہے اسکے بعد فرمایا کہ اچھا بس اب میرا جی بھر گیا۔ میں رخصت ہو گیا۔

اس ذرہ بے مقدار اور ناکارہ و آوارہ کو دیکھئے اور حضرت قدس سرہ کی جلالت شان کو اور پھر اس پر ضعف و عالمت کے سب اطباء کی مخالفت کو اور حضرت کے اس معاملہ کو ملاحظہ فرمائیے خاشاک بین کہ بردل دریا گزر لئے

اور ان سب چیزوں کے ساتھ یہ رعایت کہ بھائی شبیر علی صاحب کے انتظام میں خلل نہ آئے اور ان کو ناگواری نہ ہو۔ کتنی رعائیں اس مختصر سے واقعہ میں ہیں اور درحقیقت دین کی اصل ہی حقوق و حدود کی رعایت ہے۔

مسٹر جناح قائدِ اعظم کا ایک خط حضرت کے نام

رمضان المبارک ۱۳۵ھ یہی کا زمانہ تھا کہ حضرت کو یہ معلوم ہوا کہ مسلم لیگ اور کانگریس میں باہمی مصالحت کی گفتگو ہو رہی ہے اور مسٹر جناح گفتگو کرنے والے ہیں۔ حضرت کو یہ فکر ہوئی کہ مسٹر جناح شرعی ادکام سے واقف نہیں کہیں اس مصالحت میں کچھ خلاف شرعاً اظہار صلح نہ ہو جائے تو مسلمانوں کے لئے بڑی مشکل ہو گی اس لئے مسٹر جناح کے نام اس مضمون کا خط لکھا کہ شخص سیاسی اور اقتصادی معاملات میں تو آپ کو کچھ بتلانے کی ضرورت نہیں لیکن مذہبی امور میں

آپ کو ان سے مصالحت کرنے کا حق اس وقت تک نہیں ہے جب تک آپ علماء ماہرین سے مسودہ صلح دکھلا کر مشورہ نہ کر لیں۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی امر خلاف شرع طے ہو جائے پھر دشواریاں پیدا ہوں اس کے جواب میں مسٹر جنچ اح صاحب کا خط انگریزی میں آیا جسکا ترجمہ یہ ہے۔

خط فائدۃ عظیم: مجھ کو مولانا مظہر الدین نیز نواب زادہ لیاقت علی صاحب سے گفتگو کرنے کا موقع ملا اور میں بہت زیادہ خوش ہوا یہ معلوم کر کے کہ آپ کو آل انڈیا مسلم لیگ کے مقصد اور پروگرام سے پوری ہمدردی ہے مجھ کو آپ کا خط ملا لیکن موجودہ متعدد مشاغل اور عدم حاضری بمبئی کے سبب آپ کو جواب اس سے قبل نہ دے سکا۔

چند نکات جو میرے سامنے پیش کئے گئے میں نے ان کو بغور تحریر کر لیا ہے اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں ان سے متعلق آپ سے ضرور مشورہ کروں گا جب وقت آوے گا۔

آپ کی مہربانی کا شکریہ

احقر کے محررہ فتاویٰ کا نام حضرت کی طرف سے

حضرت قدس سرہ کو اپنے شیخ کے ساتھ اسیا شغف تھا کہ اپنے سارے ہی کاموں کو شیخ کے نام سے موسم فرمایا۔ خانقاہ کا نام خانقاہ امدادیہ، مدرسہ کا نام امداد العلوم رکھا اپنے فتاویٰ کا نام امداد الفتاویٰ رکھا۔ پھر مولانا ظفر احمد صاحب نے وہاں فتاویٰ کا کام شروع کیا تو اس کا نام امداد الاحکام۔ ان کے بعد مفتی عبدالکریم صاحب نے تھانہ بھون میں فتاویٰ کا کام شروع کیا تو اس کا نام امداد المسائل تجویز فرمایا پھر ۱۳۲۹ھ میں احقر کے پرداد العلوم دیوبند میں خدمت فتویٰ کی گئی تو میرے فتاویٰ کا نام امداد المفتین رکھا۔ بعض مسائل میں بعد میں ترجمیم یا تبدیلی کی ضرورت محسوس ہوئی تو اس کا نام اختیار الصواب فی مختلف الابواب تجویز فرمایا۔ (رمضان ۱۳۵۸)

حضرت کی کرامت با تصرف

حضرت کے ایک خاص عزیز جو عالم صالح ہیں انہوں نے خود بیان فرمایا کہ اوائل شباب میں میرا قلب حسن صورت سے بہت متعلق ہو جاتا تھا۔ میں نے حضرت سے اُنکی شکایت کی تو

حضرت نے فرمایا کہ اچھا آج شب کوتیں بجے تجد کے وقت مکان پر آ جانا۔ میں حاضر ہو تو اول حضرت نے مجھے بٹھا کر فرمایا کہ عزیزم داعیہ تو ایک فطری امر ہے وہ تو کسی اصلاح و تدیر سے زائل نہیں ہو سکتا اور فی نفسہ ذموم بھی نہیں۔ اور جب تک محل ذموم میں صرف نہ ہو اسکی فکر کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔

البتہ میں ایسی تدیر کرتا ہوں کہ جس سے تمہاری کلفت اور پریشانی رفع ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر مجھے اپنے سینے سے لگالیا اور تقریباً آدھے گھنٹے لگائے رکھا پھر چھوڑ دیا۔ اس دن سے آج کا دن ہے کہ الحمد للہ مجھے کبھی ابتلاء نہیں ہوا۔ (۲۳ رمضان ۱۳۵۸ھ)

عارف و غیر عارف کی عبادت میں تفاوت

فرمایا کہ حضرت حاجی صاحبؒ نے فرمایا تھا کہ عارف کی دور کعت غیر عارف کی ایک لاکھ کے برابر ہیں (احقر جامع کہتا ہے) کہ اسکی تائید ان احادیث سے بھی ہوتی ہے جن میں صحابہ کرام کے اللہ کی راہ میں ایک مخرج کرنے کو دوسروں کے جبل احمد کے برابر مخرج کرنے سے بھی افضل فرمایا ہے۔

معمولات کی پابندی کا حیرت انگیز اہتمام

رمضان کے ۱۳۵۸ھ میں اطباء کے مشورہ سے حضرت نے بعد عصر شہر سے باہر تشریف یجائے کا معمول بنایا تھا بعض حاضرین خانقاہ نے ساتھ چلنے کی اجازت لے لی تھی ان میں احقر بھی شامل تھا۔ عصر کے بعد چهل قدمی کا یہ معمول حضرتؐ نے بنا رکھا تھا کہ نالہ کے ریلوے پل تک تشریف لے جاتے اور وہاں سے واپس آ جاتے تھے۔ معمولات کی پابندی حضرت کی طبیعت ثانیہ بنی ہوئی تھی۔ کسی روز طبیعت کسلمند ہوئی کہ چلنے کو دل نہیں چاہتا پھر بھی اس معمول کو تاخونہ فرماتے تھے۔ ایک روز اس سفر کے منٹھی ریلوے پل سے پہلے گائے بیل جانوروں کا ایک بڑا گلہ سامنے آ گیا اور گرد وغبار کی وجہ سے اس راستہ پر چلنا مشکل ہو گیا۔ معمول کے مطابق جتنا چلنا تھا اس میں سو پچاس قدم کی کمی رہ گئی تو یہیں سے واپس ہو جانے کے بجائے راستہ بدل کر جتنے قدم کی کمی تھی

اسکو پورا کرنے کے بعد واپس ہوئے۔

یہ پابندی ایسے امور سے متعلق ہے جو مقاصد نہیں زواں میں سے ہیں۔ اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ مقاصد میں کس قدر پابندی ہوگی۔ ایک روز اسی سیر کے درمیان فرمایا کہ جن معمولات کا تعلق کسی دوسرے سے ہو میں انکی بہت پابندی کرتا ہوں اور جو خود میرے نفس سے متعلق ہیں ان میں بہت آزاد رہتا ہوں۔ دوپھر کا آرام بھی کرتا ہوں بھی نہیں۔ اسی طرح دوسری چیزیں ہیں۔

عصر کے بعد کی سیر میں پند نامہ کا درس

اس مرتبہ میرے ساتھ میرے لڑکے محمد زکی بھی تھے جنکی عمر اس وقت بہت تھوڑی تھی۔ فارسی پڑھتے تھے حضرت پچوں پر بہت شفقت فرماتے تھے۔ یہ بچہ حضرت کی خدمت میں جو چاہتا کہہ لیتا تھا ایک روز حضرت سے درخواست کی کہ مجھے پند نامہ عطار پڑھادیں۔ بچہ کی درخواست رذ کرنا پسند نہ فرمایا اور ارشاد ہوا کہ اور تو کوئی وقت خالی نہیں عصر کے بعد جب ہم چہل قدمی کے لئے جنگل جاتے ہیں راستے میں پڑھ لیا کرو۔ چنانچہ یہ درس شروع ہوا پھر تو خانقاہ میں مقیم متعدد علماء نے بھی اس میں شرکت کی اجازت لے لی۔ احقر بھی حاضر رہتا تھا۔ اس درس کا ایک ملفوظ یہ یاد رہا۔ قرب سلطان کی نہ موت جو پند نامہ میں لکھی ہے اس پر ارشاد فرمایا کہ قرب سلطان میں اول تو دنیوی خطرہ بھی ہر وقت رہتا ہے۔ ذرا نظر بد لی تو مصیبت کھڑی ہو گئی اور دینی مفسدہ بڑا ہے وہ یہ کہ ان کے سامنے حق گوئی بڑی مشکل ہے بالخصوص اس وجہ سے کہ شریعت نے خود بھی انکے ادب کی رعایت کا حکم دیا ہے۔

(۱۴ ربیع الثانی ۱۳۵۸ھ)

جس عورت کا کوئی محرم حج میں ساتھ نہ ہو کسی با محروم عورت کے ساتھ اس کا سفر باہر سے ایک سوال آیا کہ ایک صاحب حج کو جا رہے ہیں انکے ساتھ ان کی خالہ بھی ہیں اور ایک دوسری معمر عورت جو انکی محرم نہیں ہے وہ بھی انکی خالہ کے ساتھ سفر حج میں شریک ہونا چاہتی ہے کیا یہ جائز ہے؟ حضرت نے جواب میں تحریر فرمایا:-

السلام علیکم و رحمة اللہ! حنفی مذهب میں تو اس صورت میں بھی اجازت نہیں اور شافعی مذهب میں اگر شقہ عورتیں ہمراہ ہوں تو اجازت ہے اور حنفی کو کسی خاص مسئلہ میں شافعی کی تقلید بوقت ضرورت جائز ہے۔ ضرورت کا فیصلہ میں نہیں کر سکتا۔ (اشرف علی ۲۴ رمضان ۱۳۵۷ھ)

حضرت نظام الاولیاء کے خلیفہ حضرت حسنؐ کے ایک شعر پر تضمین
حضرت سلطان نظام الاولیاء قدس سرہ کے ایک خلیفہ حضرت حسنؐ تھے جو شروع میں
حضرت نظام الاولیاء کے قدموں میں پڑے اور سلوک میں کمال حاصل کر کے خلیفہ مجاز ہوئے۔
انکا ایک شعر ہے۔

اے حسن تو یا ان گنجے کردی
کہ ترا طاقت گناہ نماند
احقر نے اسی ردیف و قافية میں چند اشعار لکھے تھے۔

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| چون زعیب خود انتباہ نماند | بس شردم گناہ زید و عمر |
| گذ بیچ کس گناہ نماند | چون نظر بر گناہ خود افتاد |
| کم در دیگرش پناہ نماند | بر درست آنگہے رسیدہ شفیع |
| لیک کس چون مکن تباہ نماند | عجیے تے زراہ در ماندن |
| نپھوا ین ننگ خانقاہ نماند | در چنیں جود و فیض محرومے |
| غیر آن بہر بندہ راہ نماند | مدے اے نگاہ پیر مغان |

حضرت خواجہ عزیز الحسن صاحب مجدد کا ایک شعر

فقر میں بھی سر بر کبر و غرور و ناز ہوں کس کانیاز مند ہوں سب سے جو بنے نیاز ہوں

(محمد شفیع)

مسودات سے تحریض کی گئی۔ ۳ محرم ۱۳۹۳ھ

مجالس حکیم الامت

ربيع الاول ۱۳۵۸ھ میں احقر بیمار ہوا اور بیماری نے طول پکڑا۔ دارالعلوم سے کچھ عرصہ کی رخصت لی یہ فرصت بیماری تھا نہ بھون میں گزارنے کا قصد کر کے حاضر ہو گیا۔ ۵ ربیع الثانی سے ۱۸ جمادی الاول ۱۳۵۸ھ تک کے تقریباً چالیس روزہ قیام میں اشرف المجالس سے جو کچھ اقتباسات بیماری کے باوجود حاصل کئے اس کا کچھ حصہ لکھا جاتا ہے۔

ذکر اسم ذات اللہ اللہ!

بعض علماء صرف اسم ذات یعنی اللہ اللہ کے ذکر کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ ماثر و منقول نہیں، اسی لئے بعض علماء نے اس کو بدعت سمجھ کر کہہ دیا۔ حضرتؐ نے فرمایا کہ قرآن کریم میں ہے واذکر اسم ربک بکرۃ و اصیل (یعنی یاد کرو نام اپنے رب کا صبح اور شام۔ یہاں لفظ اسم کو بہت سے حضرات مفسرین نے مقحوم (یعنی زائد) قرار دیا ہے اور فرمایا کہ مراد یہ ہے کہ اپنے رب کو یاد کیا کرو۔ لیکن یہ احتمال بھی کچھ بعید نہیں کہ لفظ اسم کو زائد نہ کہا جائے تو مراد یہ ہو گی کہ اپنے رب کا نام ذکر کیا کرو۔ اور یہ ظاہر ہے کہ رب کا نام اللہ ہے اس سے ذکر اسم ذات مدلول قرآنی بن جاتا ہے۔ انہی

احقر کہتا ہے کہ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پیش نے بعض ایسی آیات کی تفسیر میں جہاں اسم ربک آیا ہے یہی مفہوم لیکر ذکر اسم ذات اللہ اللہ کو اس کامل لول قرار دیا ہے واللہ اعلم حضرتؐ نے فرمایا کہ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلی آیت واذکر اسم ربک بکرۃ و اصیل ایسا سلوک طریق حق کے مبتدی کے متعلق ہے کہ مبتدی کا پہلا کام نام کی رٹ اگانا ہے اس کے بعد دوسرا آیت میں جو وتبتل الیه تبتیلا۔ ارشاد فرمایا کہ یہ متنی کا حال ہے کیونکہ ابتداء اس طریق کی ذکر اللہ کی کثرت سے ہوتی ہے اور انتہا ساری مخلوق سے کٹ کر صرف خالق کا ہو رہنا ہے

اپنی تواضع کے ساتھ مریدوں کی تربیت کا خاص اہتمام

فرمایا کہ ایک صاحب نے حضرت حاجی صاحب کی مجلس میں آپ کے فیوض و برکات جو بہ وقت مشاہدہ میں آتے تھے بیان کئے تو حضرت حاجی صاحب نے فرمایا کہ مجھ میں کیا رکھا ہے سب تمہارے ہی اندر ہے اس کا ظہور میرے ذریعہ سے ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ تم ایسا مت سمجھنا۔ سبحان اللہ یہ ہے خاصہ تربیت کہ اپنی تواضع اور مرید کی مصلحت دونوں کو جمع فرمادیا۔

محقق صوفیہ کرام سے نفع عظیم اور گمراہ صوفیوں سے امت کا ضرر عظیم

فرمایا کہ صوفیہ کرام سے امت کو اتنا نفع پہنچا ہے کہ اور کسی سے اتنا نفع نہیں پہنچا۔ مگر گمراہ اور اہل باطل مدعاں تصوف سے امت کو ضرر بھی اتنا پہنچا کہ کسی کافر سے بھی اتنا ضرر نہیں پہنچا۔ اور فرمایا کہ نواب قطب الدین صاحب مصنف مظاہر حق نے غالباً امام مالکؓ کے حوالہ سے لکھا ہے من تفقه ولم يتصوف فقد تفسّن و من تصوف ولم يتفقد فقد تزندق ومن جمع بينهما فقد تحقق يعني جو شخص فقيه هوجاؤ مگر صوفی نہ ہو وہ خشک بے کیف و بے نور رہتا ہے اور جو صوفی ہو گیا فقيه نہ ہوا وہ زنداق اور طحہ ہو گیا۔ اور جس نے دونوں کو جمع کر لیا وہ محقق ہو گیا۔

عراتی اور شمس تبریز

یہ دونوں بزرگ صوفیائے کرام میں معروف و مشہور ہر دوے باکمال حضرات ہیں دونوں ایک بزرگ کی خدمت میں فیض باطنی حاصل کرنے کے لئے جاتے تھے۔ عراتی ایک بڑے عالم ہونے کے ساتھ ہر دوے فضیح و بلیغ شاعر بھی تھے۔ اپنے حالات نظم میں لکھ کر شیخ کی خدمت میں پیش کرتے تھے۔ شمس تبریز لکھنے پڑھنے کے عادی نہ تھے معمولی زبان میں حالات لکھتے اور پیش کرتے تھے۔ ایک روز شیخ نے ان سے کہا کہ آپ عراتی کی طرح اپنے حالات نظم اور بلیغ انداز میں کیوں نہیں لکھتے۔ شمس تبریز اس سوال پر دلگیر ہوئے اور عرض کیا کہ مجھ میں یہ لیاقت نہیں ہے شیخ نے انکے جواب میں فرمایا کہ غم نہ کرو اللہ تعالیٰ تحسیں ایک زبان دیگا جس کے ذریعہ تمہارے علوم و فیوض

دنیا میں پھیلیں گے۔

ان بزرگ کی پیشین گوئی مولانا رومیؒ کی شکل میں پوری ہوئی۔ مولانا رومیؒ مس تبریزؒ کے مرید ہوئے اور ان سے باطنی فیوض حاصل کئے۔ پھر انپی مشنوی کے ذریعہ ان کو بیان کیا۔ قدرت نے اس کو ایسی مقبولیت عطا فرمائی کہ صدیاں لگز رجاء کے بعد آج بھی دنیا کے ہر خطے میں پڑھی جاتی ہے مختلف زبانوں میں اس کے نظم و نثر ترجمے کئے جاتے ہیں۔

حقیقت یہی ہے کہ جو شخص اللہ کا ہور ہے اس میں جو کمی کوتا ہی بھی ہوتی ہے اسکو حق تعالیٰ مختلف انداز سے پورا فرمادیتے ہیں۔ مس تبریزؒ جیسے بے زبان بزرگ کو ایسی زبان عطا فرمادے کہ وہم و قیاس سے زیادہ انکے فیوض کو دنیا میں پہنچا دیا۔ حضرتؐ نے یہ واقع نقل کر کے فرمایا کہ ہمارے حاجی صاحبؐ قدس سرہ علوم میں معروف اور صاحب تصنیف نہ تھے مگر حق تعالیٰ نے انکے اخلاق و عبادت کی برکت سے جنتۃ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانو توؒ اور فقیرِ العصر حضرت مولانا شید احمد گنگوہیؒ کو انکی زبان بنادیا ان کے ذریعے کتنے علم و معرفت کی نہریں دنیا میں رواں ہوئیں اور انکے فیوض و برکات دنیا کے گوشہ گوشہ میں پہنچے۔

اور خود سیدی حضرت حکیم الامت قدس سرہ کی دینی تبلیغی تصنیفی خدمات اتنی ہیں کہ آخری دور میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ حضرتؐ فرمایا کرتے تھے کہ یہ سب حضرت حاجی صاحبؐ کی برکت ہے۔

حروف و کلمات کا ادب

حضرت مجدد الف ثانیؒ ایک روز بیت الخلاء میں تشریف لے گئے پھر فرما ہی گھبرا کر واپس آئے اور ناخن پر جو قلم کی نوک سے ایک نقطہ لگا بوا تھا اسکو دھونے کے بعد بیت الخلاء میں گئے۔ یہ تھا ان حضرات کا ادب جسکی برکت سے حق تعالیٰ نے ان کو درجات عالیہ عطا فرمائے تھے۔ آج کل تو اخبار و رسائل کی فراوانی ان میں قرآنی آیات احادیث اور اسماء الہمیہ ہونے کے باوجود گلی کوچوں میں غلطیوں کی جگہوں پر بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں العیاذ باللہ العلی العظیم اور معلوم ہوتا ہے کہ

اس وقت کی دنیا جن عالمگیر پریشانیوں میں گھری ہوتی ہے اس میں اس بے ادبی کا بھی بڑا دخل ہے۔

ملا دوپیاز سے

فرمایا کہ ملا دوپیازہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے شاگرد ہیں اور بزرگ معلوم ہوتے ہیں۔ بڑے لوگوں باادشا ہوں میں تبلیغ حق کے لئے ایسی وضع اور صورت بنارکھی تھی جو مسخرے لوگوں کی ہوتی ہے اور بھی بہت سے بزرگوں نے ایسا کیا ہے۔

خوش پوشاک ہونا حدود کے اندر ہو تو کوئی عیب نہیں

فرمایا کہ ایک صاحب یہاں آئے تھے مجھ میں دو عیب لگائے۔ انکو میرے حقیقی عیبوں کی تو خبر نہ تھی۔ ایک عیب یہ کہ خوش پوشاک ہیں دوسرے یہ کہ اطائف کی مشق نہیں کرتے۔ میں کہتا ہوں کہ اول تو خوش پوشاک ہونا کوئی عیب نہیں۔ اگر حق تعالیٰ کسی کو مال دیں اور وہ اچھا کپڑا پہنے تو اسیں حرج کیا ہے۔ دوسرے میں خوش پوشاکی کا اہتمام کبھی نہیں کرتا۔ مجھے یاد نہیں کہ میں نے کبھی چکن خرید کر پہنی ہو بلکہ جب خود بناتا ہوں تو سادہ ململ لٹھنے کا بناتا ہوں۔ اور دل تو یہ چاہتا تھا کہ گاڑھا (کھدر) پہنوں مگر ایک مرتبہ نین سکھر (کھدر) کا کرتے میں نے پہن لیا تمام بدن میں مرچیں لگنے لگیں معلوم ہوا کہ میں اس کا محتمل نہیں۔

ہاں لوگ جو لباس بنائے بھیجتے ہیں اس میں یہ معمول ہے کہ اگر بنانے سے پہلے مجھ سے مشورہ کرتے ہیں تو تکلف کے کپڑے کو منع کرتا ہوں اور بلا اطلاع بنالا کیں تو دیکھتا ہوں اگر میری حیثیت سے بہت زیادہ ہو تو نہیں پہنتا اور کچھ تھوڑا سازائد ہو تو پہن لیتا ہوں۔

بزرگوں کے درجات قائم کرنا

فرمایا کہ بہت سے لوگ بزرگوں کے باہمی تفاضل اور درجات پر بحثیں کیا کرتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ اپنی رائے سے ان حضرات کے تفاضل اور درجات کا پہنچانا سخت دشوار ہے بلکہ اسکی صحیح صورت یہ ہے کہ ان کے معاصرین اہل علم و بصیرت بزرگوں کا معاملہ دیکھا جائے کہ

ان بزرگوں کے ساتھ کیا تھا جس کو وہ افضل سمجھتے ہوں وہ افضل اور جسکو مفضول سمجھتے ہوں وہ مفضول ہے۔ اسی بناء پر ایک مرتبہ حضرت شاہ عبدالعزیز اور شاہ اسماعیل شہیدؒ کے درمیان تقاض میں گفتگو کے وقت ہمارے بعض اکابر نے فرمایا کہ ہم نے بزرگوں کو یہ دیکھا کہ وہ بہ نسبت حضرت شاہ اسماعیلؒ کے حضرت شاہ عبدالعزیزؒ کی عظمت زیادہ کرتے تھے۔

ایک شاعرانہ لطیفہ

ایک صاحب نے اپنے خط میں حضرتؐ سے چند فرمائیں لکھیں اور اس کے ساتھ یہ شعر لکھا۔

| | |
|---|-------------------------------------|
| عاشق کے دل کو توڑو لیکن ذرا منجل کر | لاتقسطوا کو دیکھو یہ کس کی گفتگو ہے |
| حضرتؐ نے فی البدیہ جواب میں یہ شعر لکھ دیا۔ | |
| عاجز کے دل کو توڑو لیکن ذرا منجل کر | لاتظلموا کو دیکھو یہ کس کی گفتگو ہے |
| اور لکھا کہ میں ان فرمائشوں کے پورا کرنے پر قادر نہیں اور غیر قادر کو مجبور کرنا ظلم ہے۔ | |
| حضرتؐ نہ شعر شاعری کو پسند کرتے تھے نہ کبھی یہ مشغلہ رہا لیکن فطری ذوق سلیم اور طبیعت کی شفقتگی سے جب کبھی کوئی شعر کہا تو بڑا چست اور روزگاری ہوتا تھا ایک مرتبہ اپنا ایک شعر سلوک راہ حق کے متعلق فرمایا۔ | |

اندر یہ رہ آنچھ می آیہ بدست حیرت اندر حیرت اندر حیرت است
 اسی ذوق لطیف کا ایک عجیب واقعہ یہ ہے کہ حضرت گنگوہیؒ کے مریدین میں ایک صاحب خورجہ کے رہنے والے محمد یوسف نامی تھے۔ ذاکر شاغل صاحب حال مگر نیم مجدوب قسم کے آدمی تھے ایک مرتبہ تھانہ بھون پہنچے وہاں سے جلال آباد گئے جہاں ہمارے شیخ الشیوخ حضرت میاں جی نور محمد صاحبؒ کا قیام رہا تھا۔ وفات کو عرصہ ہو چکا تھا۔ وہاں جا کر یہ تحقیق کی کہ حضرت میاں جی صاحبؒ کا کوئی دیکھنے والا اب موجود ہے یا نہیں۔ معلوم ہوا کہ ایک بڑا بنا ہندو ہے۔ اسکے پاس پہنچ پوچھا کشم نے حضرت میاں جی صاحبؒ کو دیکھا ہے اس نے کہا ہاں دیکھا ہی نہیں اسکے نکتے میں پڑھا بھی ہوں۔ محمد یوسف صاحب خورجوی نے کہا کہ جب تم نے ان سے پڑھا ہے تو کبھی

تمھیں مارا بھی ہو گا اس نے کہا کہ ہاں کئی مرتبہ۔ فرمایا کہ کہاں مارا تھا اس نے اپنی گندی کی طرف اشارہ کیا۔

یوسف صاحب عاشق مزاج بزرگوں کی محبت میں مغلوب الحال تھے لگنے اس کی گدی چو منے حضرت کو لوگوں نے یہ واقعہ سنایا تو آپ نے بردستہ یہ شعر پڑھا۔

عشق رانا زم کہ یوسف را بزار آورد
پھو صغا زاہدے راز یز نار آورد
یہ شعر بہت پہلے کسی بزرگ کا ہے مگر اس واقعہ پر شعر کی اصل مراد سے بھی زیادہ چسپاں ہو گیا۔
بعض اوقات مرید سے شیخ کو اور شاگرد سے استاد کو فیض پہنچتا ہے

ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ کا تجربہ ہے کہ کتاب پڑھانے کے وقت جب مطالعہ کیا تو بعض مقامات پر اشکال پیش آیا۔ حل نہیں ہوا سبق پڑھانے بیٹھنے تو بات سمجھ میں آگئی۔ یہ بلاشبہ طلبہ کی برکت تھی۔ اسی طرح بعض اوقات کسی مخلص مرید کی برکت سے حق تعالیٰ شیخ پر مشکل مقامات کھول دیتے ہیں۔ اس لئے کسی شیخ اور مصلح کو نہیں کرنا چاہیے کہ ہم لوگوں کو نفع پہنچاتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ حق تعالیٰ جس پر کرم فرماتے ہیں اور اس سے اصلاح خلق کی خدمت لیتے ہیں تو اس خدمت ہی کی برکت سے انکو علوم و معارف اور درجات عالیہ دیئے جاتے ہیں۔ اگر وہ اس خدمت کو ترک کر دیں تو سب حالات رفیع سے محروم ہو جائیں۔ جس کنویں سے پانی نکالنے والے کم ہو جائیں یا کوئی نہ رہے اسکے سوتے بند ہو جاتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ شیخ موصیٰ ہے بعد وصول الی الحق کے وہ بھی علیحدہ ہو جاتا ہے بس مرید رہتا ہے اور اللہ میاں۔ اسکی مثال ایسی ہے کہ جیسے مشاطہ اور دو لمحن کے دو لمحن کو خلوت میں پہنچا کر مشاطر خست ہو جاتی ہے مولا ناروی نے فرمایا۔

جلوہ بیند شاہ و عینیر شاہ نیز وقت خلوت نیست جز شاہ عزیز

البتہ یہ بات پھر بھی رہتی ہے کہ شیخ کی مخالفت کرے گا تو سب مقامات سلب ہو جاتے ہیں کیوں کہ یہ ناشکری ہے۔

میرے والد ماجد کی ایک حکایت از مولانا محمد یعقوب صاحب

حضرت گوائپے اساتذہ میں سب سے زیادہ گہرا تعلق حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب سے تھا اور میرے والد ماجد مولانا محمد یعنی صاحب "بھی حضرت" کے ہم سبق حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب کے شاگرد تھے اور دوسرے شاگردوں سے زیادہ خصوصیت رکھتے تھے۔ والد ماجد نے اپنا ایک واقعہ سنایا تھا جس کو حضرت نے بھی بارہا اپنی مجالس میں ذکر فرمایا۔

واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب دیریک مصروف گفتگو رہے۔ والد ماجد اس زمانے میں پچھلے بزرگوں کے حالات کا مطالعہ کیا کرتے تھے اور حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب اگرچہ صاحب جلال بزرگ مشہور تھے مگر والد صاحب پر خاص عنایات تھیں اس لئے بے تکلف ایک سوال پیش کر دیا کہ بزرگان سلف میں اس کا بڑا اہتمام تھا کہ کلام کم کیا جائے۔ زیادہ گفتگو سے منع فرماتے تھے۔ اس کی حدکیا اور اسکا کیا مطلب ہے۔

حضرت نے بڑی شفقت سے فرمایا کہ اصل مقصد تو ناجائز کلام سے بچنا ہے مگر بعض اوقات ناجائز سے بچنے کے لئے بطور علاج کے ناجائز و مباح کلام کو بھی ترک کرنا پڑتا ہے کیونکہ اس کے بغیر نفس صرف ناجائز کلام پر قباعت نہیں کرتا۔ شدہ شدہ حرام و ناجائز میں بتتا ہو جاتا ہے۔ والد صاحب ایک کتاب ہاتھ میں لئے ہوئے تھے اسکو اپنے ہاتھ میں لے کر اسکے ایک ورق کو موز دیا۔ پھر والد صاحب کو دیا کہ اس مڑے ہوئے ورق کو سیدھا کرو۔ والد صاحب نے سیدھا کر دیا مگر وہ پھر مڑ گیا اور بار بار ایسا کرنے پر بھی سیدھا نہیں ہوا تو حضرت مولانا نے پھر کتاب اپنے ہاتھ میں لیکر اس مڑے ہوئے ورق کو دوسری طرف موز دیا اور پھر والد صاحب کو دیا کہ اب سیدھا کرو۔ والد صاحب نے اسکو سیدھا کیا تو وہ سیدھا ہو گیا اور اپنی جگہ پھر گیا۔ یہ محسوس مثال دکھانے کے بعد فرمایا کہ صوفیائے کرام جو مجاہدات کرتے ہیں اسکی بھی مثال ہے کہ اصل مقصد تو اعتدال پر قائم رہنا ہے لیکن خم خور دہ نفس اعتدال پر اس وقت تک نہیں آتا جب تک اسکو بالکل دوسری طرف نہ

موز دیا جائے۔ یعنی بہت سے مباحثات اور جائز امور سے بھی روک دیا جاتا ہے۔ تب وہ اعتدال پر آتے ہیں کہ ناجائز سے بچنے لگیں۔ یہ مجاہدات خود مقصود نہیں ہوتے بلکہ علاج ہوتے ہیں۔ جو اس حقیقت پر غور نہیں کرتے وہ ان صوفیاء کرام پر اعتراض کرنے لگتے ہیں کہ حلال چیزوں سے روکتے ہیں حالانکہ انکار و کنا ایسا ہی ہوتا ہے جیسے کوئی حکیم معالج اپنے مریض کو کسی پاک صاف حلال طیب چیز کے کھانے سے اس لئے روکتا ہے کہ وہ اسکے مزاج میں یماری پیدا کر دے گی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس نے خدا کے حلال کو حرام کر دیا۔

حضرت مولانا محمد یعقوب صاحبؒ سے ایک آیت کی تفسیر

فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے قصہ میں جو یہ آیت آتی ہے لاعاصم الیوم الامن رحم اس کی تفسیر میں اکثر آئندہ تفسیر نے یہ فرمایا ہے کہ یہاں عاصم بمعنی معصوم ہے۔ فرمایا کہ اس میں تکلف ہے اور بے تکلف تفسیر یہ ہے کہ یہاں اصل میں دونوں تھے ایک لاعاصم الیوم الالله دونوں کو ملا کر ایک جملہ میں ادا کر دیا گیا لاعاصم الیوم الامن رحم۔

مولانا جامی کے ایک شعر کا صحیح مفہوم

مولانا جامیؒ نے مولانا روم کی مشنوی کے متعلق فرمایا ہے۔

مشنوی مولوی معنوی هست قرآن در زبان پهلوی

اسکا ظاہر مطلب لیا جائے تو غلط ہونا اسکا ظاہر ہے اور شاعرانہ مبالغہ پر محظوظ کرنا بھی رسول
قرآن کے معاملہ میں مولانا جامی سے بہت بعید ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ ہمارے حاجی صاحب
اس کی تشریع یہ فرماتے تھے کہ یہاں قرآن سے مراد قرآن معروف نہیں بلکہ کلام الہی ہے جو وحی متلو
اور غیر متلودونوں کو شامل ہے۔ اس تشریع پر کوئی اعتراض نہیں رہتا کیونکہ مضامین مشتوی قرآن و
سنّت سے باہر کمیں نہیں۔

دفع آسیب کے لئے حاضرات کا مسئلہ

ایک صاحب نے حضرتؐ سے خط میں سوال کیا کہ آسیب کے علاج کے لئے کچھ لوگ حاضرات کا عمل کرتے ہیں اس میں بعض غیر مشرع چیزیں بھی کی جاتی ہیں اسکو اگر دوائی کیا جائے تو کیا جرم ہے۔ جبکہ فقهاء کے نزدیک دوائے و علاج کے لئے بعض حرام چیزوں کے استعمال کے جواز پر فتویٰ بھی منقول ہے۔

حضرتؐ نے جواب میں تحریر فرمایا کہ ان لوگوں کا یہ کہنا کہ اس مدیر سے آسیب دفع ہو جاتا ہے اہل تحقیق کے نزدیک بالکل غلط اور دھوکا ہے۔ پھر فرمایا کہ مجھے خود اسکی تحقیق ہے کہ یہ محض ایک خیال کا تصرف ہے۔ اگر مجلس میں کوئی آدمی اسکے خلاف خیال جما کر بیٹھ جائے تو پھر کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ پھر چند واقعات کا ذکر فرمایا جن سے اسکا مسیر یہ میں کی قسم ہونا ظاہر ہو جاتا ہے۔

(ربیع الثانی ۱۳۵۸ھ بعد ظہر)

دنیا میں کسی کے تعلق پر بھروسہ نادانی ہے

فرمایا کہ دنیا میں اس طرح رہنا چاہیے کہ اسکا کوئی نہیں بالکل اکیلا ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ حال نصیب تو نہیں۔ مگر تم نا ضرور ہے اور فرمایا۔

اے خوشاسرو کہ از بند غم آزاد آمد
زیر بارند درختاں کہ ثمرہا دارند

(ربیع الثانی ۱۳۵۸ھ)

احقر جامع کہتا ہے کہ اسکے کچھ دن کے بعد حضرت قدس سرہ نے ایک تہائی کے موقع پر احقر سے ذکر فرمایا کہ الحمد للہ میں اپنے آپ کو تہبا پاتا ہوں۔ تعلقات و علاق سب سے ہیں اور سب کے حقوق ادا بھی کرتا ہوں مگر پھر اپنے کو تہبا پاتا ہوں۔

می دہدیز دان مراد متفقین
تو چنان خواہی خدا خواہد و چنیں

اختلاف علماء کے موقع میں حضرت کا اعتدال

واقعہ احمد حسن:- حضرتؐ کی خدمت میں عرصہ دراز سے ایک عالم رہتے تھے۔ ذی علم ہونے کی بنا پر حضرتؐ نے ایک کتاب کی تصنیف کا کام بھی ان کے پرد فرمادیا تھا جس کی تجوہ انکو عطا فرماتے تھے۔ مولوی صاحبؒ موصوف خشک کتابی تقویٰ کے بڑے دلدادہ تھے اور حضرتؐ پر اعتراض کیا کرتے تھے کہ ان میں تقویٰ نہیں۔ حضرتؐ کو اس کا علم ہوتا تو فرماتے کہ وہ حق کہتے ہیں میں کہاں کا مقنی ہوں اس پر کبھی ناگواری پیش نہیں آتی۔

اتفاقاً اسی زمانہ میں تحریک خلافت چلی جس میں کانگریس کے ہندو بھی شریک ہو گئے اور ہندو مسلم اتحاد کی بنیاد پر آزادی ہند کی تحریک نے خلافت کی جگہ لے لی۔ اس ہندو مسلم اشتراک نے جگہ جگہ خلاف شرع امور کو روواج دیا۔ بعض اکابر علماء نے اصل مقصد یعنی انگریزوں سے ہندوستان کی آزادی کو اہم سمجھ کر اس اشتراک کو قبول کیا اور جہاں اس اشتراک کی وجہ سے خلاف شرع امور کا ارتکاب ہوتا تو وہ اس پر کمیر بھی فرماتے۔ مگر تحریک عوامی ہو چکی تھی۔ علماء کی فلکر کا اثر بہت محدود دارے میں رہتا ہے اور عام مسلمان غلط راستہ پر پڑ کر کفر و اسلام کا امتیاز کھوتے جاتے تھے۔ حضرتؐ اس طرح اشتراک کو شرعاً جائز بھی نہ جانتے تھے اور اسلام اور مسلمانوں کے لئے انجام کا رفید بھی نہ سمجھتے تھے (جیسا کہ بعد کے واقعات نے اس کا مشاہدہ کر دیا) لیکن جو علماء اسکے جواز کے قائل تھے انکا احترام و ادب ہمیشہ قائم رہا اُنکے قول پر عمل کرنے والوں کے ساتھ وہی معاملہ رہا جو اجتہادی مسائل کے اختلاف میں رہنا چاہیے۔

مولوی صاحبؒ نہ کو اس معاملے میں بھی حضرتؐ کے خلاف کانگرس کے حامی علماء کے ساتھ متفق الرائے تھے۔ اس حد تک حضرتؐ کو کوئی ناگواری نہ تھی مگر وہ کچھ آگے بڑھے اور خانقاہ امدادیہ میں رہتے ہوئے حضرتؐ کے فتویٰ کے خلاف فتاویٰ شائع کئے کرائے۔ جلوسوں میں تقریریں کیس خانقاہ میں آنے والوں کو اپنا ہم خیال بنانے کی کوششوں میں تیز ہو گئے تو حضرتؐ نے ان سے فرمایا کہ :

”میں آپ کو آپ کی رائے سے نہیں روکتا کہ مسئلہ اجتہادی ہے مگر ایک جگہ رہ کر اختلاف کرنا مناسب نہیں اس لئے اب مصلحت یہ ہے کہ آپ اپنے وطن چلے جائیں اور جو تصنیف کا کام آپ یہاں کر رہے وہاں جا کر کریں اور یہی تشویح جو آپ کو یہاں مل رہی ہے وہاں پہنچتی رہے گی۔ پھر آپ کھل کر خلافت و کانگرس کی موافقت میں فتویٰ دیں اور تقریریں کریں مجھے کوئی گرانی نہیں ہوگی۔ پھر جب یہ تحریک یکسو ہو جاوے تو پھر یہاں آ جائیے۔

حضرتؐ نے فرمایا مگر خداؑ کے بندے نے کسی چیز کو نہ مانا مولوی صاحب بہت مدعاً تقویٰ تھے حیدر آباد وغیرہ ریاستوں سے جو وظائف علماء یامداروں کو ملتے تھے ان سب کو حرام کہتے تھے وہ یہ تھی کہ اسکا تقویٰ صرف کتابی تھا۔ کسی بزرگ کی صحبت میں اصلاح نفس کے قصد سے رہے نہیں تھے۔ اور محض کتابوں اور مطالعہ پر اعتماد کرنے والے عموماً ایسی بلااؤں میں بتلا ہو جاتے ہیں۔

انعام اور استدرج میں فرق

بعض فساق فخار بلکہ کفار کو بھی دنیا میں بہت نعمتیں مال و دولت حکومت و ثروت اللہ تعالیٰ کی طرف سے دے دی جاتی ہے جو انکے لئے انجام کار اور زیادہ غفلت اور سرکشی کا سبب بن کر آخرت کا عذاب شدید بن جاتی ہے یہ ظاہری نعمت در حقیقت سزا ہوتی ہے اسکو قرآن و حدیث کی اصطلاح میں استدرج کہا جاتا ہے۔

حضرتؐ نے ایک روز ان نعمتوں کا ذکر فرمایا جو حق تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی تھیں پھر فرمایا کہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ استدرج نہ ہو۔ پھر فرمایا مگر ایک بات سے امید ہوتی ہے کہ استدرج نہیں۔ وہ یہ کہ مجھے استدرج کی فکر اور خوف لگا رہتا ہے اور جس شخص کی نعمتیں اللہ کی طرف سے بطور استدرج ہوتی ہیں اسکو یہ فکر ہی کبھی نہیں ہوتی بلکہ جوں جوں نعمت زیادہ ہوتی جاتی ہے اس کی غفلت اور بردھتی جاتی ہے۔

ایک لطیفہ

حضرتؐ ماموں کا نام امداد علی تھا درویش صفت آدمی تھے مگر کچھ بدعاں میں بتلا اس

لئے حضرت سے نہیں بنتی تھی۔ انہوں نے اپنی خانقاہ کا نام خانقاہ امداد علی رکھا تھا اور تھانہ بھون کی مشہور خانقاہ سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ کے نام سے موسوم خانقاہ امداد اللہ کہلاتی تھی۔ بطور ظرافت کے فرمایا کہ خانقاہ امداد اللہ اور خانقاہ امداد علی میں وہی فرق ہے جو اللہ میاں اور حضرت علی کے درمیان ہے۔

ایک لطیفہ

مولانا نے جو کانگریس کے حامی تھے حضرت کو خط لکھا کہ میں آپ کی خدمت میں حاضری کا قصد کرتا ہوں مگر میں نے سنا ہے آپ کانگریسیوں سے چھوٹ کا معاملہ کرتے ہیں۔ حضرت نے جواب میں لکھا کہ اس تہمت کا تو میرے پاس کوئی علاج نہیں مگر میں نے سنا ہے کہ آپ کے مزاج میں جلال اور غصہ زیادہ ہے اور میں بھی کچھ ایسا ہی ہوں تو آپ فرمائیے کہ یہ جلائیں کا سبق کون پڑھائے گا۔ اس خط نے انکو حاضری کے لئے مزید آمادہ کر دیا اور تشریف لائے شگفتہ ملاقات رہی پھر یہ کہہ کر گئے کہ بڑے ظالم ہیں وہ لوگ جو آپ کو مقشود کہتے ہیں۔

باطنی امراض کے علاج کیلئے خداداد بصیرت

فرمایا کہ طالبین سلوک میں سے ایک شخص نے خط میں لکھا کہ مجھ میں کبر بہت ہے اور فرمایا کہ مجھے بھی محسوس ہوا کہ واقعی ہے ان کا یہ احساس غلط نہیں۔ میں نے ان کے لئے یہ علاج تجویز کیا کہ اپنا یہ مرض خط میں لکھ کر میرے پاس بھیج دو اسی طرح پانچ مرتبہ یہ کام کرو۔ ارشاد فرمایا کہ بحمد اللہ پانچ مرتبہ لکھنے کی نوبت پوری ہونے سے پہلے ہی یہ مرض جاتا رہا۔

مشائخ طریق کو جنہیں حق تعالیٰ کی طرف سے اصلاح خلق کی خدمت عطا کرو یجاتی ہے ان کو ہر شخص کے علاج کے لئے نئی نئی تدبیریں بھی سکھا دی جاتی ہیں جو زمانے اور مقام اور افراد کی خصوصیات پر نظر کر کے یہ حضرات تجویز کرتے ہیں اور ان کا نفع مشاہدہ میں آتا ہے۔ یہ کوئی عام ضابطہ نہیں کہ پانچ مرتبہ اپنی بیماری لکھ کر طبیب کے پاس بھیج دو تو شفاء ہو جائے۔ غالباً اس تدبیر میں دو چیزیں پیش نظر رہی ہیں ایک یہ کہ بیمار کو اپنی بیماری کا مکمل استحضار کم از کم چالیس روز رہے

اور وہ خود اسکے ازالہ کی فکر میں لگے کیونکہ ذاک کے ذریعے خطوط کے پانچ مرتبہ آنے جانے میں تقریباً چالیس روز خرچ ہوئی جاتے ہیں دوسرے یہ کہ ہر مرتبہ حضرتؐ کی دعا اور توجہ انکو حاصل ہوتی رہے واللہ اعلم۔

آیت ولقد یسرنا القرآن پر ایک شبہ اور جواب

قرآن کریم نے متعدد مرتبہ اس کلام کو دہرا�ا ہے کہ ولقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مذکر، یعنی ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ اس پر عام طور پر یہ شبہ ہوتا ہے کہ قرآن کے علوم و معارف تو ایسے ہیں کہ بڑے بڑے عقلاً اور علماء کو اپنی عمر میں صرف کرنے کے بعد بھی ان پر احاطہ نہیں ہو سکا تو پھر اسکو آسان فرمانے کا کیا مطلب ہے۔

حضرتؐ نے ارشاد فرمایا کہ یہ یسر (آسانی) سائل میں ہے دلائل میں نہیں یعنی قرآن مجید نے جو احکام دیئے ہیں انکو سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں۔ البتہ ان کے دلائل اور حکمتیں اور شبہات کے جوابات ان میں یسر کا ذکر نہیں۔ وہ اپنی جگہ مخت اور غور و فکر چاہتے ہیں۔ حق کی شناخت اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی فطرت میں رکھ دی ہے اور اس کا علم ضروری دیا ہے ارشاد فرمایا کہ آج رات الحمد للہ ایک علم عظیم عطا ہوا وہ یہ کہ جو شخص کفار کے گھر میں پیدا ہوا نہیں میں پا اسکو یہ کبھی وسو سہ بھی نہ آیا کہ میں جو کام کر رہا ہوں یا اللہ تعالیٰ کے متعلق جو کچھ میرا عقیدہ ہے یہ شاید غلط ہوا کی طرح دوسرے کسی باطل کام میں جو شخص اس طرح رہتا تھا کہ یہ اسکو حق کا دھیان کبھی آیا ہی نہیں ایسے شخص کے متعلق مجھے ہمیشہ یہ خلجان رہتا تھا کہ یہ تو معدود قرار دیا جانا چاہیے۔ جہنم ابدی عذاب میں اس کا بتلا ہونا کبھی میں نہ آتا تھا کیونکہ ایسا آدمی جسکو خلاف کا وسو سہ اور دھیان کبھی نہیں آیا جس کی وجہ سے اسکو تحقیق کرنے کا موقع ملتا تو تحقیق نہ کرنا اس کے لئے کوئی جرم نہیں کہا جا سکتا مگر آج معلوم ہوا کہ حق کا علم ضروری اللہ تعالیٰ ان سب کو عطا فرمادیتے ہیں جن کو احکام کا مکلف کیا گیا ہے مگر بعض جگہ اس کا ظہور موائع کی کثرت کے سبب نہیں

ہوتا۔ ورنہ درحقیقت فطری اور ضروری طور پر اللہ تعالیٰ نے ہر مکلف انسان کو اتنی سمجھہ عطا فرمادی ہے کہ اگر وہ خالی الذہن ہو کر غور کرے تو اسکو یہ علم ضروری یقیناً حاصل ہو جائے گا (یعنی کم از کم اتنا ضرور سمجھہ جائے گا کہ میں خود اور یہ سارا عالم خود بخوبی بنانا۔ اسکا کوئی پیدا کرنے والا ہے اور یہ بھی کوہ پیدا کرنے والا سارے جہان سے زیادہ علم و قدرت رکھنے والا ہے اور وہ ایک ہی ہو سکتا ہے اور یہ کہ جس نے ہمیں اور سارے جہان کو پیدا کیا ہے اور ہر وقت اس کی طرف سے ہمیں نعمیں مل رہی ہیں ہمارا فرض ہے کہ اسکی پسند و ناپسند کو پہنچانیں اور ناپسند چیزوں سے اجتناب کریں اسکی پسند کے کام کریں اور جب اتنی سمجھہ آگئی تو اللہ کی پسند و ناپسند کی تحقیق کرنا اس پر لازم ہو گیا اور ذرا تحقیق کرتا تو معلوم ہو جاتا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنے پیغمبر اور اپنی کتابیں بھیجی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اعمال کی تاکید اور ناپسندیدہ سے پرہیز کرنے کی ہدایات ہیں۔ بس یہی مکمل ایمان اور حق پرستی ہے) غرض اللہ تعالیٰ نے حق کے پہنچانے کے لئے بہت راستے رکھ دیے ہیں اور ہر مشکل کا حل رکھ دیا ہے۔

در فیض است منشین نا امید این جا
بر گنگ دانه از هر قفل می روید کلید انجا

صوفی کی تعریف

ارشاد فرمایا کہ صوفی کا ترجمہ میرے نزدیک عالم باعمل ہے (لوگوں نے اس میں نہ جانے کیا کیا شرطیں قیدیں لگائی ہیں جو اسکی تعریف کا جزو نہیں بلکہ عمل کے ثمرات و برکات ہیں جو شخص کے لئے الگ الگ ہوتے ہیں)

ایک حدیث کی تشریح

مقاصد حسنہ میں علامہ سخاوی نے ایک حدیث نقل کی ہے اطلبوا الخیر عند حسان الوجوه یعنی جو لوگ شکل و صورت سے اچھے ہوں ان سے خیر اور بھلائی کی توقع رکھو۔ حضرت نے فرمایا کہ مولانا محمد یعقوب صاحبؒ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے صورت کو سیرت کا ترجمان بنایا ہے جس کو شخص اللہ نے صورت اچھی دی ہے وہ علامت ہے حسن سیرت کی اسی طرح جس شخص کی

شکل و صورت میں کوئی عیب ہے وہ بمقتضائے اصل علامت ہے عیب باطنی کی لیکن کسی خاص جگہ عوارض کی وجہ سے حال مختلف ہو جائے تو وہ ضابطہ کے خلاف منافی نہیں۔ شیخ سعدی نے اسی مضمون کو اس طرح بیان فرمایا ہے۔

گنة عفو کرد آل یعقوب را
حضرت امام باقرؑ کے واقعہ میں کہا گیا ہے۔
چشم ازرق موئی مے گون رنگ زرد
ایں چینیں کس با کے نیکی نکرد

مشائخ و علماء کیلئے ایک اہم وصیت

فرمایا کہ جس طرح کوئی طبیب ڈاکٹر یا ہار ہو جائے تو اپنا علاج خود نہیں کرتا وسرے معانع کی طرف رجوع کرتا ہے اسی طرح مشائخ وقت اور مقتداء لوگوں کو اگر کسی وقت اپنے نفس میں کوئی روحانی مرض محسوس ہو تو انکو چاہیے کہ کسی اپنے بڑے سے رجوع کریں اگرچہ وہ سلوک میں اپنے سلسلہ کا نہ ہو۔ مگر اہل حق میں سے تین سنت ہو۔ اور اگر کسی شخص کا ضابطہ کا کوئی بڑا نہ ہے (ضابطہ کا اس لئے کہا کہ حقیقت میں کون بڑا ہے اسکی خبر تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے) تو اسکو چاہیے کہ اپنے چھوٹوں میں ہی سے متعدد لوگوں کے سامنے اپنا حال پیش کر کے مشورہ لے۔ توقع ہے کہ صحیح علاج سمجھ میں آ جاوے گا۔

اتفاق اور اختلاف و شقاق کی اصل بنیاد

فرمایا کہ ہمارے حضرت مرشد فرمایا کرتے تھے کہ اتفاق کی بنیاد تو اضع پر ہے اسی طرح باہمی شقاق و منافرت کی بنیاد کبر ہے (اجتہادی مسائل میں اختلاف رائے و وسردی چیز ہے وہ کبھی شقاق و منافرت پر مبنی نہیں ہوتی) پھر فرمایا کہ الحمد للہ خانقاہ کے لوگوں میں باہمی کوئی اختلاف اور جھگڑا نہیں۔ سبب یہ ہے کہ سب میں تو اوضع ہے ہر ایک دوسرے کو بڑا اور بہتر سمجھتا ہے۔

حضرت شاہ الحق صاحب دہلوی کے متعلق ایک غلط فہمی کا ازالہ

مولانا محمد صدیق صاحب گنگوہی نے سید احمد خان صاحب بانی علی گڑھ کالج سے خود ناواہ فرماتے تھے کہ لوگ حضرت شاہ الحق صاحب محدث دہلوی کو متشدد کہتے ہیں مگر یہ بالکل غلط ہے ہم نے خود انکے معاملات کو دیکھا ہے وہ اپنے نفس کے معاملہ میں تو بیشک متشدد تھے کہ کسی خلاف اولی فعل کو اپنے لئے گوارانہ کرتے تھے مگر عام لوگوں کے لئے بڑے زم تھے۔ پھر کہا کہ میں نے سنا ہے کہ مولانا سید احمد صاحب گنگوہی بھی ایسے ہی ہیں انکا تشداداپنے نفس کے حق میں ہے۔

احقر کہتا ہے کہ میں نے اپنے حضرت حکیم الامت قدس سرہ کو بھی ایسا ہی پایا ہے اپنے نفس کے معاملہ میں سخت تھے۔ بعض چیزوں کے جواز کا فتویٰ لوگوں کو دیتے تھے مگر اس میں ذرا بھی شبہ ہوتا تو خود احتیاط فرماتے تھے۔ ایسے متعدد واقعات احقر کے سامنے پیش آئے بلکہ ایک واقعہ میں حضرت نے احقر ہی سے ایک فقہی سوال کا جواب لکھوا یا پھر اسکی تصدیق بھی فرمائی اور اسکے مطابق سب کو فتویٰ بھی دے دیا۔ لیکن اس میں ایک معاملہ اپنی ذات کا تھا تو خود اس فتویٰ پر عمل نہیں کیا بلکہ احتیاط پر عمل کیا۔ معاملہ کچھ خاندانی حقوق اور تقسیم میراث کا تھا جس کے لئے ہزاروں روپیہ اس احتیاط کی بناء پر حضرت نے ان عزیزوں میں تقسیم کیا جسکا حق معلوم ہوتا تھا۔ انگریزی رنگوں کی روشنائی جو لکھنے میں کام آتی ہے اس میں اپرث شامل ہونے کی خبر حضرت کو پہنچی اور بعض اپرث حرام ہونے کے ساتھ بھی ہوتے ہیں اور یہ معلوم نہیں کہ روشنائی میں کس طرح کا اپرث استعمال کیا جاتا ہے اس لئے شروع میں حضرت اس روشنائی سے لکھنے کو منع فرماتے تھے اور روشنائی سے لکھنے کا غذ کو جیب میں رکھ کر نماز پڑھنے کو بھی منع فرماتے تھے۔ پھر بعض لوگوں نے تحقیق کر کے ایک تو یہ بتایا کہ اس میں استعمال ہونے والا اپرث وہ نہیں جو ناپاک ہوتا ہے (یعنی جو کھجور یا انگور سے لیا گیا ہو) دوسرے واقعات یہ بتائے کہ اس زمانے میں اس اپرث سے کوئی چیز خالی نہیں۔ پر لیں میں چھپائی کے لئے جو روشنائی استعمال ہوتی ہے اس میں بھی اپرث ہے جس سے قرآن بھی چھاپے جاتے ہیں۔ جلد وں کے رنگ میں اپرث شامل ہے اسی طرح عام استعمالی

چیزوں میں کہیں نہ کہیں اپرٹ شاہل ہوتا ہے۔

اس پر حضرت نے فتویٰ گولوگوں کے لئے جواز کا دے دیا لیکن خود عمر بھرنہ یہ روشنائی استعمال فرمائی اور نہ رنگ کی روشنائی سے لکھنے ہوئے کاغذ کو جیب میں رکھ کر کبھی نماز پڑھی۔

ایک مرتبہ مجھے ایک کاغذ کسی کو دینے کے لئے عطا فرمایا جو رنگ سے لکھا ہوا تھا میں نے حضرت کے سامنے ہی جیب میں رکھ لیا۔ آپ خانقاہ سے مکان تشریف لے گئے وہاں جا کر یاد آیا کہ میں نے یہ کاغذ جیب میں رکھ لیا تھا تو وہیں سے آدمی بھیج کر متذمّب کیا کہ اس کاغذ کو جیب میں رکھ کر نماز نہ پڑھنا۔ مگر یہ سب اپنے عمل میں تھاد و سروں کے لئے جواز کا فتویٰ تھا کوئی روک ٹوک نہ تھی۔

بزرگوں سے حاصل کرنے کی اصل چیز، ایک تعلیم یافتہ کے خط کا جواب ایک انگریزی تعلیم یافتہ شخص نے خط میں لکھا کہ میں احکام شرعیہ سے کچھ واقف ہوں اور جتنا واقف ہوں ان پر عمل بھی کرتا ہوں لیکن میں اس چیز سے واقف نہیں کہ جو بزرگوں کی صحبت سے حاصل کی جاتی ہے۔ حضرت نے جواب میں فرمایا کہ وہ چیز تعلق مع اللہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ سے محبت و اطاعت کا گہرا تعلق (جسکی بناء پر احکام شرعیہ کی تعمیل آسان اور خلاف ورزی مشکل نظر آنے لگتی ہے) انہیں صاحب نے ایک بات یہ بھی لکھی تھی کہ میں چاہتا ہوں کہ عبادت کی دلی رغبت اور شوق پیدا ہو جائے اسکے جواب میں تحریر فرمایا کہ یہ امر غیر اختیاری ہے اسکے درپے نہ ہو۔

علم دین کا بے مثال ادب

فرمایا کہ حضرت مجدد الف ثانی ایک روز بیت الخلاء میں تشریف لے گئے اندر جا کر نظر پڑی کہ انگوٹھے کے ناخن پر ایک نقطہ روشنائی کا لگا ہوا ہے جو عموماً لکھتے وقت قلم کی روائی دیکھنے کیلئے لگالیا جاتا تھا فوراً گھبرا کر باہر آ گئے اور اسکے دھونے کے بعد تشریف لے گئے اور فرمایا کہ اس نقطہ کو بھی علم کے ساتھ ایک تلبیس و نسبت ہے۔ بے ادبی معلوم ہوئی اس کو بیت الخلاء میں پہنچاؤں۔ جو لوگ ہر وقت اپنے دل کو بری چیزوں سے صاف رکھتے اور اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کا ہر

وقت اہتمام رکھتے ہیں انکا بھی حال ہوتا ہے کہ ادنیٰ کوتاہی سے بھاگتے ہیں اور ادنیٰ سی نیکی کو بھی
چھوڑتے نہیں کیونکہ بعض اوقات ادنیٰ سی چیز محبوب حقیقی کی خاص توجہ سے جا بخاتی ہے۔
فراق دوست اگر اندر سست اندر نیست دوران دیدہ اگر نہم سوست بسیار است
یہ شرات و برکات عشق کے ہیں۔

مثنوی رومیٰ کے ایک شعر کی صحیح شرح

زان طرفہ کے عشق می افزود درد بو حنیفہ شافعیٰ در سے نکرد
اس شعر سے بظاہر یہ مفہوم ہوتا ہے کہ ابوحنیفہ و شافعی عشق مولیٰ سے خالی تھے اسی لئے انکی تعلیمات
میں درس عشق نہیں اور یہ واقعہ کے خلاف ہے کیونکہ جتنے آئمہ مجتہدین گزرے ہیں ان میں کوئی بھی
ایسا نہ تھا جو حق تعالیٰ کی محبت میں عشق کا درجہ نہ رکھتا ہو۔ امام غزالیٰ نے اپنی کتاب فاتحۃ العلوم میں
آئمہ اربعہ کے ایسے واقعات لکھے ہیں جن سے ان کا صاحب دل اور عاشق حق ہونا ثابت ہوتا ہے
اس لئے بظاہر مولانا رومیٰ کا یہ شعر خلاف واقع معلوم ہوتا ہے۔

حضرتؐ نے فرمایا کہ ہمارے حضرت حاجی صاحبؓ اس شعر کی شرح میں صرف ایک کلمہ فرمایا
کہ سب شبہات دور کر دیتے تھے وہ کلمہ یہ تھا (اے علماء ظاہر) یعنی یہاں ابوحنیفہ شافعی کے ناموں
سے خود یہ آئمہ مراد نہیں بلکہ مراد علماء ظاہر ہیں جیسے مشہور مثل (لکل فرعون موسیٰ) میں
فرعون و موسیٰ کے نام مقصود نہیں بلکہ گمراہ اور ہادی مراد ہیں اور ابوحنیفہ شافعی کو علماء ظاہر کہنا بھی عوام
کی سطحی اصطلاح کی بناء پر ہے ورنہ یہ بزرگ جیسے علماء ظاہر تھے ویسے ہی علماء باطن بھی تھے۔

شعبان ۱۳۵۰ھ

مصنفین کتب کے لئے خاص ہدایت

فرمایا کہ جب میں تصنیف کا کام کرتا تھا تو عادت یہ تھی کہ ہر وقت کاغذ پسل میری ساتھ
رہتے تھی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کوئی مضمون یاد آگیا تو فوراً لکھ لیتا تھا آدمی رات کو کوئی چیز یاد

آتی تو لکھ کر سوتا تھا کیونکہ بعض اوقات مضمون ذہن سے غائب ہو جاتا ہے سوچنے سے بھی یاد نہیں آتا۔ پھر فرمایا کہ اب توب سے فارغ ہو گئے ۔

فارغ از دندن دست و گریبان کردی اے جنوں گرد تو گردم کہ چاحسان کردی
 اصول شرعیہ کی رعایت کے ساتھ لوگوں کے نفیات کی رعایت کا اہتمام
 تعلیم و تبلیغ اور دعوت الی الخیر میں قرآن حکیم نے انبیاء علیہم السلام کو سب سے پہلے حکمت
 اس کے بعد موعظت حسنہ کی ہدایت فرمائی ہے ادع الی سبیل ربک بالحكمة
 والموعظة الحسنة۔ تجربہ شاہد ہے کہ دعوت حق کی تاثیر میں اسکو بڑا دخل ہے اور جہاں اس کا اثر
 نہیں ہوتا یا کم ہوتا ہے وہاں غور کیا جائے تو اکثر اس حکایت ربانی کی رعایت میں کمی و کوتا ہی اس کا
 سبب ہوتی ہے حضرت گوحق تعالیٰ شانہ نے جیسے علمی عملی ظاہری اور باطنی کمالات عطا فرمائے تھے
 اس طرح پیغمبر ان دعوت کے اصول بھی ہمیشہ متحضرا رہتے تھے۔ مریدین میں اہل علم حضرات جن کا
 اثر عوام پر ہوتا ہے ان میں سے کسی سے کوئی لغزش ہوتی تو اسکی معافی کے لئے یہ شرط ہوتی تھی کہ جو
 غلطی آپ نے علانیہ کی ہے اسکی توبہ بھی علانیہ ہوئی چاہیے تاکہ عوام میں جو غلط فہمی پیدا ہوئی اسکا
 کفارہ ہو جائے۔ اس لئے اشتہار و اعلان شرط ہوتا تھا بہت سے اہل علم حضرات نے ایسے اعلانات
 حضرت کے ایماء پر طبع کر کر شائع کر دیئے ہیں اسی سلسلے کے ایک بہت بڑے مشہور عالم کا واقعہ
 ہے کہ ان کے ایک معاملہ سے حضرت گورنچ پہنچا اور اپنے ساتھ خصوصی تعلق کو ختم کر دیا۔ یہ عالم
 حقیقتہ عالم اور طالب حق تھے۔ حضرت کے ترک تعلق کا ان پر بہت زیادہ اثر تھا۔ معافی تلاشی کی
 کوشش کی تو حسب عادت اعتراف غلطی کا اعلان کرنے کا حکم ہوا۔ مگر خود حضرت کو ان کی علمی
 شہرت و وجہت کی وجہ سے یہ احساس تھا کہ اعلان ایسا ہونا چاہیے جس میں غلطی کا اعتراف تو پورا
 ہو گرائیں گے جاہت اس سے متاثر نہ ہوتا کہ عوام و خواص کے علمی افادہ و استفادہ جوان سے متعلق ہے
 کوئی خلل نہ آئے۔

ان تمام رعایتوں کی جامع عبارت لکھنا خود ان عالم صاحب کے لئے دشوار ہو رہا تھا۔ حضرت نے

احقر کے سامنے فرمایا کہ لاڈ بھائی یہ ان سے نہ بن پڑے گا میں خود انکی طرف سے لکھنے دیتا ہوں۔ چنانچہ حسب ذیل مضمون تحریر فرمایا جس کا عنوان بھی اعتراف غلطی وغیرہ کے بجائے شکر نعمت رکھا کہ انکی علمی شہرت و حیثیت متاثر نہ ہو۔ اس میں حضرت سے اجازت لیکر بعض جملے خود ان بزرگ عالم نے پڑھائے۔ یہ مضمون حسب ایماء حضرت دیوبند کے ماہنامہ قاسم العلوم ماہ شوال ۱۳۵۳ھ کا ضمیمہ ہو کر شائع ہوا مضمون یہ ہے۔

شکر نعمت

چند سال پہلے اصلاح دار العلوم دیوبند کی نیت سے جو تحریک اٹھی تھی سب جانتے ہیں کہ اس میں یہ عاجز بھی حصہ دار تھا۔ سلسلہ واقعات نے تکونی طور پر جو صورت اختیار کر لی بلاشبہ وہ دار العلوم کے وقار اور مفاد و مصلحت پہنچانے والی تھی جس پر تمام درود مددان دار العلوم کی طرح اس عاجز کو بھی انتہائی قلق و تأسف تھا خصوصاً حضرت مخدومی و مطائی حکیم الامت مولانا تھانوی مدظلہم کے قلب گرامی پر اس کا اثر بہت زیادہ رہا۔

اس دوران میں سب سے بری چیز جو خصوصاً میرے قلب کو محروم و مصدوم کرنے والی تھی وہ حضرت مدوح کے دامن لطف و عنایت سے ایک طرح کا ظاہری انقطاب اور حضرت قاسم العلوم والخیرات نانوتوی قدس اللہ روحہ کے گھرانے سے ایک قسم کی بے تعلقی تھی۔

اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ بعض بھی خواہوں کی سعی جیل سے یہ صورت حال ختم ہوئی اور حضرت مولانا تھانوی مدظلہم کی دیرینہ شفقت میری تمنا اور خواہش پر عملی رنگ میں پھر عود کر آئی اور خاندان قاسمی سے بھی اپنے روایتی تعلقات پھر تازہ ہو گئے۔

حق سبحانہ و تعالیٰ کی یہ عظیم نعمت ہے کہ میرے بزرگ میری نیت کی طرف سے مطمئن ہیں اور میری کوتا ہیوں کو نظر انداز فرماتے ہیں۔ میں صدق دل سے اللہ جل شانہ کے انعام و احسان اور اپنے بزرگوں کی نوازش و قدر افزائی کا شکر گزار ہوں اور رب کریم سے حسن عمل کی توفیق چاہتا ہوں وہو المعین المستعان۔

ایک عبادت کے ایصال ثواب میں چند آدمیوں کو شریک کیا جائے تو ثواب

تقسیم ہو گا یا سب کو برابر ملے گا

ارشاد فرمایا کہ ایصال ثواب اگر چند لوگوں کو مشترک طور پر کیا جائے تو حضرت گنگوہی تقسیم کے قائل تھے لیکن بعد میں بعض روایات کی بناء پر میرا خیال یہ ہو گیا کہ سب کو برابر ثواب ملے گا اسکی تحقیق امداد الفتاوی میں مفصل لکھ دی گئی ہے۔ پھر فرمایا کہ اس میں بعد ہی کیا ہے حق تعالیٰ کی تو شان بہت بڑی ہے ایک چراغ سے سینکڑوں چراغ جلانے جاتے ہیں اس چراغ کی روشنی میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔

شیطان کو معلم الملکوت کہنے کی شهرت

ارشاد فرمایا کہ یہ بات بہت مشہور ہے مگر اسکی تصدیق کسی روایت سے نظر میں نہیں آتی اور نہ یہ بات فی نفسه سمجھ میں آتی ہے زیادہ زیادہ یہ توجیہ ہو سکتی ہے کہ وہ اس درجہ کا بڑا عالم تھا کہ معلم الملکوت ہو سکتا تھا۔ شعراء نے عموماً اسکو لیا ہے یہاں تک کہ خاقانی نے بھی اپنے نظموں میں لکھا ہے خاقانی بہت بڑے آدمی تھے مگر محقق بڑے نہ تھے۔

خلوق کی ناراضی میں بعض اوقات حکمت ہوتی ہے

ارشاد فرمایا کہ بعض اوقات حق تعالیٰ اپنے کسی مقبول بندے سے کچھ لوگوں کو بدگمان کر دیتے ہیں وہ ان کو برا کہنے لگتے ہیں۔ اس میں انکی مصلحت یہ ہوتی ہے کہ توجہ الی اللہ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے مولا نارویؒ نے فرمایا۔

خلق را با تو چنین بد خونکند

دنیا کی فکر سے آخرت کی فکر مقدم ہونا چاہیے

اس مضمون میں مولا نارویؒ کا یہ شعر ارشاد فرمایا۔

خواب چون آید ترا با یم حلقت

یعنی اگر تمھیں کسی جگہ اپنے کپڑے چوری ہو جانے کا خطرہ ہو تو رات کو نیند نہیں آتی لیکن جن کاموں میں جان کے ہلاکت میں پڑنے کا خطرہ ہو تو تمھیں ان کے ساتھ کیسے نیند آ جاتی ہے۔ اسی مضمون کو ایک بزرگ نے عربی شعر میں فرمایا۔

وَكَيْفَ تَنَمُّ الْعَيْنُ وَهِيَ قَرِيرَةٌ
لِعِنْيَ اَنْسَانٍ كَيْ آنَكَهُ تَهْنَدِيْ ہو کر آ رام کے ساتھ کیسے سوکھتی ہے جبکہ اسکو یہ خبر نہ ہو کہ دو مقام جنت و دوزخ میں سے کہاں اسکا نحکا نا ہو گا۔

بعض اوقات مہر بصورت قہر ہوتی ہے

ارشاد فرمایا کہ حالی مرحوم کا ایک مصروع ہے۔

مہر بانی کرتے ہیں نا مہر بانوں کی طرح

بعض اوقات کسی انسان کو ایک تکلیف میں بستا کیا جاتا ہے اور وہ درحقیقت اس سے بڑی کسی تکلیف کا علاج ہوتا ہے یہ چونکہ حقیقت سے بے خبر ہے اس لئے شور مچاتا اور پریشان ہوتا ہے۔

ایک آیت پر منطقی اشکال اور اس کا جواب

ارشاد فرمایا قرآن کریم میں ہے ولو علم الله فيهم خيراً اسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معروضون۔ منطقی قاعدے سے یہ قیاس کی شکل اول ہے جس کا نتیجہ یہ لکھتا ہے ولو علم الله فيهم خيراً التولوا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو ان میں کوئی بھلانی معلوم ہوتی تو یہ منہ پھیر کر بھاگتے۔ حالانکہ اہل علم جانتے ہیں کہ یہ نتیجہ کسی طرح صحیح نہیں ہو سکتا۔

فرمایا کہ جواب اسکا یہ ہے کہ مشکل اول کا نتیجہ جب صحیح لکھتا ہے جب حد اوسط مکرر ہو یہاں مکرر نہیں ہے کیونکہ لفظ اسمعهم جو مکرر آیا ہے وہ درحقیقت مکرر نہیں ہے کیونکہ ان دونوں لفظوں کے معنی الگ الگ ہیں کیونکہ پہلے جملے میں اسمعهم سے مراد وہ سماع ہے جو علم خیر کے ساتھ جمع ہوتا ہے یعنی سماع مقبول و موثر اور دوسرے جملے میں سماع سے وہ سماع مراد ہے جو علم خیر کی ساتھ جمع نہیں ہوتا یعنی صرف کافنوں سے سننا اور دل میں کوئی اثر نہ لیتا۔ اس لئے تقدیر عبارت دوسرے

جملے کی یہ ہے ولو اسمعہم مع عدم علم الخیر لتولوا یعنی اگر اللہ تعالیٰ یہ جانتے ہوئے کہ ان کو حق بات سنا تا مفید نہیں ہو گا پھر بھی سنا میں تو وہ سننے کے باوجود منہ پھیر کر بھاگے لیکن جیسے آیت ولو شاء اللہ ما اشر کنا جواہل جہنم بطور عذر کے کہیں گے یہ غلط ہو گا اور تقریباً یہی الفاظ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں ولو شاء اللہ ما اشر کوا یہ غلط نہیں وجہ یہ ہے کہ شاء اللہ کا مفہوم دونوں جملوں میں الگ الگ ہے پہلے جملے میں مشیت بمعنی رضا ہے یعنی اہل جہنم یہ عذر کریں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے شرک و کفر پر راضی نہ ہوتا تو ہم شرک کر ہی نہ سکتے تھے اور دوسرے جملے میں مشیت بمعنی ارادہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا اگر یہ ارادہ ہوتا کہ لوگ شرک نہ کریں تو انکو شرک کرنے کی قدرت ہی نہ ہوتی کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ارادہ پر کسی کا ارادہ غالب غالب نہیں ہو سکتا۔ اور بغیر اللہ کے ارادہ کے دنیا میں نہ کوئی اچھا کام ہو سکتا ہے نہ برا۔ البتہ رضا اللہ تعالیٰ کی اچھے کاموں کے ساتھ متعلق ہوتی ہے برے کاموں سے رضا متعلق نہیں ہوتی بلکہ برے کاموں سے اللہ تعالیٰ نار ارض ہوتا ہے۔

حکیمانہ جواب

ایک صاحب نے سورہ بت بت یادا الی لهب کچھ شہہات پیش کئے۔ یہ صاحب تعلیم یافتہ مگر علوم دین سے بے خبر تھے اور سوالات بھی دور از کار تھے حضرتؐ نے فرمایا کہ آپ سمجھنے نہیں سکتے۔ یہ بولے کہ عالم ہی کیا ہوا جو صحیح بات سمجھانے سکے۔ حضرتؐ نے فرمایا کہ آپ نے اقلیدس تو پڑھی ہو گی انہوں نے اقرار کیا۔ حضرتؐ نے فرمایا کہ اگر آپ کا نوکر گھوڑے کا سائس آپ سے پوچھئے کہ اقلیدس کے پہلے مقالہ کی پانچویں شکل کا ثبوت آپ اس طرح بیان کریں کہ میں سمجھ سکوں تو جو تقریر آپ اس وقت فرمادیں گے میں بھی اسکے سننے کا مشتاق ہوں۔ کیا آپ کے پاس اس کے سوا کوئی جواب ہو گا کہ اس کا ثبوت بہت سے اصل موضوع اور علوم متعارف پر موقوف ہے جب تک تم انکو نہ سمجھو۔ پانچویں شکل کو نہیں سمجھ سکتے۔

عقیدہ تقدیر کی حکمت

قرآن کریم نے مسئلہ تقدیر کی حکمت یہ بیان فرمائی ہے کہ لکھلا تاسوا علی مافاتکم ولا تفرحو بما اتا کم یعنی تقدیر خداوندی کے معتقد ہونے کا یہ فائدہ ہے کہ اگر تمھارا کوئی مقصود فوت ہو جاوے تو تم زیادہ افسوس اور رنج و غم میں نہ گھلو اور اگر کوئی مقصود حاصل ہو جائے تو بہت زیادہ خوشی جو تکبر و غرور تک پہنچائے اس میں بہلانہ ہو واقعی بات یہ ہے کہ جو شخص دنیا کے تمام واقعات و حالات کا خالق اور مالک اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جو کچھ دنیا میں ہوتا ہے وہ تقدیرِ الہی سے ہوتا ہے اور اس کا واقع ہونا ناگزیر ہے۔ کسی کی طاقت اسکو روک نہیں سکتی وہ عیش و مصیبت اور راحت و تکلیف کی دونوں حالتوں میں اعتدال پر رہتا ہے۔

حضرت نے فرمایا اسکی واضح مثال یہ ہے کہ دو شخص ہوں ایک قابل تقدیر دوسرا منکر تقدیر اور دونوں کے دولٹ کے ہوں اور دونوں اکلوتے ہوں اور دونوں ایک ہی وقت ایک ہی مرض میں بہلانہ ہو جاویں اور علاج معالجہ کے باوجود دونوں مر جاویں پھر دونوں کے متعلق یہ ثابت ہو جاوے کہ علاج میں غلطی ہو گئی۔ تو اب دونوں کا حال دیکھئے کہ منکر تقدیر کو عمر بھرا اضطراب اور بے چینی رہے گی۔ کبھی قرار نہ آئے گا اور قابل تقدیر کو اس طرح کا اضطراب نہیں ہو گا کیونکہ وہ سمجھے گا کہ یہ علاج کی غلطی بھی مقدر ہی تھی جس کا واقع ہونا ضروری تھا۔

دنیا کو اللہ تعالیٰ نے عالم اسباب بنایا ہے جو کچھ ہوتا ہے اسباب کے پردوں سے اسکا ظہور ہوتا ہے حقیقت ناشناس لوگ انہیں پردوں میں رکھ کر رہ جاتے ہیں اور جن کو حقیقت کا علم ہے اور جانتے ہیں کہ اسباب عالم سب پر دے ہیں اصل فاعل تو قدرت حق ہے حافظ شیرازی نے خوب

فرمایا۔

اين ہمه مستی و بیہوشی نہ حد بادہ بود
زگس متانہ کنایہ ہے عنایت حق سے۔

مدارس اسلامیہ کے لئے چندہ جمع کرنے کا طریقہ بقول حضرت شیخ الہند

ارشاد فرمایا کہ مولانا مبارک علی (سابق نائب مہتمم دارالعلوم دیوبند) سے مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ حضرت شیخ العرب و الحجج شیخ الہند مولانا محمود الحسنؒ کے سامنے کسی نے یہ شکل پیش کی کہ مدارس اسلامیہ کے لئے چندہ جمع کرنے میں بہت سے منکرات پیش آتے ہیں۔ لوگوں میں علم و علماء کی تحقیر پیدا ہوتی ہے وغیرہ الک اور چندہ نہ کریں تو ان مدارس کا کام کیسے چلے۔ حضرت شیخ الہندؒ نے فرمایا کہ چندہ کرو مگر غریبوں سے کرو۔ حضرت نے یہ روایت نقل کر کے فرمایا کہ یہ بالکل صحیح علاج ہے وجہ یہ ہے کہ غریب لوگ چندہ جمع کرنے والے علماء کو تحقیر نہیں سمجھتے تعظیم کے ساتھ پیش کرتے ہیں اور جو کچھ دیتے ہیں ان پر بار خاطر بھی نہیں ہوتا۔ خوشہ لی کے ساتھ دیتے ہیں جس میں برکت ہی برکت ہوتی ہے۔

مگر اس پر یہ سوال ہو گا کہ غریب لوگوں سے چندہ ملے ہی گا کتنا؟ مقدار چندہ بہت گھٹ جائے گی مگر یہ خیال اولاً تو یوں غلط ہے کہ دنیا میں ہمیشہ غریبوں کی تعداد زیادہ مالداروں کی کم رہی ہے۔ اگر سب غریب آدمی ایک آن دینے لگیں تو لاکھوں کی رقم جمع ہو جائے گی۔

دوسرا بات یہ ہے کہ اگر فی الواقع چندہ کم وصول ہو تو کام کو ای پیکانہ پر کرو زیادہ نہ بڑھاؤ کیا ضروری ہے کہ قدرت سے زیادہ بار اٹھایا جائے۔

مامون الرشید کا ایک عبرت آموز واقعہ

فرمایا کہ ایک شخص خلیفہ ہارون الرشید کے صاحبزادے مامون الرشید کے پاس آیا اور حج ادا کرنے کے لئے ان سے روپیہ مانگا۔ مامون الرشید نے کہا کہ اگر تم صاحب مال ہو تو سوال کیوں کرتے ہو۔ اور صاحب مال نہیں تو تم پر حج فرض نہیں اس نے کہا کہ میں آپ کو ایک بادشاہ سمجھ کر آیا ہوں مفتی سمجھ کرنیں آیا۔ مفتی تو شہر میں آپ سے زیادہ اچھے موجود ہیں۔ آپ مجھے فتویٰ نہ سنائیں جو دے سکتے ہیں دے دتھے ورنہ انکار کر دتھے۔ مامون الرشید کو اس کی بات پر پہنچی آگئی

اور حج کے لئے رقم دے دی۔

حضرت الحق صاحب محدث دہلوی کے جامع العلوم ہونے کا عجیب واقعہ حضرت امیر شاہ خان صاحبؒ جو حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ کے مرید خاص تھے اور بزرگان دہلوی کے واقعات سند کے ساتھ روایت کیا کرتے تھے انہوں نے فرمایا کہ حضرت شاہ الحسن صاحبؒ اپنے خاندان میں غبی مشہور تھے کیونکہ خاندان سارا اکابر علماء کا ہے ایک سے ایک بڑھ کر تھا اگر اس بزرگ کی جو اس خاندان میں غبی مشہور تھا ایک حکایت سنو تو تعجب ہوتا ہے واقعہ یہ ہے

کہ : ایک روز ایک طالب علم کو بے چین دیکھ کر شاہ صاحب نے وجہ پوچھی تو اولاً اس نے منتبرانہ طور پر انعام کیا کہ کچھ نہیں پھرا اصرار کرنے پر بتایا کہ شش بازنہ (فلسفہ کی مشہور درسی کتاب) کا ایک مقام حل نہیں ہوتا اور استاد سے اسکے بارے میں اختلاف ہو گیا۔ تین روز سے اس میں الجھا ہوا ہوں شاہ صاحب نے از روئے شفقت فرمایا ذرا ہمیں تو دکھاوا اس نے یہ سمجھ کر کہ ایک محدث علم آگے رکھ دی۔ حضرت شاہ صاحب نے اس مقام کا مطالعہ کر کے اس کی ایسی واضح تقریر کر دی کہ اسکے سب شبہات جاتے رہے۔ اب تو یہ طالب علم قدموں میں گر پڑا حضرت شاہ صاحب نے فرمایا میاں ہم نے پڑھا سب کچھ ہے مگر اسکو غوسمجھ کر چھوڑ رکھا ہے۔

فقہ سب فنون سے زیادہ مشکل ہے

ارشاد فرمایا کہ مجھے تو تمام علوم و فنون میں فقہ سب سے زیادہ مشکل معلوم ہوتا ہے اور تو اسعا یہ بھی فرمایا کہ مجھے تو اس فن سے مناسبت نہیں بالکل عاجز ہو جاتا ہوں۔

ملا خالد نقشبندی ترکی کا تقویٰ اور بزرگان دہلوی پر تنقید

حضرتؒ نے فرمایا کہ جس شخص پر رنگ فقہ اور فتویٰ کا غالب ہوتا ہے اسکے فتویٰ کا رنگ اور

ہوتا ہے کہ جزئیات میں تشدیکی عادت ہوتی ہے۔ جس پر حدیث کارنگ غالب ہوتا ہے اسکے فتویٰ کارنگ اس سے مختلف ہوتا ہے کہ اس میں کچھ توسع ہوتی ہے یہ ترکی بزرگ تھے اور ترکوں میں عموماً فقة اصول فقہ کارنگ غالب ہوتا ہے اسکا بھی یہی حال تھا۔ دہلی پنجھ تو بازار سے سودا کسی دوسرے کے ہاتھ نہ منگواتے تھے خود جا کر سودا خریدتے تھے اور فرماتے تھے کہ بازاروں میں عام طور پر بیوی فاسدہ رائج ہیں اس لئے دوسروں پر اطمینان نہیں ہوتا۔

دہلی میں کسی بزرگ کے قائل نہ تھے یہ کہتے تھے کہ یہ لوگ متین نہیں۔ دہلی کے اکابر علماء کے متعلق اس وقت انکی تحقیق یہ تھی کہ فرماتے تھے کہ عبدالعزیز آدمی ست عبدالقادر مسلمان ست و رفیع الدین ناصح برعلم خود غرہ می کند۔ پھر حضرت شاہ غلام علی قدس سرہ کی خدمت میں حاضری کا اتفاق ہوا تو رنگ عجیب دیکھا تو یہیں کے ہو رہے بیعت ہوئے مجاهدے کے اور انکے خلیفہ مجاز ہوئے اور سب تقویٰ کے دعوے رخصت ہو گئے۔

۱۹ ربیع الثابی ۱۳۵۸ھ

اکابر دیوبند کا اعدل و اعتدال

ٹھسکہ میں ایک بزرگ تھے بہادر علی شاہ صاحب سماع سنتے تھے مگر ذاکر شاغل عبادت گزار آدمی تھے۔ ہمارے بزرگوں کے معتقد بھی تھے۔ ایک مرتبہ پیران کلیر شریف کے سجادہ نشین نے حضرت مولانا نارشید احمد گنگوہی قدس سرہ سے بیعت ہونے کی درخواست کی تو حضرت گنگوہی نے انکو مشورہ دیا بہادر علی شاہ صاحب ٹھسکہ والے سے بیعت ہو جاویں۔ باوجود اختلاف مسلک کے بہادر علی صاحب کی طرف رجوع کرنے کا مشورہ اور خود بظاہر اس لئے نہ کیا کہ سجادہ نشین کو بہت سی رسوم کی شرکت

ضروری ہوتی ہے جو حضرت کے مذاق کے خلاف تھیں۔

لکھنؤ میں مدح صحابہ کی مجالس کے متعلق حضرت کا ارشاد

روافض کی تبراگوئی کے مقابلہ میں لکھنؤ کے بعض علماء نے مدح صحابہ کی جاری کی تھیں جس کے نتیجہ میں روافض کی تبراگوئی اور تیز ہو گئی۔ اس کے متعلق بعض حضرات نے حضرت سے سوال کیا تو حضرت نے انکو جواب لکھا جس کا خلاصہ بطور یادداشت کے ایک پرچہ میں لکھا ہوا تھا جس کی نقل یہ ہے۔

الجواب:- روى البخارى بسنده عن ابن عباس فی قوله تعالى ولا تجهر بصلوتك ولا تخافت بها قال نزلت ورسول الله صلی الله علیه وسلم مختف بسمکه کان اذا صلی باصحاب رفع صوته بالقرآن فاذاسمع المشرکون سبو القرآن ومن انزله ومن جاء به فقال الله تعالى لنبيه صلی الله علیه وسلم ولا تجهر بصلوتك ای بقراءتك فيسمع المشرکون فيسبو القرآن ولا تخافت بها من اصحابك فلا تسمعهم وابتغ بين ذالک سبلا.

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ خود قرآن کا جھر اور وہ بھی جماعت کی نماز میں امام پر واجب ہے اگر سب بن جائے قرآن کے سب و شتم کا تو ایسے وقت میں اتنے جھر کی ممانعت ہے کہ سب و شتم کرنے والوں کے کان میں آواز پہنچ جاوے تو مدح صحابہ کا اعلان و جھر کہ فی نفس واجب بھی نہیں۔ اگر سب بن جائے کے صحابہ کے سب و شتم کا تو ایسے وقت اسکا اتنا جھر کہ سب و شتم کرنے والوں کے کان میں آواز پہنچ کیسے منوع نہ ہوگا۔ ویؤیدہ وبزیل بعض الاشکالات الواردة علیه مافی روح المعانی تحت قولہ تعالیٰ ولا تسبو الذين يدعون من دون الله الاية (روح صفحہ ۲۱۹ ج ۷)

و استدل بالآية ان الطاعة اذا ادلت الى معصيته رائحة وجب تركها فان ما يعودى الى الشر شر وهذا بخلاف الطاعته في موضع فيه معصية لا يمكن دفعها وكثيرا ما يشتبهان ولذالم يحضر ابن سيرين جنازة اجتمع فيها الرجال والنساء وخالقه

الحسن قائلًا لو ترکنا الطاعة لاجل المعصية لاسرع ذلك في ديننا للفرق
 بينهما ونقل الشهاب عن المقدسي في الصحيح عند فقهائنا انه لا يشرك
 مايطلب لمقارنة بدعة كترك اجابة دعوة لما فيها من الملاهي وصلة
 الجنائز لنائحة فان قدر على المنع منع والا صبر و هذا اذا لم يقتدبه والا لا يقعد
 لان فيه شين الدين الى اخر ما فصله فليطالع ثمہ۔ اس آیت سے اپر استدلال کیا گیا
 ہے کہ جب کوئی طاعت معصیت راجحہ کا سبب بن جائے تو اس طاعت کو بھی چھوڑ دینا واجب
 ہو جاتا ہے کیونکہ جو چیز کسی شرکا سبب مودی بنے وہ بھی شر ہے اور یہ بات اس سے الگ ہے کہ
 کسی ایسی جگہ میں جہاں معصیت ہو رہی ہو اور اس کے دفع کرنے پر قدرت نہ ہو وہاں کوئی
 طاعت ادا کی جائے اور با اوقات لوگوں پر یہ دونوں چیزیں مشتبہ ہو جاتی ہیں۔ دونوں کا ایک ہی
 حکم سمجھ لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ابن سیرین اس جنائز میں شریک نہیں ہوئے جس میں مرد و عورتیں
 مخلوط شریک تھے اور حضرت حسنؓ نے اسکی مخالفت فرمائی اور کہا کہ اگر ہم معصیت کی موجودگی کی
 وجہ سے طاعت کو چھوڑ دیا کریں تو ہم بہت سی طاعات سے محروم ہو جائیں گے اور یہ ہمارے دین
 کی بر بادی کا آسان راستہ ہو گا۔ اور شہاب مقدسی سے نقل کیا ہے کہ صحیح ہمارے فقہاء کے زدیک یہ
 ہے کہ کسی طاعت مطلوبہ کو کسی بدعت کی مفارقت کی وجہ سے نہیں چھوڑا جاسکتا جیسے کسی ولیمہ کی
 دعوت نہ قبول کرنا اس بناء پر کہ وہاں لہو و لعب ہے یا جنائز میں شرکت نہ کرنا اس وجہ سے کہ وہاں
 کوئی نوحہ کرنے والی عورت ہے۔ بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ ولیمہ اور جنائز میں شریک ہو اور جو گناہ کا
 کام ہو رہا ہو اسکو روکنے پر قدرت ہو ورنہ صبر کرے اور یہ جب ہے کہ ایسا کرنے والا قوم
 کا مقتدانہ ہو اور اگر یہ مقتدا ہے تو اسکو شرکت نہیں چاہیے۔

نیز اس مضمون کی تائید علامہ شامی کے کلام سے بھی ہوتی ہے جو فصل اتباع الجنائز میں
 لکھا ہے۔

قول الله المختار (ولا یترک اتباعها لاجلهما) اى لاجل النائحة لان السنة لا

تُرک باقتراض البدعة ولا يردا الوليمة حيث يترك حضورها ببدعة فيها
للطريق بأنهم لو تركوا المشي مع الجنائز لزم عدم انتظامها ولا كذلك
الوليمة لوجود من يأكل الطعام (شامی صفحہ ۹۳۲)۔ جنازہ کے پچھے چنان اس بنا پر نہیں
چھوڑنا چاہیے کہ وہاں کوئی نوحہ کرنے والی عورت ہے کیونکہ اقتراض بدعت کی وجہ سے اصل سنت کو
نہیں چھوڑا جاسکتا اور یہ شبہ نہ کیا جائے کہ ولیمہ کی شرکت جبکہ وہاں کوئی بدعت ہو ترک کر دی جاتی
ہے کیونکہ اگر ناجع کردے جنازہ کی شرکت چھوڑ دی گئی تو جنازوں کا انتظام درست نہ رہے گا
بنخلاف ولیمہ کے کہ ایک نے نہ کھایا تو دوسرے کھانے والے موجود ہیں۔

آیت یفسد فیها و یسفک الدمامہ پر شبہ اور اس کا جواب از مولا نا

محمد یعقوب صاحب

اس آیت سے بظاہر یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ جوفساد اور خوزیری اس میں بیان کی گئی ہے یہ خود
آدم علیہ السلام سے سرزد ہو گی۔ حالانکہ وہ نبی مقصوم ہیں۔ اس کا جواب دوسرے حضرات نے تو یہ
دیا ہے کہ اس سے خود آدم علیہ السلام کی ذات مراد نہیں۔ بلکہ یہی آدم مراد ہیں۔ حضرت مولا نا محمد
یعقوب صاحب نے عجیب جواب یہ دیا ہے کہ یہاں فساد اور خوزیری کے شرعی معنی مراد ہی نہیں
بلکہ انغوی معنی مراد ہیں کیونکہ انسان جانوروں کو ذبح کر کے کھانے گا شکار کرے گا تو لغوی معنی کے
اعتبار سے یہ بھی زمین میں ایک فساد کی صورت ہے۔

حضرت کی خاص تواضع

فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس سے چاہیں اپنے دین کا کام لے لیتے ہیں یہ ضروری نہیں کہ جس
سے کام لیا جائے وہ عند اللہ مقبول ہی ہو۔ دیکھو چمار سے بیگار لی جاتی ہے مگر اس سے چمار کا کوئی
درجہ نہیں بڑھ جاتا وہ اپنی جگہ پر چمار ہی رہتا ہے۔ ہمارا حال بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں
کی کچھ خدمت ہم سے لے لیتے ہیں مگر اپنا حال ہم خود جانتے ہیں کہ ہم کہاں ہیں درجہ تو اللہ کے

نہ دیکھ صرف عالم باعمل کا ہے۔

حضرت فاروق اعظمؑ کے کرتے میں اکیس پیوند

شیخ دحلان نے اپنی کتاب فتوحات اسلامیہ میں نقل کیا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ میں نے حضرت عمر بن خطابؓ کو انکی خلافت کے زمانہ میں طواف کرتے ہوئے اس حالت میں دیکھا ہے کہ انکے گرتے میں اکیس پیوند لگے ہوئے تھے جن میں سے بعض کپڑے کے بھی نہ تھے۔

حضرتؒ نے فرمایا کہ حضرت شاہ عبدالقدوس گنگوہیؒ کا جب جوا بھی تک انکے خاندان میں محفوظ ہے اور سالانہ انکی زیارت کرائی جاتی ہے یہ بھی اس واقعہ کی یادگار ہے اور اصل سبب یہ ہے کہ حضرت شیخؒ کو یہ کرتے انکے شیخؒ نے عطا فرمایا تھا اس لئے ساری عمر اسکو اپنے بدن سے جدا نہیں کیا۔ جب میلا ہوتا تو دھولیتے جب پھٹ جاتا تو جس رنگ اور جس قسم کا کپڑا ابھا تھا لگ گیا وہ اس میں جوڑ دیا۔ یہ تھی اصل حقیقت اس جبکی۔

آج کل کے مصنوعی درویشوں نے انکی عجیب گستاخانی ہے کہ مختلف رنگوں کے ملکف کپڑے ایک خاص انداز سے جوڑے جاتے ہیں اور اسکو لباس درویشی سمجھا جاتا ہے۔

بڑوں اور بزرگوں کی رضا جوئی کا اہتمام

ارشاد فرمایا کہ حق تعالیٰ کی ہزاراں ہزار نعمتیں مجھ پر ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ میں نے کبھی اپنے کسی بزرگ کو ناراض نہیں کیا اور کبھی بے ادبی نہیں کی۔ اگر کبھی انکی طرف سے زیادتی بھی ہوئی تو میں نے یہ سمجھ کر نظر انداز کیا کہ انکے ذریعہ حق تعالیٰ نے مجھے علم کی ایسی بڑی دولتیں عطا فرمائی ہیں۔ اگر ایک تکلیف بھی پہنچ گئی تو کیا مصراحت ہے ۔۔۔

آزاد کہ بجائی تست ہر دم کرے عذر ش بند ارکن د بحرے سنتے

حضرت لقمان کا واقعہ یاد آیا کہ انکے آقا نے لکڑی بوئی جب تیار ہو گئی تو اپنے پاس منگائی اور اول اس کی کچھ قاشیں لقمان کو دیں انہوں نے کھالی اور کچھ نہ کہا پھر آقا نے خود کھائی تو دیکھا

کہ سخت کڑوی ہیں اس نے لقمان سے کہا کہ لقمان تم نے یہ کڑوی لگڑی کھالی اور کچھ کہا نہیں۔ حضرت لقمان نے کہا کہ جس شخص کے ہاتھوں ہزاروں شیریں چیزیں روز کھاتے ہیں اگر ایک روز اس سے کوئی کڑوی چیز مل جائے تو میرا کیا منہ ہے کہ میں اسکی تلنگی کا ذکر کروں۔

ارشاد

فرمایا کہ ہم بھی قصد کیوں کریں کہ اللہ کے سامنے جنید بنکر جاویں۔ اگر ججاج بن کے بھی جاؤ اور کہو کہ اللهم اغفر لی تو یہ بھی کافی ہے اور اگر جنید ہونے پر ناز ہونے لگے تو اس سے ججاج ہونا شاید بہتر ہو۔

ناز تقویٰ سے تو بہتر ہے نیاز رندی جاہزادہ سے پھر اچھی مری رسولی ہے

ایک تجربہ

فرمایا کہ بستی کے آدمی سے وفاء کی امید بہت کم ہوتی ہے اس لئے ملازم رکھتے تو باہر کا آدمی رکھتے۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے دو شعر

ای یو میں من الموت افر
یوم لا یقدر را و یوم قدر

یوم لا یقدر را یاتی القضا
یوم لا یقدر را یغنى حذر

یعنی کوئی موت سے بھاگنا چاہیں تو دو حال سے خالی نہیں یا تو اس روز میں اسکی موت مقدر نہیں یا مقدر ہے پہلی صورت میں تو قضاۓ اور موت آہی نہیں سکتی پھر ڈرنا کیسا اور دوسری صورت میں موت کا آنا یقینی ہے پھر بھاگنا کیسا۔ اسی کا ترجمہ کسی نے فارسی میں خوب کیا ہے۔

دوسرا حذر کردن از موت خطاست روز یکہ قضاۓ نباشد و روز کہ قضاۓ

حرف ضاد کی ادا یا گلی کا مسئلہ

فرمایا کہ قاری عبد الوحید صاحب مدرس تجوید دار العلوم نے ایک مرتبہ لکھا کہ میری تحقیق یہ

ہے کہ حرف ضاد اشہب بالفباء مگر اس طرح پڑھتا ہوں تو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بزرگوں کے طرز کے خلاف پڑھتے ہو۔ حضرت نے جواب میں تحریر فرمایا کہ اگر لوگوں کو رازق سمجھتے ہو تو ان کا اتباع کرو ورنہ صحیح پڑھنے پر قائم رہو۔

پھر فرمایا کہ یہ محسن نسلط ہے کہ ہمارے بزرگوں کا طرزِ دال مضمون پڑھنے کا تھا۔ کیونکہ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب کے پیچھے میں نے سینکڑوں نمازیں پڑھی ہیں نہایت صحیح ضاد پڑھتے تھے۔ قاری عبدالرحمٰن صاحب سے باقاعدہ مشق کی تھی۔

اور حضرت گنگوہیؒ کے ضاد کے متعلق قاری عنایت اللہ گنگوہیؒ سے دریافت کیا فرمایا کہ بالکل صحیح پڑھتے ہیں اور فرمایا کہ میں نے حضرت سے دو مرتبہ پورے قرآن کا دور کیا ہے آپکے حروف کو بالکل قواعد کے مطابق صحیح پایا ہے حضرت نے فرمایا کہ قاری عنایت اللہ صاحب گنگوہیؒ کچھ بدعاں میں بتتا تھے اور حضرت کو بدعاں سے سخت نفرت مگر اس زمانے میں بے تہذیبی نہ تھی اختلاف حدود پر رہتا تھا یہاں تک کہ آپس میں دور قرآن بھی ہوتے تھے۔

مناظرہ

حضرت نے فرمایا کہ مناظرہ کے ساتھ شوخی کچھ لازمی سی ہو گئی ہے۔ پہلے مجھے بھی مناظرہ کا شوق تھا تو کلام میں شوخی ہوتی تھی مگر اب تو اس سے نفرت ہے اب تو مذاق یہ ہے۔
تو برس قدر خویشتن باش و وقار
بازی و ظرافت بندی مان بگزار

حضرت مولانا شیخ محمد صاحب کا مناظرہ

فرمایا کہ حضرت مولانا شیخ محمد صاحب تھانوی کا عالمانہ تحریری مناظرہ مولانا عبدالحق خیر آبادی وغیرہ سے ہوتا تھا وہ تین آدمی تھے کی طرف سے ایک تحریر آتی تھی۔ ادھر سے مولانا جواب لکھتے تھے مگر مناظرہ نہایت متاثر کے ساتھ تھا ایک مرتبہ کسی تحریر میں انکی طرف سے ایک جملہ استہزا کا آگیا مولانا نے اسکا کچھ جواب لکھنے کے بجائے یہ لکھا کہ :
الاستہزا ينبع المراء كما ينبع الماء الكلاء۔ یعنی استہزا جھگڑا بہمی ایسا اگتا ہے

جیسے پانی گھاس اگتی ہے۔

لہذا جو بُش نظر انداز کر دہ شد آئندہ احتیاط دراند۔ حضرت نے فرمایا کہ مناظرہ اس طرز سے ہوتومضا آئندہ نہیں۔

علماء ربانی کا حلم و کرم

حضرت مولانا احمد علی صاحب محدث سہانپوری درس حدیث دے رہے تھے کہ ایک شخص نے آ کر کچھ گستاخانہ کلام کیا۔ طلباء میں شورش ہوئی اور اس سے انتقام لینا چاہا مولانا نے منع فرمایا اور فرمایا کہ بھائی بعض باتیں تو سچی بھی تھیں سب تو غلط نہیں کہیں اس لئے معاف کرنا چاہیے۔

طريق جذب و سلوک

اصول الی اللہ کے لئے دو طریقے ہیں ایک سلوک یعنی اپنے اعمال صالح اختیاریہ، دوسرا ہے جذب کہ خود حق تعالیٰ جل شانہ بغیر اسکے کسی کسب کے اسکو اپنا بنالیں۔ قرآن مجید کی آیت اللہ یجتبی الیه من يشاء و يهدی الیه من ينیب میں ان دونوں طریقوں کی طرف اشارہ ہے اجتنباء سے مراد وہ طریق ہے جسکو جذب کہا جاتا ہے اور بدایت و اتاب سے طریق سلوک کی تعبیر ہے اور حقیقت یہ ہے کہ جب تک یہ دونوں چیزیں جمع نہ ہوں وصول الی اللہ نہیں ہوتا۔ بندہ جب اپنا ارادہ اور اختیار اللہ کی راہ میں خرچ کرتا اور محنت اٹھاتا ہے تو رحمت حق متوجہ ہوتی ہے وہ ہی اس کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے جس سے وصول ہوتا ہے۔ ورنہ تنہا سلوک و کسب وصول کے لئے کافی نہیں ہوتا۔

تو مگر از طرف خویش بمن نزدِ کلی در نہ من از طرف خویش بغايت دو رم

حضرت مولانا صدقیق احمد صاحب انیسوی نے کیا خوب بات فرمائی کہ ہمارے بزرگوں کے طریق میں بہت جلد وصول ہوتا ہے حالانکہ مجاہدات زیادہ نہیں کرتے اسکا سبب یہ ہے کہ وصول الی اللہ کے لئے سلوک اور جذب دونوں کی ضرورت ہے ابتداء سلوک سے ہوتی ہے کہ بندہ اپنی مقدور بھر کوشش حق تعالیٰ تک پہنچنے کے لئے کرتا ہے مگر یہ کوشش وصول الی اللہ کے لئے کبھی کافی

نہیں۔ وصول جسکو ہوتا ہے وہ جذب ہی کے ذریعہ ہوتا ہے یعنی بندہ جب عمل شروع کرتا ہے تو رحمت حق متوجہ ہو کر اسکو اپنی طرف کھینچ لتی ہے اور وصول ہو جاتا ہے اور رحمت حق کی توجہ عمل مرضی و پسندیدہ پر موقوف ہے جو عمل سنت کے مطابق ہو اس پر رحمت حق جلد اور بہت جلد متوجہ ہو جاتی ہے۔ اور جس میں اتباع سنت کی کمی ہو اس پر رحمت جلد متوجہ نہیں ہوتی ہمارے بزرگوں کا طریق چونکہ سنت کے عین مطابق ہے اس لئے جذب جلد ہو جاتا ہے اور وصول بھی۔

حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ جس شخص کو وصول الی اللہ حاصل ہو جائے تو پھر وہ مرد دنیہیں ہوتا۔ بزرگوں کا مقولہ ہے الوائل لا یرجع اور بعض نے فرمایا کہ الفانی لا یرد اور ایسے قصے جو مشہور ہیں کہ بعض اولیاء اللہ معاذ اللہ بعد میں گمراہ ہو گئے وہاں درحقیقت وصول الی اللہ اور ولایت حاصل ہی نہ ہوئی تھی اس کا دھوکہ ہوا تھا۔ ورنہ حقیقت میں جسکو وصول ہو جائے پھر نہیں لوٹتا اور نہ پھر اس کو گمراہی کا خطہ رہتا ہے۔

ایک شخص کا خواب اور حضرت کی اسکو ہدایت

ایک صاحب نے اپنا خواب حضرت کی خدمت میں بغرض تعبیر بھیجا۔ خواب یہ تھا کہ ایک عالم صاحب کے مریدین کی ایک جماعت انکے پاس آئی اور عالم صاحب کی طرف سے کچھ تختے انکو دیئے۔ جن میں ایک کپڑے کے اندر بزرگوں کے مستعملہ سلے ہوئے کپڑے میں پھر ایک دوسرا کپڑا بھی ایسا ہی دیا گیا پھر ایک تیرا کپڑا دیا گیا جس میں چند بزرگوں کے مستعملہ کپڑوں کے نکڑے ہیں۔ بغرض تبرک یہی لئے گئے ہیں اور ان میں بتایا گیا کہ جواہر لال نہر اور گاندھی کے مستعملہ کپڑے بھی شامل ہیں۔ اس پر خواب دیکھنے والے صاحب خواب ہی میں برہم ہوئے اور کہا سچان اللہ کیا اولیاء اللہ کے ساتھ اعداء اللہ کو بھی شامل کر لیا گیا ہے میں تو اس کپڑے کو صرف استغباء کے لئے استعمال کر سکتا ہوں اس پر یہ جماعت برہم ہوئی خواب دیکھنے والے نے خواب ہی میں کسی عالم سے ان کو سمجھانے کے لئے کہا یہ عالم ایک چار پائی پر کھڑے ہو کر تقریر کرنے لگے اسی حالت میں آنکھ کھل گئی۔

خواب دیکھنے والے نے یہ بھی لکھا تھا کہ اس خواب کی تعبیر ہر طبقہ کے علماء سے دریافت کی گئی ہے حضرت نے اس کے جواب میں تحریر فرمایا:-

السلام علیکم! اول تو ہم لوگوں کے خواب ہی کیا اور اگر ہو بھی تو وہ ایسا امر اہم نہیں جسکی تعبیر کا خاص اہتمام کیا جائے کیونکہ نہ خواب جنت ہے نہ تعبیر جنت۔ پھر اگر اہتمام بھی ہو تو اس درجہ کا اہتمام کیوں کیا جائے ایک معتبر جس سے عقیدت ہواں سے پوچھ لینا کافی ہے اور مرئی لہ (یعنی جس کے متعلق خواب دیکھا ہے) سے عقیدت ہے تو اسکو سب پر ترجیح ہے۔

حضرت کو قتل کی دھمکی اور حضرت کا رد عمل

کسی صاحب نے ایک گمنام خط حضرت کے نام شائع کر دیا جس میں آپ کو قتل کی دھمکی دی گئی تھی۔ فتح پور کے لوگوں نے اس سے متاثر ہو کر خط لکھا جس میں اس خط پر اظہار ناراضی اور حضرت سے محبت و عقیدت کا اظہار تھا آخر میں بہت سے لوگوں کے دستخط تھے۔ حضرت نے اسکے جواب میں فرمایا مکرمی السلام علیکم! محبت کا شکر گزار ہوں مگر خیر خواہی سے اعتدال فی الجھۃ کا مشورہ دیتا ہوں اور اس اعتدال کی صورت یہ ہے کہ دعا کی جاوے اور اگر بہت جوش ہو انفرادی طور پر اسکا اظہار کر دیا جائے باقی دستخطوں کا اہتمام اور اس قدر تطویل مضمون غالباً یہ زیادت علی السنۃ ہے گو مغلوب الحجۃ معدود رہے مگر معدود رے محقق اچھا ہے۔

والسلام

یہ خط لکھا ہی گیا تھا کہ ایک پولیس سب انکپڑ آئے اور عرض کیا کہ ضلع اعظم گڑھ کے کلکٹر کی چیزی آئی ہے وہ پوچھتے ہیں کہ قتل کا جو خط آیا ہے کیا اس کے متعلق آپ کچھ چاہتے ہیں (غالباً ضلع اعظم گڑھ کا تھا) حضرت نے اسکے جواب میں سب انکپڑ پولیس سے کہہ دیا کہ میں کچھ نہیں چاہتا نہ امداد نہ تفتیش۔ حضرت نے فرمایا کہ قتل کی دھمکی کے خط نے مجھے بڑا فائدہ پہنچایا۔ جس قدر لوگوں کے حقوق میرے ذمہ تھے میں نے ان سب کو ادا کر کے سبکدوشی حاصل کر لی اس سبکدوشی کا میرے باطن پر ایسا اثر ہوا کہ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ (۹ ربیع الثانی ۱۴۵۸ھ)

تجوید قرآن کے معاملے میں افراط و تفریط

فرمایا کہ سلف صالحین میں تجوید حروف کا اتنا اہتمام نہیں کیا جتنا آج کل کے لوگوں میں ہے جسکی دو وجہ ہیں اول تو یہ کہ وہ عرب تھے انکو حاجت نہ تھی فطری طور پر ان کے حروف صحیح نکلتے تھے اور عجم کے لوگ انکی صحبت اور ان سے سیکھنے کی وجہ سے غلطیاں زیادہ نہ کرتے تھے۔ دوسرے یہ بھی ہے کہ ہر کام میں زیادہ تکلف پسند بھی نہ تھا آج کل اس میں غلو ہو گیا ہے کہ جو لوگ اس فن میں لگ جاتے ہیں تمام دوسرے ضروری امور سے غفلت بر تھے ہیں۔ دوسری طرف کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو تجوید حروف کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے۔ معاملہ اعتدال کا ہونا چاہیے۔

پانی پتی اور مصری لہجہ

ایک جلسہ میں پانی پتی اور مصری لہجہ کے دونوں قراءہ جمع تھے اور انکے آپس میں یہ تنازع تھا کہ پانی پتی والے مصری لہجہ والوں پر گانے کا الزام لگاتے تھے اور مصری لہجہ والے ان کو کہتے تھے کہ یہ ایسا پڑھتے ہیں جیسے رو تے ہیں۔ حضرت نے یہ فیصلہ فرمایا کہ جس طرح اوزان شعر پر کوئی آیت منطبق ہو جانے سے آیت کو شعر نہیں کہہ سکتے اسی طرح اگر قواعد غناء پر بلا قصد منطبق ہو جائے تو اس کو گانا نہیں کہہ سکتے ہاں قواعد موسیقی پر بلا قصد منطبق کیا جائے تو وہ غنا میں داخل ہے۔

قرآن میں وقف اور وصل کا حکم

فرمایا کہ اصل تحقیق یہ ہے کہ وقف نہ کسی جگہ منوع و ناجائز ہے اور نہ کسی جگہ ایسا لازم و ضروری کہ اسکے بغیر نماز نہ ہو یا قرأت غلط بھی جائے۔

پھر فرمایا کہ آیات اور چیز ہیں اور وقف اور چیز، آیات تو منقول کا اتباع ہے یہ ضروری نہیں کہ ہر آیت پر مضمون ختم ہوتا ہے اور اسکی مثال ایسی ہے جیسے نظم میں قطعہ بند کے دو شعر ملکر مضمون پورا ہوتا ہے مگر وہ شعر دو حصی کہلاتے ہیں۔ اسی طرح بعض جگہ دو یا زائد آیتیں مل کر مضمون پورا ہوتا

ہے مگر وہ دونوں آیتیں جدا جدا ہوتی ہیں اور اوقاف تالیع تفسیر ہیں اسی وجہ سے ان میں اختلاف ہے۔ غیر مقلدین یہ کہتے ہیں کہ ہر آیت پر وقف کرنا ضروری ہے اور غیر آیت پر وقف کرنا جائز نہیں۔

اخبار اور احبار کا الطیفہ

فرمایا کہ اخبار کا تو اعتبار پہلے سے نہ رہا تھا اب تو افسوس یہ ہے کہ اخبار کا اعتبار بھی مشکل ہو گیا۔

ہر کام میں حفظ حدود کی اہمیت

فرمایا کہ حق تعالیٰ نے صلحاء کی بہت سی تعریفیں سورہ توبہ کی اس ایک آیت میں جمع فرمائی ہیں جس میں التائبون الحمدون سے شروع ہو کر بہت سی صفات محمودہ بیان فرمانے کے بعد فرمایا و الحفظون لحدود اللہ اس سے معلوم ہوا کہ تمام صفات محمودہ اس وقت محمودہ ہیں جبکہ وہ اللہ کی مقرر کردہ حدود کے اندر ہیں ان میں افراط و تفریط یا غلو ہو گیا تو صفت محمودہ نہیں رہتی۔ اور ہر کام اس وقت صحیح و مقبول ہو گا جبکہ وہ حفظ حدود کے ساتھ ہو۔

ایک تجربہ کی بات

ارشاد فرمایا کہ مباحثات سے قلب کو خالی کرنے کا اہتمام مضر ہے۔ تجربہ سے معلوم ہوا کہ مباحثات کا اشتغال انسان کے لئے معاصی سے اجتناب میں معین ہوتا ہے اس لئے کچھ نہ کچھ مباحثات کا اشتغال رکھنا چاہیے مگر اس حد تک کہ تشویش نہ ہو اور غیر اختیاری طور پر کبھی تشویش بھی ہو جائے تو مضر نہیں۔

علمی انتہاط

فرمایا کہ پہلے بھی کچھ طلباء فاقد الاستعداد تو ہوتے تھے مگر فاسد الاستعداد نہ تھے۔ اب تو فاسد الاستعداد ہیں کہ تربیت و تعلیم کا بھی کچھ اثر نہیں ہوتا۔

دین پر پختگی کے ساتھ اسکی فکر کہ لوگوں کی دلشکنی نہ ہو

فرمایا کہ کشن پر شاد جور یا ست حیدر آباد میں بڑے رکن ہیں انکی لڑکیاں مسلمان ہیں اور ایک مرتبہ یہاں آئیں تو ہمارے گھر میں قیام کیا۔ ایک لڑکی نے درخواست کی کہ میں حضرت کے سامنے آنا چاہتی ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ اس درخواست کا یہ جواب میرے نزدیک متعین تھا کہ سامنے آنے کی اجازت نہیں لیکن یہ سوچتا تھا کہ عنوان کیا ہو جس سے دلشکنی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا تو میں نے ان سے یہ سوال کر لیا کہ وہ کچھ بات بھی کرنا چاہتی ہیں یا صرف سامنے آنا چاہتی ہیں انہوں نے کہا کہ بات بھی کرنا ہے تو میں نے کہہ دیا میرا طبعی امر ہے کہ جنہی عورت سامنے ہوتی ہے تو میں اس سے بات نہیں کر سکتا۔ پھر انہوں نے بھی اختیار کیا کہ پس پر دہ بات کر لیں۔ اس پر حضرت نے فرمایا کہ جو شخص پختہ ہو جائے یا کم از کم پختہ لوگوں کے مشابہ ہو جائے تو ان شاء اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کبھی شرمندگی اٹھانی نہ پڑے گی۔

تقویٰ میں رعایت حدود کے ساتھ رعایت قلوب بھی چاہیے

مولانا مظفر حسین صاحب کاندھلوی جو تقویٰ میں معروف عالم و بزرگ تھے ایک دفعہ دہلی سے کاندھلہ اپنے وطن آرہے تھے اس وقت تک ریل جاری نہیں ہوئی تھی بیل گاڑیوں میں سفر ہوتا تھا۔ مولانا نے دہلی سے ایک بیل گاڑی کرایہ پر لی۔ راستے میں بطور مرودت بہلبان سے گفتگو شروع کی اس میں یہ پوچھا کہ گاڑی تمہاری اچھی ہے کہاں سے لی ہے اس کی زبان سے نکلا کہ یہ گاڑی فلاں طوائف کی ہے کرایہ پر چلتی ہے میں اس کا ملازم ہوں۔ یہ سکر دل میں تو یہ طے کر ہی لیا کہ اب اس گاڑی پر سوار نہ ہوں گے مگر اس کے اظہار میں بہلبان کی دل شکنی سمجھ کر ایک حیلہ کیا کہ پیشاب کے حیلہ سے اترے اور پیشاب کرنے کے بعد پیادہ چلنے لگے بہلبان نے عرض کیا کہ بیٹھ جائے عذر کر دیا کہ بیٹھنے بیٹھنے تھک گیا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر اس نے کہا پھر بھی وہی جواب دیا۔ اسی طرح کئی مرتبہ کہنے کے بعد اس کو یہ احساس ہوا کہ اب یہ گاڑی میں بیٹھیں گے نہیں تو اس نے عرض کیا کہ حضرت میں اب سمجھا ہوں کہ آپ کو جب سے یہ معلوم ہوا کہ گاڑی طوائف کی ہے آپ اس

میں بیٹھنا نہیں چاہتے تو اب اگر یہی رائے ہے تو مجھے اجازت دے دیجئے میں دہلی واپس چلا جاؤں۔ فرمایا کہ ہاں بات تو یہی ہے مگر میں تمہارا یا مالکہ کا نقصان بھی برداشت نہیں کر سکتا اس لئے کا ندھلہ چلکر تمہاری اجرت اور جملہ حقوق ادا کرنے کے بعد جانے دوں گا۔ پھر ایسا ہی کیا حضرت نے یہ واقعہ نقل کر کے فرمایا کہ خشک تقویٰ تو آسان ہے مگر ان بزرگوں کا تقویٰ بر ا مشکل تھا جو حدود کی رعایت کے ساتھ قلوب کی رعایت کو بھی جمع فرماتے تھے۔

مولانا مظفر حسین کی عقیدت حضرت حاجی صاحب کے ساتھ
مولانا مظفر حسین صاحب حضرت حاجی امداد اللہ صاحب قدس سرہ کے متعلق فرمایا کرتے تھے کہ یہ آج کل کے بزرگوں میں سے نہیں جنید و شبلیؒ کے طبقہ میں سے ہیں۔

ارشاد

فرمایا کہ جب تک کوئی شخص خود اپنی اصلاح کا قصد نہ کرے کسی معلم و مرشد کی تعلیم و تربیت کچھ مفید نہیں ہوتی اور نہ کسی کی دعا، عادتاً موثر ہوتی ہے۔ دیکھ لجئے رسول اللہ ﷺ سے زیادہ کون معلم اور مرشد اور مقبول الدعا، ہو سکتا ہے۔ آپ کے چچا ابو طالب آنحضرت ﷺ کے معتقد بلکہ عاشق تھے اور آنحضرت ﷺ کو بھی انکے ساتھ شغف تھا کہ یہ کسی طرح ایمان لے آؤں اور آخر تک برابر اسکی تدبیریں کرتے رہے مگر خود چونکہ انہوں نے اسکا قصد نہ کیا تو کوئی تدبیر کا رگرہ ہوئی۔ آیت قرآن انک لاتھمدی من احیبت ولكن اللہ یهدی من یشاء کی تفسیر میں مشہور تو یہی ہے کہ یشاء کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہے اور یہ صحیح ہے لیکن ایک دوسری توجیہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یشاء کی ضمیر من کی طرف راجع ہو تو اسکا یہی مطلب ہو گا کہ اللہ تعالیٰ ہدایت اسی کو کرتے ہیں جو خود اپنی ہدایت کا طالب اور خواہش مند ہو۔ اس مفہوم کی تائید قرآن کریم کی ایک دوسری آیت سے بھی ہوتی ہے من ارادا لا خرة و سعى لها سعیها۔

ایک نہایت اہم مختصر جامع ارشاد

ارشاد فرمایا کہ یہ ایک جملہ ہے جو صد ہابر س کی تحقیقات کا خلاصہ اور طریق تصور کی پوری حقیقت اور تمام گراہیوں اور پریشانیوں سے نجات ہے کہ انفعالات غیر اختیاری اور افعال اختیاری ہیں اور وہی اس طریق میں مطلوب ہیں انفعالات مطلوب نہیں انکی فکر میں پڑنا خود اپنے لئے پریشانی خریدتا ہے۔

حقیقت دنیا

ارشاد فرمایا کہ دنیا ایک حالت عاجله ہے اور اسکی دو قسم ہیں ایک معین فی الدین دوسرے مانع عن الدین پہلی قسم دنیا کی محمود ہے اور دوسری قسم نہ موم اور ضابطہ سے ایک تیسری قسم بھی ہو سکتی ہے کہ جو دین کے لئے نہ معین ہونے اس سے مانع ہو مگر یہ تیسری قسم بھی دوسری قسم نہ موم کے ساتھ ملک ہے کیونکہ ایک عبث اور لا یعنی فعل ہے اور لا یعنی فعل کم از کم انسان کو اسوقت کی برکت اور حسنات سے تو محروم کر دیتا ہے اس لئے ایک حیثیت سے وہ بھی مانع عن الدین ہی ہو گیا۔ اور مولانا احمد حسن صاحب امر وہی نے ایک جملہ بہت اچھا اس معاملہ میں ارشاد فرمایا وہ یہ کہ لفظ دنیا ایک تو دین کے بال مقابل بولا جاتا ہے وہ تو مطلق نہ موم ہے اور کبھی یہ لفظ آخرت کے مقابلہ میں بولا جاتا ہے اس میں یہ تفصیل ہے کہ جو دنیا خود مطلوب بذاته ہو آخرت کے لئے نہ ہو وہ تو نہ موم ہے اور جو دنیا آخرت کے لئے مطلوب ہو یعنی جس کے حاصل کرنے سے مقصود دین اور دینی مقاصد ہوں وہ محمود ہے اور فرمایا کہ دنیا کے بارہ میں ایک بزرگ نے چند اشعار میں خوب فرمایا۔

دید دنیا بصورت بکرے

عارفِ خواب رفت در فکرے

بکر چونی باں ہمہ شوہر

کرد ازوے سوال کے دلبر

کہ مر اہر کہ بود مر دخواست

گفت یک حرف بال تو گوئی راست

زین بکارت ہمیں بجاست مرزا

وانکہ نامرد بود خواست مرزا

سرم مجدوب کے چند اشعار

نعم کہ کباب می خور دمی گز رد
 ورنہ بادہ ناب می خور دمی گز رد
 سر مرد کہ بکار سے گدا لی نان را
 تر کردہ بآب می خور دمی گز رد
 سر مرد غم عشق بو الہوں راندہ هند
 ایں دولت سر مرد ہمہ کس راندہ هند
 ایں دولت سر مرد ہمہ کس راندہ هند
 عمرے باید کہ یار آید بکنار

حالات روحانی و نفسانی اور مقامات تصوف کی اصطلاح

ارشاد فرمایا کہ سالکین کو جو حالات اس طریق میں پیش آتے ہیں وہ دو قسم ہیں ایک حالات روحانی دوسرے نفسانی۔ حالات روحانی روح کے ایسے اوصاف ہیں کہ بعد موت و مفارقت بدنی بھی باقی رہتے ہیں جیسے مشیت، محبت، توکل، صبر، شکر، اخلاص، صدق وغیرہ یہ حالات بدن کے ضعف سے ضعیف نہیں ہوتے اور مفارقت بدن کے بعد بھی قائم رہتے ہیں اور شورش جوش خروش وغیرہ۔ یہ حالات نفسانی ہیں جو جسمانی ضعف کی وجہ سے ضعیف بھی ہو جاتے ہیں اور موت و مفارقت بدن کے بعد باقی نہیں رہتے۔ حالات نفسانیہ بیشتر کم عقل لوگوں کو پیش آتے ہیں کامل اعقل لوگوں میں یہ حالات بہت کم ہوتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ یہ حالات یکسوئی کے محتاج ہیں اور ذہن آدمی کو یکسوئی بہت کم ہوتی ہے بھی وجہ ہے کہ اس قسم کے حالات امت کے سب سے اعلیٰ طبقہ یعنی حضرات صحابہ پر طاری نہیں ہوئے کیونکہ وہ حضرات نہایت کامل اعقل تھے۔ دوسرے یہ حالات عموماً قوت اور شباب کے زمانہ میں ہوتے ہیں ضعف اور بڑھاپے میں کم ہو جاتے ہیں۔
 البتہ حالات نفسانیہ میں کچھ حالات لطیفہ ایسے بھی ہیں جو کامل اعقل لوگوں کو پیش آتے ہیں مثلاً اگر یہ وہ بکا۔ جو حضرات صحابہ سے بکثرت منقول و مأثور ہیں۔ ایک صاحب حضرت گنگوہی کے مزید مغلوب المال تھے تھے تھے کیسا تھوڑتھے رہتے تھے۔ لوگوں نے حضرت سے دریافت کیا تو فرمایا کہ وہ مغلوب الحال ہیں اور ایسے حالات سالک کو پیش آجائے ہیں۔ دریافت کیا گیا کہ کبھی آپ کو بھی یہ حال پیش آیا ہے فرمایا کہ میں کوئی یوقوف تھا جو مجھے پیش آتا۔ اس سے بھی مضمون مذکور کی تائید ہوئی کہ ایسے حالات از کیا، کو پیش نہیں آتے۔ حضرت جنید بغدادی نے ایسے ہی

حالات نفسانیہ کے متعلق فرمایا ہے تلک خیالات تربی بھا اطفال الطریفہ۔ یعنی یہ خیالات ہیں جن کے ذریعہ طریقت کے نابالغ بچوں کو تربیت دی جاتی ہے اعمال میں لذت اور جوش خروش کی یہی مصلحت ہے کہ ضعفاء کو اس سے آسانی ہو جائیگی۔ بزرگوں نے ان کے آنے جانے کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ مولانا فرماتے ہیں ۔

روز ہاگر رفت گور دباک نیست تو بمان اے آنکہ چون تو پاک نیست

حالات اور مقامات میں فرق

ارشاد فرمایا کہ جب تک حالات روانی میں چیخنگی نہیں آتی اس وقت تک وہ حالات کہلاتے ہیں اور جب ان میں چیخنگی حاصل ہو جائے تو انہیں کو مقامات تصوف کہا جاتا ہے۔ لوگوں نے خدا جانے کیا کیا گھڑ رکھا ہے اور حقیقت اس سے زائد نہیں کہ حالات باطنہ راستہ کا نام مقامات ہے۔

حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب کی تربیت میں مارپیٹ کی سزا فرمایا کہ مولوی احمد الدین صاحب حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب کے شاگرد تھے مگر اپنی زوجہ پر بہت تشدید کرتے تھے۔ حضرت کو اطلاع ہوئی تو مجمع کے سامنے انکو خوب پیٹا اور فرمایا کہ مجھے طلاق کا وکیل بناؤ۔ مولوی صاحب کی خوبی یہ ہے کہ بیٹھے پتے رہے ذرا حرکت نہ کی اور فوراً حضرت کو وکیل بالطلاق بنادیا۔ پھر حضرت نے حالات و معاملات کی تحقیق فرمائی تو زیادتی واقعی مولوی صاحب کی ثابت ہوئی اس لئے انکی بیوی کو بحیثیت وکیل انکی طرف سے طلاق دے دی۔ حضرت نے فرمایا کہ انکی اس فرمانبرداری اور اطاعت کی برکت یہ ہوئی کہ ایک عرصہ کے بعد ان سے چھناری میں ملاقات ہوئی تو انکی شکل و صورت چال ڈھال سب حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب جیسا ہو گیا تھا یہاں تک کہ ابتداء میں پہچان نہیں سکا۔

اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا انعام

یہ ہے کہ اس نے اپنے خطاب اور اپنے سے دعاء و درخواست کرنے کے لئے سادہ الفاظ یا اللہ یا الہی کو جائز کر دیا۔ القاب و صفات کے بغیر۔ ورنہ دنیاوی معمولی ریس بھی اپنے سامنے کسی درخواست کے پیش کرنے کے لئے بغیر خاص القاب کے راضی نہیں ہوتے۔

شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ

نے فرمایا کہ جو شخص اپنا بڑا ہاپا عافیت سے گزارنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ حسن صورت اور حسن صوت سے احتراز کرے۔

ایک اہم نصیحت

فرمایا کہ جس شخص کی حالت بیداری درست تابع شریعت ہو وہ خواب میں کتنی ہی اپنی حالت کو خراب دیکھے کہ خزریر کا گوشت کھالیا یا معاذ اللہ کلمہ کفر بول دیا اسی ہی اور چیزیں دیکھے تو واللہ جو اسکو ایک رائی دانے کی برابر بھی اسکا اثر لیتا جائز ہو۔ اپنے کام میں لگا رہنا چاہیے اور طبعی طور پر بہت پریشانی ہی ہو تو حسبا اللہ ونعم الوکیل پڑھ لینا کافی ہے۔

مولانا شناع اللہ امرتری اہل حدیث کا منصفانہ مشورہ

خواجہ عزیز الحسن صاحب کے عزیزوں میں ایک صاحب غیر مقلد تھے۔ لکھنؤ میں میراوعظ ہوا اس میں شریک ہوئے تو بہت متاثر ہوئے۔ مولانا شناع اللہ امرتری سے اجازت طلب کی۔ میں فلاں عالم کے وعظ میں شریک ہوا تو مجھے بڑا نفع معلوم ہوا۔ میرا دل چاہتا ہے کہ کچھ دنوں کے لئے ان کے پاس جا کر رہوں۔ جواب دیا کہ ضرور رہو۔ انکی صحبت میں برکت ہے۔ پھر یہ صاحب کچھ دن یہاں آ کر رہے۔ جب رخصت ہونے لگے تو کہا کہ میں نے کسی چیز کو یہاں خلاف حدیث نہیں پایا۔ بجز اسکے کہ صوفیہ کے خاندانوں کی چار تقسیم چشتیہ نقشبندیہ وغیرہ۔ خلاف سنت معلوم ہوتا ہے حضرت نے فرمایا کہ اول تو یہ تقسیم کوئی شرعی تقسیم نہیں محض اصطلاح ہے اس لئے کوئی بدعت نہیں

دوسرے یہ تقسیم کسی کے نزدیک بھی کوئی ضروری چیز نہیں آپ کو کامل اختیار ہے کہ اپنے آپ کو ان میں سے کسی طرف بھی منسوب نہ کریں۔

اہل طریق کے لئے ایک مجرب اکسیری نسخہ

طریق تصوف کے سالکین کو جو مشکلات پیش آتی ہیں ان کے بارہ میں فرمایا کہ جو شخص وساوس میں بنتا ہوئے ہوئے وسو سے اسکی دل میں آتے ہوں وہ اس سے پریشان ہوا کہ علاج میں ترک التفات کا جو نسخہ میں بتاتا ہوں لوگ اسکی قدر نہیں کرتے۔ کوئی مجھ سے اسکی قدر پوچھئے کہ بڑی مشقت کے بعد یہ نسخہ اکیرہ تھا آیا ہے۔ جس زمانے میں مجھے باطنی تکلیف پیش آئی اور شورش بڑھکئی تو حضرت گنگوہیؒ نے یہی نسخہ تجویز فرمایا تھا اور آخر تک یہی نسخہ رہا۔ پھر اسی سے آرام ہوا۔ حدیث میں جو وساوس کے متعلق رسول اللہ ﷺ کا یہ ارشاد آیا ہے کہ فلینته یعنی اسکو آگے رک جانا چاہیے اسکی تفسیر علماء نے یہی کی ہے کہ ان وساوس کی طرف التفات چھوڑ دے۔

نجات کی دو ہی صورتیں ہیں کہ علوم قرآن و سنت میں یا خود ماہر و محقق ہو یا پھر

کسی ماہر کا مقلد

ارشاد فرمایا کہ آیت قرآن لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اضاحب السعیر ۔ یہ اہل جہنم کا قول ہے جو دخول جہنم کے وقت کہیں گے جس کا حاصل یہ ہے کہ اگر ہم دو صفتون میں سے کسی ایک صفت کے بھی حاصل ہوتے تو جہنم میں نہ جاتے وہ یہ کہ یا تو ہم دین کے عالموں کی بات سنتے مانتے یا خود اپنی عقل سے دین کے احکام سمجھتے۔ اس سے ثابت ہوا کہ نجات ان دونوں طریقوں میں منحصر ہے۔

حضرت گنگوہیؒ کی ایک حکیمانہ نصیحت

حضرت گنگوہیؒ نے فرمایا کہ ریاضات و مجاہدات کا اصل مقصد یہ ہے کہ ملانکہ اللہ کے ساتھ تکبہ اور قرب ہو وہ انسان کو جبھی حاصل ہو سکتا ہے کہ نہ بھوک کی کلفت ہونہ بہت کھانے کا

کسل کیونکہ جس طرح پیٹ بھرنے کا کسل قلب کو مشوش کر کے ملائکہ سے بعد کا سبب بنتا ہے ایسے ہی بھوک کی کلفت جو مشوش کرے وہ بھی مانع توبہ بالملاک ہے۔

حضرت حاجی صاحب نے فرمایا تھا کہ اس طریق میں اصل چیز جمعیت خاطر ہے تشویش کے اسباب سے بہت بچنا چاہیے۔ کاملین کے لئے تو بڑی بڑی چیزیں بھی جمعیت خاطر میں خلل انداز نہیں ہوتیں مگر مبتدے اనے اور ضعفاء کیلئے ذرا ذرا اسی مخالف چیز تشویش قلب کا سبب ہو کر جمعیت خاطر کو رخصت کر دیتی ہے۔ فرمایا کہ میں تو ضعفاء کو اسی لئے یہ مشورہ دیتا ہوں کہ معاش اور گزارے کا اتنا سامان کر لیا جاوے جس سے تشویش سے نجات ہو پریشانی نہ ہو۔

اور اصل یہ ہے کہ لوگوں کے مزاج اور مذاق مختلف ہیں بعض کو سامان جمع ہونے سے تشویش ہوتی ہے اور بعض کو نہ ہونے سے۔ اس لئے ہر ایک مزاج کے لئے نسخہ جدا ہے اور اولیاء اللہ میں دونوں طرح کے نظائر موجود ہیں۔

ایک نہایت اہم ارشاد

فرمایا کہ سالک کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنے شیخ کی تعلیم وہدایت کا پیرور ہے۔ فن کی کتابیں دیکھ کر خود عمل کرنا غلطی ہے۔ فرمایا کہ فن کی کتابیں مبتدیوں کے لئے نہیں بلکہ منطبقی اور ماہرین کے لئے ہوتی ہیں۔ مبتدی کی کتاب تو اسکا شیخ ہے اسکو دیکھئے اس سے پوچھئے اور عمل کرے۔ جیسے طب اور ڈاکٹری کی کتابیں حکیموں ڈاکٹروں کے لئے ہیں وہ ہی ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں مریض خود ڈاکٹری کی کتابیں دیکھ کر استعمال کرنے لگے تو اسکی جان کو خطرہ ہے۔

ارشاد

فرمایا کہ ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے بڑوں کے مشورہ کا پابند رہے خود رائی سے کام نہ کرے۔ اور فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایسا ہو جس کے سر پر کوئی ضابطہ کا بڑا موجود نہ ہو تو وہ کیا کرے ارشاد فرمایا کرائے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بھاری علم عطا فرمایا ہے وہ یہ کہ ایسا شخص اپنے چھوٹوں کو ہی جمع کر کے مشورہ کرے۔ سب کی رائے سن کر جس کی رائے پر اسکا قلب مطمئن ہو جائے اس

پر عمل کرے۔ اس طریق میں خود رائی کی آفت سے بھی نجات ہوگی اور مشورہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ خیر کی طرف ہدایت بھی فرمادیں گے۔

حضرت خضر علیہ السلام کی حیات و ممات میں اختلاف

ارشاد فرمایا کہ اس مسئلے میں اختلاف معروف ہے حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نے حیات کے قول کو اختیار فرمایا اور یہ کہ ہر سو سال کے بعد ان کا شباب عود کر آتا ہے اس لئے ضعف نہیں ہوتا۔ حضرت مجدد الف ثانی کے نزدیک انکی وفات ہو چکی ہے اور اہل کشف کو جوان کے تصرفات دنیا میں محسوس ہوتے ہیں یہ تصرفات روحانی ہیں جو موت کے بعد بھی قائم رہتے ہیں۔

لباس میں تکلف بیکاری اور پست ہمتی کی علامت ہے

ارشاد فرمایا کہ میں جب کسی کو دیکھتا ہوں کہ لباس پوشک میں تکلف کا پابند ہے تو دو چیزوں پر استدلال کرتا ہوں ایک یہ کہ یہ نکما آدمی ہے دوسرے یہ کہ بہت پست حوصلہ ہے کیونکہ اگر یہ کام کا ہوتا اور کسی بڑے مقصد کی طرف اسکی نظر ہوتی تو اس میں وقت ضائع نہ کرتا۔

باشند اہل باطن در پے آرائش ظاہر

بزرگانِ دیوبند کا امتیازی وصف

ارشاد فرمایا کہ اپنے بزرگوں میں جو خاص بات امتیاز کی ہے وہ یہی ہے کہ انہیں کوئی تصنیع اور امتیاز نہیں۔ عوام کے ساتھ رلے ملے رہتے ہیں۔

گنگوہ کے ایک حافظ معلم قرآن

حافظ حسین علی صاحب گنگوہ میں ایک متقدی بزرگ تھے۔ وہاں لاں مسجد میں امام اور مسجد کے مکتب میں بچوں کے معلم تھے ایک مرتبہ کچھ گاؤں کے لوگ آئے اور ان کو اپنے یہاں لی جانا چاہا۔ انہوں نے فرمایا کہ بھائی میں حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی کا خادم ہوں اپنے کام میں خود مختار نہیں۔ حضرت سے اجازت لے لو تو چلا جاؤں گا۔ ان لوگوں نے حضرت سے عرض کیا تو

حضرت نے فرمایا کہ واہ میاں گنگوہ میں ایک ہی تو مسلمان ہے وہ بھی تمھیں دے دوں، حافظ صاحب کی خشیت کا یہ حال تھا کہ بچوں کی تعلیم میں کبھی انکو مارنا پینا بھی پڑتا تھا تو پھر یہ خوف ہوتا تھا کہ شاید مجھے سے کچھ زیادتی ہو گئی ہو تو بچوں کو بلا تے اور کہتے کہ بھائی ہم نے تمھیں مارا ہے تم ہمیں پیٹو۔ بعض شریڑ کے اس کے لئے تیار بھی ہو جاتے اور مارتے تھے۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اسکی خبر ہوئی تو میں نے کہا کہ ان کے اس فعل کا منشاء تو بہت اچھا ہے مگر یہ فعل تربیت کے خلاف ہے اس میں بچوں پر کیا اثر رہے گا۔ اچھی صورت یہ ہے کہ ان سے بعد میں ایسا برداشت کیا جائے جس سے وہ خوش ہو جاویں۔

حضرت جنید بغدادی اور ایک چور

حضرت جنید بغدادی نے ایک شخص کو سولی پر لڑکا ہوا دیکھا پوچھا اس نے کیا جرم کیا ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ یہ عادی چور ہے۔ پہلی مرتبہ کی چوری میں اسکا داہنا ہاتھ کاٹا گیا۔ بازنہ آیا تو پھر بایاں پاؤں کاٹا گیا پھر بھی بازنہ آیا یہاں تک کہ سولی کی نوبت آئی۔ حضرت جنید آگے گئے بڑھے اور اسکے پاؤں کو آنکھوں سے لگایا اور بوسہ دیا۔ لوگوں نے حیرت سے پوچھا یہ کیا تو فرمایا کہ میں نے انہکے پاؤں کو بوسہ نہیں دیا بلکہ اسکے وصف استقامت و استقلال کو بوسہ دیا ہے جو اسکے اندر تھا اگرچہ یہ اسکو شر اور معصیت میں صرف کر کے خود برباد ہوا۔ کاش ہمیں یہ استقلال اعمال خیر کے معاملات میں حاصل ہو جائے۔

حضرت نے یہ واقعہ نقل فرما کر ارشاد فرمایا کہ سبحان اللہ ان حضرات کی نظر کس قدر عمیق ہوتی ہے کہ ہر چیز کی حدود ہر حال میں محفوظ رہتی ہیں کہ چور کے عمل بد کی اپنی جگہ اور اسکے اندر جو عمدہ ملکہ استقلال و استقامت کا تھا اسکی خوبی اپنی جگہ دونوں کا حق ادا کیا۔

انشاء شاعر کا ایک شعر حضرت بہت پسند فرماتے تھے۔

تصدق اپنے خدا کے جاؤں یہ مجھ کو آتا ہے پیار انشاء
ادھر سے ایسے گناہ چیم ادھر سے یہ دمدم عنایت

فتوات عراق کے وقت حضرت فاروق اعظمؑ کی دعائے عارفانہ

جب فتح عراق کے وقت وہاں کے خزانہ حضرت فاروق اعظمؑ کی خدمت میں پیش ہوئے تو ان کو دیکھ کر یہ دعا کی اللهم کثرت رعیتی و وہنت قوتی فاقبضنی الیک غیر مفتون - یعنی یا اللہ میری رعیت زیادہ ہو گئی اور قوت کمزور ہو گئی تو آپ مجھے اب اپنی طرف اس طرح انھالیں کہ میں فتنوں سے محفوظ رہوں - اور بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ قرآن کریم کی آیت زین للناس حب الشهوات سے معلوم ہوا کہ ان چیزوں کی محبت آپ نے انسان کی فطرت میں ڈال دی ہے اس لئے اسکی دعائیں کرتا کہ یہ فطرت بدل دی جائے بلکہ یہ دعا کرتا ہوں کہ انکی محبت آپ راستہ کے میں ہماری معین بن جائے - مانع اور مضر نہ بنے - حضرت نے یہ دعا نقل کر کے فرمایا کہ بس یہ ہے صاف اور سید حاصلوک و تصور اسی کو حضرت حاجی صاحب نے فرمایا کہ اس طریق میں رذائل کا بالکل ازالہ مقصود نہیں بلکہ امالہ یعنی ان کو دین کی طرف مائل کرنا اور انکار خ دین کی طرف پھیر دینا مقصود ہے عارف روی نے خوب فرمایا ہے -

شہوت دنیا مثال گلخن ست
کہ از وجہ امام تقویٰ روشن ست

شاہ شجاع کرمانیؒ کی لڑکی کا بے مثال زہد

فرمایا کہ جیسے حضرت ابراہیم بن ادھم کا واقعہ ترک سلطنت کر کے درویشی اختیار کر لینے کا معروف و مشہور ہے - اسی طرح ایک بزرگ شاہ شجاع کرمانی کا واقعہ ہے وہ بھی سلطنت چھوڑ کر درویش بن گئے تھے مگر انکی عزت و جاہ ملوک و سلاطین علماء صلحاء میں بہت زیادہ تھی - انکی ایک لڑکی جوان تھی اور یہ چاہتے تھے کہ کسی دیندار آدمی سے اسکا نکاح کر دیں - اس زمانے میں دینداری کی بڑی علامت احسان الصلوٰۃ تھی یعنی نماز کو پورے آداب اور خشوع کے ساتھ اس طرح ادا کرنا کہ گویا یہ خدا کو دیکھ رہا ہے یا خدا اس کو دیکھ رہا ہے -

شاہ شجاع نیک صالح آدمی کی تلاش میں تھے ایک روز مسجد میں ایک نوجوان کو دیکھا کہ

اچھی طرح خشوع و خضوع سے نماز پڑھ رہا ہے۔ اسی وقت ارادہ کر لیا کہ اس سے نکاح کریں گے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو اسکے پاس جا کر سلام کیا اور حال پوچھا کہ کہاں کے رہنے والے ہیں کیا خاندان ہے؟ معلوم ہوا کہ شریف آدمی ہیں مگر غریب اور مفلس۔

شاہ شجاع نے اس سے پوچھا کہ آپ کی شادی کہیں ہو گئی ہے یا نہیں؟ اس نے کہا جی میں ایک بہت غریب اور مفلس آدمی ہوں مجھے کون اپنی لڑکی دینے لگا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نامید کیوں ہوتے ہو تم نے کہیں کوئی پیغام بھی دیا ہے۔ اس نے کہا کہ جب مجھے معلوم ہے کہ میرا پیام رد کیا جاوے گا تو کیوں خواجناہ پیام دیکھ رسو ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ اچھا تم اس پر راضی ہو کہ شاہ شجاع کرمانی کی لڑکی کی شادی تم سے ہو جائے؟ تو نوجوان نے کہا کہ حضرت کیوں میرے ساتھ دل لگی کرتے ہیں۔ کہاں میں اور کہاں شاہ شجاع کرمانی۔ نام بھی لوں گا تو پٹوں گا۔ اب انہوں نے ظاہر کر دیا کہ میں ہی شاہ شجاع کرمانی ہوں اور اپنی لڑکی کا عقد تم سے کرنا چاہتا ہوں۔ اس پر بھی نوجوان نے کہا کہ اگر آپ راضی ہیں تو کیا ضروری ہے کہ لڑکی راضی ہو جائے۔ فرمایا کہ میں اس سے دریافت کر چکا ہوں وہ راضی ہے۔

اب تو نوجوان نے اللہ تعالیٰ کا شکردا اکیا کہ میں کہاں اس قابل تھا شاہ شجاع نے اسی وقت نکاح پڑھا اور اسی وقت کوئی چادر یا برقع اڑھا کر لڑکی کو اس نوجوان کے گھر لے گئے۔ جو ایک شکستہ مکان تھا۔ کسی سامان کا نام نشان نہ تھا۔ لڑکی دروازے کے اندر داخل ہوئی تو اپنے والد شاہ شجاع سے کہا کہ ابا جان آپ نے مجھے کہاں ڈبودیا ہے۔ نوجوان نے سنکر کہا کہ دیکھنے میں آپ سے کہتا تھا کہ لڑکی میری ایسی شنگدتی کی حالت پر کیسے راضی ہو سکتی ہے۔

اب تو لڑکی خود بولی کہ آپ نے کیا سمجھا ہے کہ میں نے اپنے والد صاحب سے کس چیز کی شکایت کی ہے۔ بات یہ ہے کہ میرے والد نے مجھے سے کہا تھا کہ میں تمہارا نکاح ایک زاہد شخص کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں میں اس پر راضی ہو گئی۔ مگر جب میں آپ کے گھرے میں داخل ہوئی تو ایک گھر پر باسی روٹی رکھی ہوئی نظر آئی میں نے اسکو زہد کے خلاف سمجھا کہ روٹی باسی بچا کر رکھی

جائے۔ اس لئے والد صاحب سے شکایت کی کہ مجھ کو کہاں ڈبو دیا یہ آدمی تو زہد نہیں ہے باسی روٹیاں انھا کر رکھتا ہے۔

اس پر نوجوان نے کہا کہ میرا آج روزہ ہے خیال یہ تھا کہ شام کو افطار کے لئے باسی روٹی انھا کر رکھ دوں کہ تکلیف نہ ہو۔ لڑکی نے کہا کہ میرے زدیک بھی تو زہد تو کل کے خلاف ہے۔ جس کے لئے روزہ رکھا ہے اس پر اطمینان نہیں کہ وہ افطاری بھی دیگا۔ سبحان اللہ۔

حکایت نقل کر کے حضرت نے فرمایا کہ یہ حکایات ہیں عورتوں کو سنانے کی مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ انکے ساتھ ایسا معاملہ کیا جائے لیکن اسکے سنبھال سے انہیں اللہ کی نعمتوں کا مشاہدہ ہو جائے گا۔ میں کہا کرتا ہوں کہ اس میں عقل کام نہیں دیتی جب تک دولت باطن نہ عطا ہو یہ حالت نہیں ہو سکتی کیونکہ ظاہری عقل میں تو یہ بات نہیں آتی۔ جب تک کہ دولت دنیا سے بڑی کوئی دولت سامنے نہ ہو۔ انکے زہد اور ترک دنیا کا یہ اعلیٰ مقام ذکر کرنے کے بعد حضرت نے فرمایا کہ اب میں آخری بات کہتا ہوں کہ یہ زمانہ ضعف کا ہے۔ سالکین کے لئے سہولت بھم کرنے کا ہے بقدر ضرورت سامان کر لیتا خلاف زہد نہیں مگر اس اعلیٰ زہدوں سے کم از کم محبت و عقیدت تو رکھیں انکو حقیر تونہ سمجھیں۔

مصلح اور معانی کو حقیقت شناس ہونا چاہیے

ارشاد فرمایا کہ ایک صاحب جو میرے مخصوصین میں سے ہیں انہوں نے ایک بڑی رقم کا صدقہ کرنا اپنے اوپر بطور جرمانہ اور سزا کے لازم کر لیا۔ میں نے انکو منع کر دیا کہ تمہیں ایک پیسہ خرچ کرنے کی اجازت نہیں۔ کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ خرچ کر دیں گے تو سخت تشویش میں پڑ جائیں گے۔ معلوم ہوا کہ کبھی نفس کا علاج مالی خرچ کرنے میں ہوتا ہے کبھی خرچ نہ کرنے میں۔

ایک تر کی درویش خلیل پاشا

فرمایا کہ مکہ معتظہ میں ایک تر کی بزرگ خلیل پاشا تھے پہلے نبوغ کے گورنر تھے پھر عہدہ چھوڑ کر درویشی اختیار کر لی تھی اور انگلی درویشی کا بھی ایک واقعہ ہے کہ ان کے والد بڑے درویش اور

اپنے وقت کے شیخ تھے۔ حضرت حاجی صاحبؒ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے ایک روز شکایت کی کہ افسوس کہ میرا بیٹا خلیل دنیادار ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا غم نہ کرو وہ بھی تم جیسے ہو جاویں گے۔ چنانچہ تھوڑے عرصہ میں اُنکے قلب میں خود بخود انقلاب آیا اور عہدہ چھوڑ کر درویش ہو گئے۔

حضرت نے فرمایا کہ میں نے کبھی ان سے ملاقات نہیں کی تھی۔ ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ کوئی بزرگ مجھ سے کہتے ہیں کہ تم خلیل پاشا سے کیوں نہیں ملتے۔ میں نے کہا کہ کچھ ضرورت نہیں سمجھی اور یہ مثال دی کہ جسکو بیت اللہ کے پاس جانا ہو وہ اگر ایک راستہ اور ایک دروازہ سے داخل ہو کر بیت اللہ تک پہنچ گیا تو اسکے لئے کیا ضروری ہے کہ وہاں سے لوٹے اور کسی دوسرے راستہ اور دوسرے دروازے سے پھر بیت اللہ تک پہنچ وہ بزرگ خاموش ہو گئے۔ میں نے صبح کو یہ خواب حضرت حاجی صاحبؒ سے بیان کیا۔ حضرتؒ نے فرمایا کہ ان سے ضرور ملاقات کرو۔ جب میں نے عرض کیا کہ اب حضرت کے حکم سے جاؤں گا۔ چنانچہ میں حاضر ہوا تو خلیل پاشا نے فرمایا کہ میں تین زبانیں جانتا ہوں ترکی، فارسی، عربی۔ میں آپ سے کس زبان میں بات کروں۔ میں نے عرض کیا کہ ترکی زبان تو میں نہ سمجھ سکتا ہوں نہ بولنے پر قادر ہوں عربی کو سمجھتا ہوں بولنے پر پوری طرح قادر نہیں۔ فارسی زبان کو سمجھتا بھی ہوں بول بھی سکتا ہوں آپ اسی میں گفتگو فرمائیں۔

خلیل پاشا نے بہت سی باتیں کیں ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ میں نے مختلف ممالک کے علماء کو دیکھا ہے ہندوستان کے علماء سے بہتر کسی کو نہیں پایا میں نے پوچھا کہ آپ نے ان میں کونسا صفاتی امتیازی پایا ہے تو فرمایا کہ وہ محبت دنیا نہیں ہیں۔

جنگ آزادی کے ۵۰ ہی ایک حکایت

فرمایا کہ ہمارے ماموں امداد علی صاحبؒ فرماتے تھے کہ غدر ۵۰ ہی میں ایک مقام پر بہت سی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ ایک لالہ جی (بنیہ) دور سے کھڑے تماشہ دیکھ رہے تھے۔ لاشوں میں سے ایک زخمی نے جو ابھی مرانہیں تھا آواز دی کہ لالہ جی ذرا یہاں آؤ۔ لالہ جی گھبرا گئے کہ مردہ بول پڑا۔ آواز سنتے ہی بھاگنے لگے۔ اس نے پھر آواز دی کہ لالہ جی گھبراو نہیں میں مردہ نہیں

ہوں زخمی ہو گیا ہوں مر نے والا ہوں اور میری ہمیانی میں بہت سارو پیہ بندھا ہوا ہے۔ میں نے چاہا کہ اب یہ روپیہ میرے تو کسی کام آنہیں سکتا۔ آپ یہاں آگئے تو آپ ہی کو دے دوں۔ روپیہ کا نام سن کر لالہ جی پکھل گئے اور ڈرتے ڈرتے پاس آئے جب بالکل قریب آگئے تو اس زخمی نے تلوار اٹھا کر لالہ جی کی ٹانگ کاٹ دی۔ لالہ جی گر پڑے۔ مگر گرتے ہی اسکی کمر ٹوٹی کہ روپیہ ہو تو کھول لوں زخمی نے کہا کہ لالہ جی باوے لے ہوئے ہو۔ جنگ میں کوئی روپیہ کمر کو باندھ کر بھی لا یا کرتا ہے اصل بات یہ تھی کہ میرے آس پاس سارے مردوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں رات کو میں اکیلا رہتا ہوں محض موانت کے لئے تھیں اپنے ساتھ کر لیا ہے کہ رات کو بات چیت تو رہے گی اور بغیر زخمی ہوئے تم یہاں کہاں مٹھرتے اس لئے تمہارے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا۔ لالہ جی غصہ میں بھر کر بولے مکام کا اوت کے اوٹ نہ خود چلیں نہ دوسروں کو چلنے دیں۔

ماموں صاحب نے یہ حکایت بیان کر کے فرمایا کہ آج کل اللہ کے راستہ میں لوگوں کا یہی حال ہے کہ خود تو چلتے نہیں اور کوئی دوسرا چلنا چاہے تو اسکی راہ میں روڑے انکاتے ہیں۔

جو کسی بڑے سے بڑے ظالم پر بھی ظلم کرے گا اس سے بھی اللہ انتقام لے گا ایک بزرگ کی مجلس میں ایک شخص نے حجاج بن یوسف کی طرف کوئی عیب منسوب کیا اس بزرگ نے پوچھا کہ تمہارے پاس اسکا کوئی شرعی ثبوت اور جدت موجود ہے کہ حجاج نے ایسا کیا تھا مگر انکی سنی سنائی بے دلیل بات تھی تو ان بزرگ نے فرمایا کہ خوب سمجھو لو کہ حجاج کتنا ہی بڑا ظالم ہی اور یہ بھی صحیح کہ اللہ تعالیٰ اس سے ہزاروں بلکہ لاکھوں مظلوموں کا انتقام لے گا مگر یہ بھی اپنی جگہ صحیح ہے کہ اگر کسی نے اس پر ظلم کیا تو اللہ تعالیٰ اس سے حجاج کا بھی انتقام لے گا۔

بزرگان دیوبند کا اصل امتیاز

ارشاد فرمایا کہ میں جو اپنے بزرگوں کا معتقد ہوں اسکی بناء یہ نہیں کہ یہ دنیا میں سب سے بڑے عالم ہیں۔ کیونکہ مجھے یہ اختال ضرور ہے کہ زمانے میں کچھ علماء ان سے بھی بڑے موجود ہوں اگرچہ ہمیں معلوم نہ ہوں بلکہ میرے اعتقاد کی بنیاد اس پر ہے کہ یہ لوگ اللہ والے تھے دنیا دار نہ

تھے۔ دنیا میں رہتے تھے مگر درحقیقت دنیا کی انکو ہوا بھی نہ لگی۔ انکا جو کام تھا وہ دینی داعیہ سے تھا خواہ اس میں اپنی تمام مصالح بر باد ہو جائیں۔

احقر جامع کہتا ہے کہ خواجه عزیز الحسن مجدوبؒ نے انہی بزرگوں کا حال اس شعر میں ضبط

کیا ہے ۔

دنیا میں ہوں دنیا کا پرستار نہیں ہوں
بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں

امام غزالیؒ کے ایک مقولہ کی تشریح اور جواب شبہ

امام غزالیؒ نے فرمایا ہے کہ کوئی شخص کسی کو ہدیہ اس نیت سے دے کہ وہ صالح اور بزرگ ہے تو اگر وہ شخص واقع میں صالح نہ ہو تو اسکو ہدیہ قبول کرنا جائز نہیں۔

حضرتؒ کے شاگرد مولوی رشید احمد صاحب کانپوری نے اس پر یہ شبہ پیش کیا کہ اس سے تو یہ لازم آتا ہے کہ ہدیہ قبول کرنا کسی کے لئے بھی کسی حال جائز نہ ہو۔ کیونکہ اگر وہ اپنے آپ کو صالح سمجھے تو وہ حقیقت میں صالح نہ رہا کیونکہ اس نے اپنے نفس کا ترز کیا یعنی اسکو گناہوں سے پاک صاف قرار دیا جسکی قرآن میں ممانعت آتی ہے فلا تزکو انفسکم خلاصہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو صالح سمجھنا خود بنی اور ترز کیہ نفس نہ ہونے کی بناء پر حقیقت میں صالح ہونے سے مانع ہے اس لئے ہدیہ لینا ناجائز ہوا اور اگر وہ اپنے کو صالح نہ سمجھے تو بقول امام غزالیؒ اسکو ہدیہ لینا یوں ناجائز ہو گیا۔

حضرتؒ نے فرمایا کہ مراد امام کی یہ ہے کہ جو شخص اپنے قصد و ارادہ سے کسی شخص کے دل میں اپنے صالح اور بزرگ ہونے کا اعتقاد خود پیدا کرے اور وہ اس سے متاثر ہو کر ہدیہ پیش کرے تو اس کا قبول کرنا اس کے لئے ناجائز ہے۔

اہل کمال کی تعداد ہر زمانے میں تھوڑی رہی ہے

فرمایا کہ اہل کمال ہر زمانے میں بہ نسبت دوسروں کے تھوڑے ہی رہے ہیں مگر چونکہ

ہمارے سامنے چودہ سو برس کی تاریخ ہے اس میں اہل کمال کا مجموعہ کثیر نظر آتا ہے ورنہ موجودہ زمانے میں بھی اہل کمال اسی نسبت سے موجود ہیں (گود رجہ کمال میں انحطاط ہو)۔

علم پر عمل اور تقدس کے بغیر لوگوں پر تعلیم کا اثر نہیں ہوتا

فرمایا کہ مولانا عبد اللہ سندھی کی روایت ہے کہ وہ شبلی نعمانی سے ملنے اور ان سے پوچھا کہ آپ کے نزدیک مسلم قوم کی فلاح کا کیا راستہ ہے تو فرمایا کہ جب تک قوم کے قلوب میں اعتقاد و اعتماد اچھے لوگوں کا نہ ہو کوئی فلاح کی صورت نہیں اور اعتقاد بغیر تقدس اور اعمال ظاہرہ و باطنہ کی درستی کے حاصل نہیں ہو سکتا۔

مولانا عبد الخالق صاحب واعظ دیوبند

یہ بزرگ دارالعلوم دیوبند کے قرن اول کے لوگوں میں سے ہیں۔ دیوبند کے بڑے خطیب اور واعظ مشہور تھے۔ انصاری خاندان کے تعلق ہے۔ دیوبند میں انصاری خاندان انہیں کا معروف ہے۔ حضرت ملا محمود صاحب دیوبندی جو دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے مدرس تھے یہ اُنکے شاگرد تھے حضرت نے فرمایا کہ میں نے خود ملا محمود صاحب سے سنا ہے کہ وہ ابتداء ہی سے متین تھے۔

یہ ضروری نہیں کہ جو مذاہیر کفار کی ترقی کا ذریعہ ہوں مسلمانوں کے لئے بھی ایسی ہی ہوں

ارشاد فرمایا کہ آج کل جو قومی اجتماعی ترقی کے لئے تذاہیر سیاسی اختیار کی جا رہی ہیں یہ مرکب ہیں آثار کفر اور آثار اسلام سے۔ جب انکو کفار اختیار کرتے ہیں تو وہ اسلام سے کچھ قریب ہو جاتے ہیں اسکی برکت سے کامیاب ہوتے ہیں اور جب انکو مسلمان اختیار کرتے ہیں وہ کفر سے قریب ہوتے ہیں اس لئے ناکام ہوتے ہیں۔

پھر فرمایا کہ مسلمانوں کو کافروں پر قیاس کرنا ایسا قیاس ہے جیسا کسی بوجہ بھکڑو کا قیاس مشہور

ہے کہ ایک شخص بھجور کے اوپر نچے درخت پر چڑھ تو گیا مگر اتنا سے مشکل ہو رہا تھا اس نے لوگوں سے فریاد کی کہ مجھے بچاؤ۔ گاؤں والے جمع ہو گئے کسی کی سمجھ میں کچھ نہ آیا تو اپنے بوجھ بھکڑا کو بلا یا اس نے آتے ہی کہا کہ یہ کام تو بہت ہی آسان ہے تم ایک لمبار سالا ڈا اور بھجور پر پھینکو اس کو کہو کہ یہ رستا پکڑ کے اپنی کمر میں باندھ لے جب یہ کام ہو گیا تو لوگوں کو کہا کہ اب تم زور سے یہ رستا کھینچو یہ نیچے آجائے گا۔ اس تدبیر سے وہ بیچارہ نیچے تو آگیا مگر ہڈی پسلی سب نوٹ کر مردہ ہو چکا تھا لوگوں نے بوجھ بھکڑا صاحب سے کہا کہ یہ کیا ہوا۔ اس نے جواب دیا کہ تدبیر تو میں نے صحیح بتائی تھی اسکی قضاہی آگئی ہو گی جو مر گیا اور نہ اس تدبیر کے ذریعہ میں نے کنوؤں میں گرجانے والے بہت سے لوگوں کو نجات دلوائی۔ وہ اچھے خاصے نکل آئے۔

تو جس طرح اس عقائد نے اعلیٰ کو اسفل پر قیاس کر کے ایک غریب کی جان لے لی اس طرح مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے علو نصیب فرمایا ہے۔ کفار اسفل میں ہیں تو یہ ضروری نہیں کہ کنویں کی گہرائی سے کسی کو اوپر اٹھانے کی جو تدبیر درست ہو وہ اوپر سے کسی کو زمین پر لانے کے لئے بھی درست ہو۔

کفار تو سود۔ قمار۔ حرام کاری۔ جھونٹ فریب کے ذریعہ بھی کامیابی حاصل کر لیں تو بعید نہیں مگر مسلمانوں کے لئے یہ ایک باعث ہلاکت و بر بادی ہیں۔

اللہ کی نعمتوں کو شکر کی ساتھ استعمال کرنا عین معرفت ہے

حضرت مرزا مظہر جان جاناں گوا یک درویش کی یہ حکایت پہنچی کہ انکو اگر کبھی کوئی لذیذ کھانا ملتا ہے تو اس میں پانی وغیرہ ڈال کر بدمزہ کر کے کھاتے ہیں۔ حضرت مرزا صاحب نے فرمایا کہ وہ گستاخ ہیں کہ حق تعالیٰ کی نعمتوں کی قد نہیں کرتے۔

(احقر جامع عرض کرتا ہے کہ یہ صورت اگر کسی مبتدی نے اپنے مصلح کے مشورہ سے بطور علاج کچھ دنوں کے لئے اختیار کی ہو تو وہ قابل ملامت نہیں)۔

حزن و غم کو تزکیہ باطن میں بڑا دخل ہے

حضرت نے فرمایا کہ حزن کی کیفیت تزکیہ باطن میں بہت زیادہ موثر ہے لیکن بعض لوگوں کا خیال ہے کہ موثر صرف وہ حزن ہے جو آخرت سے متعلق ہو یا دنیا کی کسی مصیبت و تکلیف سے ہو تزکیہ باطن میں ایک خاص اثر رکھتا ہے۔

حضرت کا اپنا ایک شعر

فرمایا کہ اس شعر میں طریق کی پوری حقیقت کو بتلا دیا گیا ہے۔
اندر یہ انچھی آید بdest
حیرت اندر حیرت اندر حیرت است

شکر اور ناشکری کی بنیاد

ارشاد فرمایا کہ ناشکری کی بنیاد ہے نظر بمقصود و قطع از نظر از موجود اور شکر کی بنیاد ہے نظر بر موجود و قطع نظر از مفقود یعنی انسان کے دل میں ناشکری اس سے پیدا ہوتی ہے کہ آدمی اللہ کی موجودہ اور حاصل شدہ نعمتوں پر تو نظر نہ کرے اور جو چیز حاصل نہیں صرف اسکو دیکھتا رہے اسکے برخلاف جو شخص حاصل شدہ اور موجودہ نعمتوں پر تو ہر وقت نظر رکھتا ہے اور جو موجود حاصل نہیں ان سے قطع نظر کرتا ہے تو فطری طور پر اسکے دل میں شکر کی کیفیت پیدا ہوگی۔ ایک حدیث میں حضرت صدیقہ عائشہؓ کو رسول اللہ ﷺ نے یہ ہدایت فرمائی کہ جالس المساکین و قربیہم یعنی مساکین کے ساتھ بیٹھو اور انکو اپنے قریب کرو۔ اسکی مصلحت بعض حضرات نے یہی بیان فرمائی ہے کہ انکی صحبت میں رہ کر اپنے پاس ان سے زیادہ سامان دیکھئے گا تو اسکی قدر ہوگی اور شکر کی توفیق ہوگی۔

بیماری سے کراہنا صبر کے منافی نہیں

حضرت فاروق عظیمؓ کو دیکھا گیا کہ ایک مرض کی وجہ سے بے چین ہیں اور کراہ رہے ہیں لوگوں نے عرض کیا کہ امیر المؤمنین کیا آپ بھی کراہتے ہیں یہ تو صبر کی خلاف ہے۔ فرمایا سبحان اللہ

حق تعالیٰ نے تو مجھے بیمار کیا میرا عجز و درمان دگی ظاہر کرنے کے لئے تو کیا میں اسکے مقابلے میں اپنی قوت و طاقت کا مظاہرہ کروں۔ حضرت نے فرمایا کہ بیشک عارفین کا یہی حال ہوتا ہے ۔
چونکہ برمنخت بہ بند و بستہ باش

انتخاب شیخ کا معیار

فرمایا کہ تصوف و سلوک کے لئے کسی شخص مرتبی کی ضرورت تو بدبھی ہے مگر اس کے انتخاب کے طریقہ اور معیار سے لوگ واقف نہیں جسکی وجہ سے راہ غلط ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ انتخاب شیخ کا معیار یہ ہونا چاہیے کہ

- ۱۔ وہ شخص احکام شرعیہ سے واقف ہو اگرچہ تبحیر عالم نہ ہو۔
- ۲۔ فن سلوک کو جانتا ہو اگرچہ صاحبِ کشف و کرامات اور صاحبِ احوال نہ ہو۔
- ۳۔ کسی شیخ کامل کی خدمت میں معتدلہ مدت تک رہا ہو۔
- ۴۔ اس کی مجلس میں بیٹھنے کا یہ اثر عام ہو کر دنیا سے محبت میں کمی اور آخوت کی طرف رغبت پیدا ہو اور گناہوں سے خوف اور طاعت سے رغبت پیدا ہو چاہے احوال و مواجهہ کبھی حاصل نہ ہوں۔

اگر شیخ کامل ہونے کے باوجود اسکی صحبت میں رہنے سے کوئی نفع محسوس نہ کرے تو سمجھنا چاہیے کہ مجھے ان سے مناسبت نہیں اس لئے انکو چھوڑ کر کسی دوسرے شیخ کی طرف رجوع کرنا چاہیے مگر اسکی شان میں کبھی بے ادبی نہ کرے جیسے ایک طبیب یا ذاکر کا علاج موافق نہ آوے تو دوسرے کی طرف رجوع کیا جاتا ہے مگر کوئی سمجھدار آدمی پہلے طبیب یا ذاکر کی توہین نہیں کرتا۔

اللہ تعالیٰ کی غیبی امداد کی منوس انسان کی شکل میں

ایک صاحب جو حضرت کے خدام میں سے ہیں اور تاجر ہیں یہ علی گڑھ کی نمائش میں کچھ سامان تجارت لے گئے وہاں اتفاقاً آگ لگ گئی۔ اسی حال میں انہوں نے پچشم خود مشاہدہ کیا کہ حضرت قدس سرہ تشریف لائے اور انکے سامان کا صندوق ایک طرف سے خود پکڑا و دسری طرف

سے انکو پکڑا ایا اور آگ سے نکال دیا۔ جب واقعہ انہوں نے حضرت سے بیان کیا تو فرمایا کہ اول تو یہ حکایت میرے دل کو نہیں لگی۔ اگر حکایت صحیح ہے تو اس میں میرا قطعاً کوئی دخل نہیں۔ بلکہ بعض اوقات حق تعالیٰ کسی شخص کی امداد رجاء الغیب سے کرا دیتے ہیں اور انکو کسی ایسی شکل میں سمجھتے ہیں جو اس شخص کے نزدیک مانوس ہو۔

اور فرمایا کہ سورہ یوسف کی آیت لولان رائی برهان کی مشہور تفسیر جو یہ ہے کہ جس وقت زینخانے مکان کے سب دروازے بند کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی طرف بلا یا تو مکان کے ایک گوشہ میں انکو حضرت یعقوب علیہ السلام نظر آئے۔ اسکی توجیہ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نے یہ فرمائی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اگر وہاں اپنے علم و اختیار سے پہنچتے تو یوسف علیہ السلام کی طرف سے پریشان کیوں رہتے اور تلاش کا حکم دینے کی کیا ضرورت پیش آتی بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی لطیفہ غبیہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شکل میں انکے سامنے آیا یعقوب علیہ السلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا۔

ایسا ہی ایک واقعہ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحبؒ کو خود پیش آیا کہ وہ کسی کام میں متعدد تھے کہ اچاک اپنے دماغ میں حضرت حاجی صاحبؒ کی یہ آواز آتی کہ اس طرح کرو۔ مولانا نے اسکے مطابق کیا اور برکت ہوئی مگر مولانا فرماتے تھے میں جانتا ہوں کہ حضرت حاجی صاحبؒ کو اسکی خبر بھی نہیں۔ (ملفوظات ۲۸ ربیع الثانی ۱۴۵۸ھ مسودہ سے صاف لکھا گیا۔ (یوم عاشوراء ۱۴۹۳ھ)

مشقت اعمال مقصودہ میں صرف زیادت ثواب کا سبب ہے

فرمایا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ہر عمل میں جتنی مشقت زیادہ ہوگی اتنا ہی ثواب زیادہ ہوگا مگر میرے نزدیک اس میں یہ تفصیل ہے کہ اعمال مقصودہ میں تو یہ بات صحیح ہے جیسے نمازو زورہ وضوء طہارت وغیرہ کہ سردی کے وقت یا تکلیف کی حالت میں وضوء کا ثواب زیادہ ہے۔ گرمی میں روزہ کا ثواب زیادہ ہے۔ نماز کے قیام وغیرہ میں مشقت انہانام موجب ثواب ہے مگر جو اعمال خود مقصود نہیں بلکہ ذرائع مقصود ہیں ان میں بلا وجہ زیادہ برداشت کرنے سے ثواب زیادہ نہیں

ہوتا۔ مثلاً وضوء کا پانی پاس موجود ہے اسکو چھوڑ کر تین میل دور سے پانی لا کر وضو کرے تو یہ زیادت ثواب کا سبب نہیں۔ آیت قرآن ماجعل علیکم فی الدین من حرج اور حدیث الدین یسر وغیرہ کو جانے کے بعد بھی جو شخص مشقت کو جزء دین سمجھتے تو ان نصوص کا مقابلہ ہے نعوذ بالله منه۔

ہر کام میں طریق مسنون اسلم ہے جس میں مشقت زیادہ نہیں

فرمایا کہ جتنے اعمال سنت میں معروف ہیں وہ اعمال شاقہ نہیں ان میں ایک بڑا فائدہ ہے کہ جو اعمال شاقہ کو برداشت کرتا ہے تو اس کو ثمرات عظیمہ کا انتظار طبعی طور پر ہوتا ہے اور وہ بعض اوقات اسکو محسوس نہیں ہوتے تو ناشکری کے کلمات زبان پر آنے لگتے ہیں اور اگر مختصر اعمال بطریق مسنون ادا کئے تو ہر وقت حق تعالیٰ کی نعمتوں کو اپنے اعمال کے مقابلہ میں زیادہ پاک رہیں گے۔

اللہ کی نعمتوں سے استغنا بڑی بے ادبی ہے

بعض ناواقف صوفی جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرنے سے کتراتے ہیں وہ کوئی اچھا کام نہیں۔ اور انسان اللہ کی کس کس نعمت سے استغنا کر سکتا ہے۔ کھانے پینے پہنچنے کی چیزوں میں کچھ کر لیا تو ہاتھ پاؤں آنکھ ناک کان بھی تو اسی کی دی ہوئی نعمتیں ہیں ان سے کیوں استغنا نہیں برستے۔

شوq اور انس میں فرق جنت اور انس ہو گا شوق نہیں

فرمایا شوق اس کیفیت رغبت کا نام ہے جو کسی غیر حاصل مطلوب کے حاصل کرنے کے لئے ہوا اور حاصل شدہ مطلوب سے لذت و راحت کا نام انس ہے۔ جنت میں چونکہ انسان کی ہر مراد اور ہر مطلوب اسکو حاصل ہو گا اس لئے وہاں شوق کسی چیز کا نہیں ہو گا کیونکہ شوق میں ایک گونہ کلفت ہے اور جنت میں کلفت کا نام نہیں۔ وہاں راحت ہی راحت اور لذت ہی لذت ہو گی۔

رہایہ سوال کہ جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ شانہ کی زیارت اور مشاہدہ ہے مگر یہ بھی ظاہر ہے کہ یہ مشاہدہ ذات و صفات کی کئے اور حقیقت کا نہیں ہوگا۔ تو جس قسم کا مشاہدہ حاصل ہوگا۔ اس سے تو اہل جنت کا انس متعلق ہونا صحیح ہے لیکن جو درجہ مشاہدہ جمال حق کا اس کو وہاں حاصل ہوگا اس کا تو شوق ہونا چاہیے۔ حضرتؐ نے ارشاد فرمایا کہ شوق کا تعلق اس غیر حاصل مقصود سے ہوتا ہے جس کا حصول انسان کی قدرت میں ہو اور اس کو حصول توقع اور امید ہو اور جس چیز کا حصول انسان کی قدرت واستعداد سے خارج ہوا کے ساتھ شوق کا تعلق نہیں ہو سکتا۔ جیسے دنیا میں کسی انسان کو آسمان کے اندر رزمندہ جانے اور پھر واپس آنے کا شوق نہیں ہوتا۔ جنت میں جس قسم کا مشاہدہ جمال حق انسان کی قدرت میں ہے وہ تو حاصل ہو جائے گا اور جو حاصل نہیں وہ اسکی استعداد و قدرت سے خارج ہوگا اس لئے شوق بھی نہیں ہوگا۔

فضول ولا یعنی تحقیقات طالب حق کا کام نہیں

فرمایا کہ سالک اپنے ضروری مشاغل کو چھوڑ کر لا یعنی اور فضول تحقیقات کے درپے ہو تو یہ اسکی علامت ہے کہ وہ طالب ہی نہیں جیسے کسی شخص کے سامنے کھانا لایا جاوے وہ کھانے میں مشغول ہونے کے بجائے یہ سوالات اور تحقیقات کرنے بینٹھ جائے کہ یہ چیزیں کس بازار سے خریدی گئیں کون لایا کس نے پکایا کسی طرح پکایا کیا مالے اس میں ڈالے۔ تو یہ علامت اس کی ہو گی کہ اسکو کھانے کی ضرورت اور بھوک نہیں ہے۔

علماء و صلحاء کا مالداروں سے مستغثی رہنا اعزاز دین ہے اگر ریاء بھی ہو تو

ثواب سے خالی نہیں

ارشاد فرمایا کہ مالداروں سے علماء و صلحاء کا اظہار استغناہ دین کی اہم ضرورت ہے اسکے نہ ہونے کے سبب عام لوگوں میں نہ علماء کی بات کا کوئی اثر رہتا ہے نہ وہ ان سے استفادہ کر سکتے ہیں کیونکہ اپنا محتاج سمجھتے ہیں۔ اس لئے اگر کسی شخص کے دل میں اخلاص نہ ہو محض دکھلاوے اور ریاء

کے لئے مالداروں سے استغنا، کا اظہار کرے وہ بھی فائدہ سے خالی نہیں کیونکہ ریاء کی وجہ سے اگرچہ اس کو اس عمل کا کوئی ثواب نہ ملے گا لیکن یہ عمل سبب اور ذریعہ ہو گا اعزاز دین کا اس کا ثواب اسکو پھر بھی ملے گا کیونکہ کسی عمل صالح کا تسبب اگر بلا نیت یا نیت فاسدہ سے بھی ہو تو تسبب کا ثواب صالح نہیں ہوتا وہ پھر بھی ملتا ہے۔

حدیث میں ہے کہ جس شخص نے کوئی درخت پھلدار لگایا اور پھر اس کا پھل جانوروں نے کھایا تو اس کا ثواب بھی درخت لگانے والے کو ملے گا حالانکہ یہ ظاہر ہے کہ درخت لگانے کے وقت اسکی یہ نیت نہ تھی کہ جانور اس کا پھل کھائیں گے بلکہ اسکے خلاف کی نیت تھی کہ جانور پھل کھانے آئے گا تو یہ اس کو مار بھگائے گا۔ مگر چونکہ یہ شخص جانوروں کے فائدہ کا سبب بہر حال بن ہی گیا تو اسکو اس کا ثواب ملتا ہے اسی طرح ریاء کاری سے استغنا کرنے والے کو بھی اعزاز دین کا ثواب بطور تسبب کے ملے گا۔

حضرت مولانا محمد یعقوب صاحبؒ کی ایک حکیمانہ وصیت

حضرت مولانا محمد یعقوب صاحبؒ علام، صوفیاء، طباء سب کو یہ وصیت فرماتے تھے کہ جس کام میں لگے ہو وہ عبادت نماز دعا کی ہو یا کتابوں کا مطالعہ یا درس مدرسیں یا وعظ و پند سب میں اس کا اہتمام رکھیں کہ اس کام کا جتنا شوق و رغبت دل میں ہے اسکو ختم تک نہ پہنچنے دیں بلکہ کچھ شوق و رغبت باقی ہو۔ اس وقت چھوڑ دیں۔ اس کا اثر یہ ہو گا کہ پھر از سر نوشوق رغبت جلد پیدا ہو گی اور کام زیادہ ہو گا اور اگر کام کو شوق رغبت پورا کرنے اور تھکنے کے بعد چھوڑا تو دوبارہ اس کام کی رغبت و ہمت بہت دیر کے بعد عود کرے گی۔ اس طرح کام میں نقصان آیا گا۔ جیسا اطبا کی متفقہ فصیحت یہ ہے کہ جب بھوک میں کھانا کھائے تو ابھی کچھ بھوک باقی ہو اس وقت کھانا چھوڑ دے کیونکہ ایسا کیا تو دوسرے وقت پھر جلد بھوک لگے گی اور اگر پہلے ہی وقت میں ڈٹ کر اتنا کھایا کہ بھوک پوری بھر گئی اور رغبت باقی نہ رہی تو دوسرے وقت بھوک عود نہ کر لیں اور کیا بھی تو پوری بھوک نہ ہو گی۔

حضرت مولانا محمد یعقوب صاحبؒ نے اس وصیت کو ایک محسوس مثال سے اس طرح

ثابت فرمایا کہ بچوں کے کھیل کی چکنی جس میں ڈور لپٹی ہوتی ہے اور بچے اس کو اس ڈور پر گھماتے پھرتے ہیں یہ چکنی پھر اسی ڈور پر لوٹ کر انکی طرف آ جاتی ہے یہ سب کارروائی صرف اس صورت میں ہوتی ہے جبکہ اس کی ڈور کو پورا کھلنے سے پہلے لوٹا لیا جاوے ورنہ اگر پوری کھل گئی تو پھر اس کے چڑھانے میں بہت دیرگتی ہے۔

مدارس عربیہ اسلامیہ میں معاشی فنون کی تعلیم پر حضرت مولانا محمد یعقوب

کارشاد

حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نے فرمایا کہ زمانہ کے بعض عقلااء اور اسلام اور مسلمانوں کے خیر خواہ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ مدرسہ کی موجودہ تعلیم سے فارغ التحصیل طلباء کے معاش کا کوئی انتظام نہیں ہوتا اس لئے اس وقت تو یہ مدارس صرف ان لوگوں کے کام کے ہیں جو آخرت کے دیوانے اور اس پر سب کچھ قربان کرنے والے ہیں۔ اگر ان مدارس میں کچھ تعلیم انگریزی کی یا صنعت و حرفت کی بھی جاری کر دی جائے تو یہ تعلیم سب مسلمانوں کے لئے مفید ہو جائے۔

اس کے جواب میں حضرت مولانا نے فرمایا کہ ہم سے جو کچھ ہو سکتا تھا کہ دین و آخرت کے طلبگاروں کے لئے انتظام کر دیں اور ہم نے کر دیا۔ اب جس خدا کے بندہ کو توفیق ہو وہ انکے معاش کا بھی انتظام کر دے۔ اس کے بعد فرمایا کہ تجربہ شاہد ہے کہ جب نقد اور ادھار جمع ہوں تو ہر شخص نقد کو ترجیح دیتا ہے ادھار پر راضی نہیں ہوتا۔ اب سمجھ لجئے کہ علم دینیہ اور تعلیم آخرت بمنزلہ ادھار کے ہے اور فنون دنیویہ بمنزلہ نقد کے۔ جب دونوں جمع ہونگے تو لوگوں کا میلان زیادہ نقد کی طرف ہو گا اور علوم دین و آخرت موخر بلکہ غیر مقصود بمنکر رہ جائیں گے۔

حضرت نے فرمایا کہ سبحان اللہ کس قدر میں اور انجام بینی کا جواب ہے یہ محض اس نور ایمان کا اثر ہے جو بزرگوں کی محبت سے حق تعالیٰ نے انکے قلوب میں ڈال دیا تھا ورنہ ان بزرگوں کو دنیا کا تجربہ زیادہ نہ تھا۔

متفرق انتظامی کام کا ملین کی جمیعت خاطر کو بر باد نہیں کر سکتے

ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ مدرسہ دیوبند میں ایک جلسہ ہونے والا تھا جس کے انتظام میں مدرسہ کا پورا عملہ لگا ہوا تھا۔ مگر میں نے مہتمم مدرسہ مولانا رفیع الدین صاحب کو دیکھا کہ نہایت اطمینان سے اپنے معمولات میں مشغول ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت پر اس وقتی انتظام اور اسکے متفرق معاملات کا کوئی اثر محسوس نہیں ہوتا۔ جو عام لوگوں کی عادت کے خلاف ہے۔ حضرت مولانا رفیع الدین صاحب مہتمم مدرسہ نے فرمایا کہ یہ انتظام ہی کیا ہے اگر سلطنت کا انتظام ہمارے پرداز کر دیا جائے تو اس کو بھی ان شاء اللہ تعالیٰ اسی شان سے اطمینان کے ساتھ انجام دیں گے۔ حضرت[ؐ] نے فرمایا کہ حقیقی تصوف سنت رسول اللہ ﷺ کا اتباع ہے کہ سب تعلقات کے حقوق ادا کئے جائیں جیسا کہ صدیقہ عائشہؓ کی حدیث میں ہے کہ آنحضرت ﷺ جب میں گھر تشریف فرماتے تھے تو عام لوگوں کی طرح گھر کے کام کا ج میں لگے رہتے تھے لیکن اذان کی آواز سننے تو اس طرح سب کو چھوڑ کر اٹھ جاتے تھے کہ گویا آپ ہمیں پہنچانے بھی نہیں۔

احقر جامع عرض کرتا ہے کہ خلفاء راشدین اور صحابہ کرام کے پر دنیا کی خلافت و سلطنت ہوئی تو اسکے کاموں کو انہوں نے جس اطمینان سے انجام دیا ہے وہ ساری دنیا جانتی ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ کامیں جن کا تعلق اور رابط حق تعالیٰ کے ساتھ مضبوط اور راست ہو جاتا ہے پھر دنیا کے ہزار انتظامات کا تفرق و تشتت بھی اسکے اطمینان اور جمیعت خاطر کو بر باد نہیں کر سکتا۔

(۲ جمادی الاولی ۱۳۵۸ھ)

یا محمد یا رسولؐ کی نداء پر ایک ارشاد

فرمایا کہ میرا ایک وعظ حیدر آباد کن میں ہوا بضم گفتگو یہ مسئلہ آگیا کہ یا محمد یا رسولؐ وغیرہ الفاظ سے نداء کرنا کیسا ہے تو میں نے کہا کہ قرآن کریم سورہ ججرات میں صحابہ کرام کو اس سے منع کیا گیا ہے کہ آپ ﷺ کے زمانہ حیات ظاہری میں جب آپ ﷺ اپنے گھر میں موجود تھے اس وقت باہر سے آپ کو آواز نہ دیں کہ یہ بے ادبی ہے تو جو لوگ ہندوستان سے حضور کو

پکاریں یہ کیسے بے ادبی نہ ہوگی۔

ایک عجیب حکایت

ایک صاحب کشف بزرگ ایک بستی میں پہنچے۔ لوگوں نے بیان کیا کہ یہاں ایک صراحی ایسی ہے جس میں کسی موسم میں کسی وقت پانی خندنا نہیں ہوتا گرم ہی رہتا ہے۔ سمجھو میں نہیں آتا کہ کیا بات ہے انہوں نے فرمایا کہ صراحی آج رات میرے پاس چھوڑ دو۔ لوگ صبح کو آئے تو صراحی انکے حوالے کر دی اور فرمایا کہ اب دیکھوا سکا پانی خندنا ہے یا نہیں۔ دیکھا گیا تو پانی خندنا تھا لوگوں نے سبب پوچھا فرمایا کہ یہ صراحی ایک مردہ کی مٹی سے بنی ہوئی تھی اور اس مردہ کو برزخ میں عذاب ہو رہا تھا۔ اسکے عذاب کا اثر اس صراحی کی مٹی میں تھا جب مجھے یہ مکشف ہوا تو میں نے اس مردہ کے لئے دعاء مغفرت کی حق تعالیٰ نے اسکی مغفرت فرمادی اور وہ عذاب کا اثر جاتا رہا۔

حضرت نے فرمایا کہ بعض اوقات برزخ کے آثار عذاب کو حق تعالیٰ کسی حکمت و مصلحت سے اس عالم میں بھی ظاہر فرمادیتے ہیں جیسا کہ اس واقعہ میں مصلحت یہ معلوم ہوئی کہ اس مردہ کو انکی دعا مغفرت سے فائدہ پہنچ گیا۔

تقلید و اجتہاد پر ایک حکیمانہ منصافانہ تقریر

فرمایا کہ ایک عالم غیر مقلد مگر غیر متعصب یہاں آئے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ تقلید کا مدار حسن ظلن پر ہے۔ جس شخص کے متعلق یہ گمان غالب ہوتا ہے کہ وہ دین کے معاملہ میں کوئی بات بے دلیل شرعی کرنے نہیں کہتے اسکا اتباع کر لیا جاتا ہے اگرچہ وہ کوئی دلیل بھی مسئلہ کی بیان نہ کرے۔ اسی کا نام تقلید ہے اور جس شخص کے متعلق یہ اعتقاد نہیں ہوتا وہ دلیل بھی بیان کرے تو شہر رہتا ہے۔ دیکھئے حافظ ابن تیمیہؓ اپنے فتاویٰ میں اور بعض رسائل مثلاً رسالہ مظالم میں محض احکام لکھتے ہیں کوئی دلیل نہیں لکھتے مگر غیر مقلد حضرات چونکہ انکے معتقد ہیں کہ وہ بے دلیل بات نہیں کرتے اس لئے ان کی بات کو مانتے ہیں تو حنفیہ کو بھی یہ حق ہے کہ امام ابوحنفیہؓ کے بیان کئے ہوئے سائل پر باین اعتقاد عمل کر لیں کہ وہ کوئی بات بے دلیل نہیں فرمایا کرتے۔

پھر فرمایا کہ یہاں تک بات مساوات کی تھی کہ جس طرح غیر مقلد حضرات ابن تیمیہ کی بات بے دلیل بھی مان لیتے ہیں حفیہ کو بھی یہی حق کیوں حاصل نہ ہو کہ وہ ابوحنیفہ کی بات بغیر دلیل کے محض حسن ظن کی بناء پر مان لیں۔ مگر اب میں آگے بڑھتا ہوں اور ایک اور مثال سے یہ واضح کرتا ہوں کہ ابن تیمیہ کے اجتہاد اور امام اعظم ابوحنیفہ بلکہ انکے شاگردوں اور ان کے شاگردوں کے شاگردوں میں جو مجتہد ہوئے ہیں انکے اجتہاد میں کیا فرق ہے۔ ابن تیمیہ نے کتاب مظالم میں لکھا ہے کہ اگر سلطان وقت کی طرف سے کوئی ظالماً نیکس اہل شہر کے ذمہ عائد کر دیا جائے تو اس سے اپنے آپ کو بچانا مطلقاً جائز نہیں بلکہ یہ تفصیل ہے کہ اگر کوئی خاص رقم مجموعی طور پر معین نہ ہو تو جائز ہے اور اگر کوئی خاص معین رقم پورے شہر سے وصول کرنا ہے تو اس صورت میں اپنے آپ کو اس سے بچانا جائز نہیں کیونکہ یہ نجع گیا تو اس کا حصہ بھی دوسرے مسلمانوں پر پڑ جائے گا وہ مزید ظلم میں بنتا ہوئے اور یہ شخص اس کا سبب بنے گا۔

اسکے مقابلہ میں فقہاء حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ اس ظلم سے جو نفع سکتا ہے اسکو نجع جانا مطلقاً جائز ہے اور اس کے نجع جانے سے جو زائد رقم دوسرے مسلمانوں پر پڑے گی اس کا سبب تو بیشک یہ ہوا مگر مباشر اس عملی ظلم کا وہ سلطان یا اسکا نائب ہے نہ کہ یہ شخص اور مباشر مختار کے ہوتے ہوئے سبب کی طرف فعل کی نسبت نہیں ہوتی۔ اس لئے صورت مذکورہ میں اس مزید ظلم کا گناہ گار بھی وہی سلطان یا اسکا نائب ہے جسکے حکم سے یہ وصول کیا گیا ہے۔ اب انصاف سے بتائیے کہ اجتہاد کس کا زیادہ بہتر ہے ان عالم صاحب نے صاف لفظوں میں اعتراف کیا کہ بیشک ابن تیمیہ اس درجہ کو نہیں پہنچے۔

اس کے بعد حضرتؐ نے فرمایا کہ حفیہ کے اجتہاد کی دلیل میں ایک حدیث سے پیش کرتا ہوں وہ یہ کہ رسول اللہ ﷺ نے شہادت فی سبیل اللہ کے فضائل بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے:-
وَدَدَتْ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ أُحْيى ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيى: میری یہ تمنا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں اور پھر زندہ اور پھر قتل کیا جاؤں۔

اس میں آنحضرت ﷺ اپنے مقتول ہونے کی دعاء کر رہے ہیں اور یہ جسمی ہو گا کہ کوئی آپ کا قاتل بنے اور یہ بھی ظاہر ہے کہ نبی کا قاتل اعلیٰ درجہ کا کافر اور جہنمی ہو گا تو گویا رسول اللہ ﷺ اپنی اس دعاء کی وجہ سے سبب ہوئے ایک شخص کے جہنمی ہونے کا۔ اگر اس کو گناہ کہا جاوے تو یہ عصمت کے خلاف ہے سوائے اس کے اور کیا جواب ہو سکتا ہے کہ سبب کی طرف نسبت فعل اس وقت ہوتی ہے جب کوئی فاعل مختار مباشرت عمل کرنے والا نہ ہو۔

پھر فرمایا کہ بعض غیر مقلدین کہتے ہیں کہ ہمیں ان سے نفرت ہے بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ہم خود ایک غیر مقلد کے معتقد اور مقلد ہیں۔ کیونکہ امام اعظم ابو حنیفؓ کا غیر مقلد ہونا یقینی ہے پھر فرمایا کہ مگر انکی تقلید بوجہ خود مجتہد عالم ماہر ہونے کے جائز تھی۔ اب جاہل لوگ یا معمولی عربی جانے والے اپنے آپ کو ابو حنیفؓ پر قیاس کر کے تقلید نہ کریں تو یہ ان کی غلطی ہے۔

طلب جاہ کی مذمت

ارشاد فرمایا کہ حضرت حاجی صاحبؒ فرماتے تھے کہ جاہ عند الخلق کی طلب توند موم و ناجائز ہے ہی جسکو سب جانتے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ جاہ عند الخلق کی طلب بھی مذموم ہے مثلاً یہ خواہش کرے کہ میں درویش مقبول ہو جاؤں کیونکہ جو لوگ اپنے کو درویش سمجھتے ہیں وہ حق تعالیٰ کے سامنے تکبر کرتے ہیں۔

حضرت حاجی صاحبؒ سے ایک صاحب نے عرض کیا کہ آنحضرت ﷺ کی زیارت کا شوق ہے کوئی عمل بتا دیجئے۔ حضرتؐ نے فرمایا ماشاء اللہ آپ بذا حوصلہ رکھتے ہیں کہ ہم تو گندب خضراء کی زیارت کی بھی قابلیت نہیں رکھتے۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ چیز ایسی ہے کہ اس پر طالبعلمانہ کلام کرو تو بہت سے شبہات ہیں لیکن جو چیز اسکا منشاء تھی یعنی کمال عبدیت وہ اہل دل ہی سمجھ سکتے ہیں زر طالب کیا جانے۔

ما نیم و خذف بوی آن آستان بلب

ذوق وصال و شوق کنار آ رزوئے کیست

کشف کوئی کمال انسانی نہیں

فرمایا کہ کشف ایک ایسی چیز ہے کہ حیوانات کو بھی ہوتا ہے اور بعد مرنے کے کافروں کو بھی ہو گا تو یہ کوئی کمال انسانی نہیں اور فرمایا کہ اگر کمال ہو تو کمال خود مقصود انسانی نہیں بلکہ مقصود عبدیت ہے جو خود کمال کے منافی ہے۔

ترک لذات کو تقرب الی اللہ میں کوئی دخل نہیں

فرمایا کہ بعض بزرگوں نے ترک لذات کیا ہے مگر بعض معالجہ کے طور پر تقرب الی اللہ میں اسکو اصلاً دخل نہیں۔ تقرب محض سنت رسول اللہ ﷺ کے اتباع سے پیدا ہوتا ہے اور آنحضرت ﷺ کے حالات معلوم ہیں کہ آپ بالقصد ترک لذات نہ فرماتے تھے۔

اور آج کل تو معالجہ کے طور پر بھی ترک لذات کرنا مناسب نہیں کیونکہ قویٰ بہت کمزور ہو گئے ہیں بلکہ آج کل تو اگر حلال مال بلا انجہاک اور غلوٰنی الطلب کے مل جائے تو خوب کھانا چاہیے۔ البتہ پھر اس کا حق ادا کرے کہ غفلت میں نہ رہے۔ ذکر اللہ اور طاعات میں مشغول رہے۔

حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ:-

ان الله يحب ان تتوتى رخصه كما يحب ان تتوتى عزائم۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ بھی پسند فرماتے ہیں کہ ان کی دی ہوئی رخصتوں پر عمل کیا جائے جیسا کہ اسکو پسند فرماتے ہیں کہ انکی مقرر کردہ عزیجوں پر عمل ہو۔

اور فرمایا کہ تبع رخص جسکو فقہاء علماء نے مذموم قرار دیا ہے وہ عام رخصتوں پر عمل نہیں بلکہ وہ رخصت جو نفس کی خواہش کے مطابق نصوص میں تاویل کر کے نکالی جائے۔ یہ سب بیان فرمانے کے بعد حضرت نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جو رخصتوں پر عمل کی مصالح کا بیان کیا ہے اس سے مقصود اہل تشدد کا علاج ہے۔ اسکو بیان کرتے ہوئے یہ بھی ذرگتا ہے کہ نفس پروری کا بہانہ نہ مل جائے۔

حضرت کی تربیت و اصلاح کا خاص رنگ

ایک صاحب جو پہلے کسی دوسرے شیخ کی تربیت میں تھے اور بہت شدید مجاہدات کی وجہ سے مثل مجنوں کے ہو گئے تھے۔ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت نے انکے حالات سننے کے بعد ان کے لئے مناسب حال دستور العمل تجویز فرمادیا۔ وہ ایک روز کہنے لگے کہ میرے لطائف پہلے تاروں کی طرح چمکتے تھے اب یہ بات نہیں رہی آپ انہیں چمکا دیجئے۔

حضرت نے فرمایا کہ ضابطہ کا جواب تو یہ ہے کہ میرے لطائف خود نہیں چمکتے میں تمہارے کیسے چمکا دوں پھر فرمایا اور حقیقت یہ ہے کہ یہی چیزیں اس طریق میں رہزنی ہے جو لوگوں نے اس طریق کا مقصود بنالیا ہے۔ ہاں اگر کوئی شیخ کامل کسی کے لئے یہ تجویز کرے تو میں اس کا انکار نہیں کرتا کہ یہ بھی مفید ہو سکتا ہے مگر جس شخص کے لئے اس کی مضرت ظاہر ہونے لگے۔ شیخ کامل کا فرض ہے کہ اسکو چڑرا دے کیونکہ یہ چیزیں بھی حجاب نورانی۔ اور حضرت حاجی صاحب فرماتے تھے حجاب نورانی بہ نسبت حجاب ظلمانی کے اشد ہوتے ہیں کیونکہ حجاب ظلمانی میں میلان اور کشش ہوتی ہے لوگ معتقد ہونے لگتے ہیں جو اس کے لئے رہزن طریق بن جاتے ہیں۔

(۲ جمادی الاولی ۱۲۵۲ھ)

حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب کے مکاشفات

ایک کشف جو بعینہ پورا ہوا۔ حضرت[ؐ] کے مکاشفات اور پیش گویاں بہت معروف ہیں جو بالکل واضح طور پر صادق ہیں آپ کی عادت بھی مکاشفات کو چھپانے کی نہ تھی۔ انگریزی حکومت کے انقلاب کے متعلق آپ کی یہ پیش گوئی عرصہ دراز سے معروف و مشہور تھی (احقر جامع کے والد ماجد جو حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب کے شاگرد خاص تھے احترنے ان سے بھی یہ پیش گوئی سن تھی) کہ انگریزی حکومت ایسے موسم میں بد لے گی جب لوگ کچھ آموں کی چلنی کھاتے ہوں گے اور انقلاب ایسا اچانک ہو گا جیسے کوئی صاف پیٹ دی لوگ رات کو ایک حکومت میں سوئیں گے اور صبح کو دوسری حکومت میں اٹھیں گے۔

حضرت مولانا کا یہ کشف اور پیشگوئی دیوبند میں بہت معروف و مشہور تھی مگر حالات اس کے بالکل برعکس یہ تھے کہ انگریزی حکومت کا شباب اور قوت ہر طرف نظر آتی تھی۔ ایک سال جب اپریل کے مہینہ میں صوبہ جاتی تقسیم اور ملکی وزارتوں کا قانون جدید پاس ہوا تو بہت سے لوگوں نے بطور تاویل کے اسکو حضرت کی پیشگوئی کا مصدق قرار دیا۔ مگر ۱۹۴۷ء میں ہندو پاکستان کی تقسیم کے وقت اسکا صحیح مصدق بالکل ہو بہو ظاہر ہوا۔ کیونکہ اس انقلاب کی قطعی تجویز اپریل ۱۹۴۷ء میں اس وقت ہو چکی تھی جبکہ آم کے درختوں پر کچھ آم آر ہے تھے پھر اسکی تجییل ۱۹۴۷ء ۱۹۴۸ء کی نصف شب بارہ بجے ہو کر پاکستان کی اسلامی سلطنت کا وجود عمل میں آیا۔ اور مسلمان جو بارہ بجے سو گئے تھے وہ انگریزی حکومت میں سوئے تھے اور صحیح اسلامی حکومت میں اٹھے۔

ایسی ہی ایک پیشگوئی دیوبند میں وباء عام کے متعلق فرمائی تھی۔ مولانا کو مکشوف ہوا کہ دیوبند پر ایک وباء عظیم آنے والی ہے مگر یہ ایام رمضان کے تھے رمضان کی برکت سے وباء کی ہوئی ہے رمضان کے بعد آنے والی ہے اور اسکا یہ علاج بھی مکشوف ہوا کہ لوگ اپنی ہر چیز میں سے صدقہ کریں۔ نقد میں سے نقد کھانے پینے کی چیزوں میں وہ اور پہنچنے استعمال کرنے کی چیزوں میں ان کا کوئی جز صدقہ کریں۔ ان بزرگوں کی شفقت امت پر عام ہوتی ہے۔ حضرت مولانا نے ازروئے شفقت اسکا اعلان فرمادیا کہ سب لوگ صدقہ خیرات کا اس طرح اہتمام کریں مگر شامت اعمال سے دیوبند کے کسی رئیس نے مولانا کا یہ اعلان سنکریہ کہدیا کہ ہاں مدرسہ میں کچھ چندہ کی ضرورت ہوئی ہوگی اس لئے یہ صدقہ کرنے کا فرمان جاری ہوا ہے۔ انکا یہ دل آزار کلمہ حضرت مولانا تک بھی پہنچ گیا۔ اس پر حضرت مولانا کوخت رنج ہوا اور اسی رنج و ملال کے عالم میں آسمان کی طرف دیکھا۔ غیر شعوری طور پر آپ کی زبان مبارک سے یہ کلمات آواز بلند بار بار جاری ہوئے ”یعقوب اور یعقوب کا کنبہ اور سارا دیوبند“ بلند آواز سے یہ کلمات بار بار کہنے کی آواز حضرت حاجی عابد حسین صاحب نے سنی جو دیوبند کے مشہور بزرگ اور بناء دار العلوم کے شریک اور اسی جماعت کی مسجد میں مقیم تھے۔ جس میں مولانا محمد یعقوب صاحب ”کا قیام تھا۔ حاجی

صاحب گھبرا کر مولانا کے قریب پہنچ اور عرض کیا کہ حضرت کیا فرمائے ہیں رحم کیجئے۔ مولانا نے پوچھا کہ میں نے کیا کہا۔ حاجی صاحب نے وہ کلمات جو مولانا کی زبان سے سنے تھے بیان کئے تو فرمایا کہ اب تو نکل گیا اب تو ایسا ہی ہو گا چنانچہ رمضان ختم ہوتے ہی دیوبند بھر میں شدید ہیضہ کی وبا پھیلی۔ دیوبند میں کوئی گھر اس سے سالم نہ رہا اور مولانا کے فرمانے کے مطابق خود ان کے کنبہ میں سے چودہ آدمیوں کا انتقال ہوا اور خود حضرت مولانا کی بھی اس عرصہ میں وفات ہوئی۔

احقر جامع کہتا ہے کہ میرے والد ماجد مولانا محمد شیخ صاحب نے اس وباء کے آنے سے پہلے ایک خواب میں یہ دیکھا تھا کہ کچھ لوگ بہت ڈراونی شکل و صورت والے قصبه کے لوگوں کو انکے گھروں سے نکالتے اور گھروں کو خالی کراتے ہوئے پھر رہے ہیں۔ والد مر جوم نے یہ خواب حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب سے عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ جس چیز کا خطرہ تھا وہ پہنچ گئی پھر جب مولانا خود مریض ہو کر نانوتہ اپنے وطن تشریف یجانے لگے تو والد سے فرمایا کہ بھائی ہماری مٹی لیجارتی ہے اور یہی تم سے آخری ملاقات ہے اور کچھ لوگ نو ناٹہ پہنچ بھی جائیں گے آپ نہ پہنچ سکو گے۔

ٹھیک ایسا ہی ہوا جس وقت شدت علالت کی خبر دیوبند پہنچی تو بہت سے حضرات نانوتہ چلے گئے مگر والد صاحب اس وقت سخت مرض میں متلاشے سفر نہ کر سکے۔

حضرت کی اپنے اساتذہ واکابر سے محبت و عقیدت

فرمایا کہ مجھے طبعی محبت تو مولانا محمد یعقوب صاحب سے زیادہ ہے اور عقیدت حضرت مولانا گنگوہی سے زیادہ ہے اور حضرت نانوتی کی خدمت میں حاضری کا زیادہ اتفاق نہیں ہوا۔ البتہ جب کبھی جانا ہوا تو بڑی شفقت فرماتے تھے۔

حضرت نانوتی کا ایک ارشاد

فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت نانوتی نے مجھ سے فرمایا کہ پڑھنے سے زیادہ گھنے کی کوشش کرتا چاہیے اور اس پر ایک حکایت نقل کی کہ ایک طالب علم کو پوری ہدایہ حفظ یاد تھی اور اسکے

دوسرے ساتھی کو حفظ نہ تھی۔ دیکھ کر مطالعہ کر لیتا تھا۔ ایک مسئلہ کی ضرورت پیش آئی تو اس دوسرے طالب علم نے مسئلہ بتلا دیا۔

حافظ ہدایہ نے اس سے پوچھا کہ یہ مسئلہ کہاں لکھا ہے غیر حافظ نے کہا کہ ہدایہ میں ہے۔ حافظ ہدایہ نے انکار کیا کہ ہدایہ میں نہیں ہے دوسرے نے کہا کہ میں حافظ تو ہوں نہیں کتاب منگادو تو میں نکا لکر بتا دوں گا۔ کتاب آئی انہوں نے مسئلہ نکالا جو صراحتہ مذکور نہ تھا مگر ہدایہ کی عبارت سے بلزوم میں مستفاد تھا یعنی عبارت کے مفہوم سے لازم آتا تھا اب تو حافظ ہدایہ نے کہا کہ بھائی ہدایہ حفظ تو ہمنے کی ہے مگر سمجھاتم نے ہے۔

حضرت مولانا مدنیؒ کے متعلق ایک خواب اور حضرت کا جواب

ایک بزرگ کے صاحبزادے نے ایک خواب دیکھا۔ جس میں حضرت مولانا حسین احمد مدینیؒ کے متعلق ایک ناگوار حالت ظاہر ہوتی ہے۔ لوگوں میں اسکا جرچہ چاہوا حضرت کے پاس بھی کسی نے خط میں لکھ بھیجا اور بعض لوگوں نے زبانی بھی تذکرہ کیا۔

حضرت نے فرمایا کہ اول تو ہمارے خواب ہی کیا اور خواب بھی ہو تو وہ کوئی جنت نہیں اور جس چیز کو شریعت نے جنت نہیں قرار دیا۔ ہم اسکو کسی شخص کے متعلق بدلتی کا ذریعہ بنادیں تو بڑی بے انصافی ہے۔ مسائل سیاسیہ میں حضرت کو مولانا مدنیؒ کا طرز عمل پسند نہ تھا مگر خلاف اخلاق کی حدود ہمیشہ تحضر تھیں اس لئے فرمایا کونا قوامین اللہ شهداء بالقسط ولو على انفسکم۔ پھر فرمایا کہ یہ تو خواب کی باتیں ہیں جن میں کوئی جنت نہیں میں تو وہ واقعات اور حالات جن کا برآ ہونا میرے نزدیک دلائل شرعیہ سے ثابت ہیں انکا تذکرہ کرنا بھی پسند نہیں کرتا کیونکہ ایسے حالات کے تذکرہ میں اپنا حنفی اور دوسری جانب شماتت کا خطرہ پیش نظر رہتا ہے جس پر حدیث میں شدید وعید آئی ہے۔

لاتظہر الشماتة لا خیک فی رحمة الله ویبتليک۔ اپنے کسی بھائی کے عیب پر شماتت (خوشی کا اظہار) کرو کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ اس پر رحمت فرمادے اور تجھے اسی عیب میں

بیتلہ کر دے۔

پھر فرمایا ہم دوسروں کے عیب و صواب کو کیا دیکھیں جبکہ اپنا ہی حال معلوم نہیں کہ انجام کیا ہونے والا ہے بہت ڈرگلتا ہے۔ حق تعالیٰ ہی اپنے فضل سے نجات عطا فرمادیں تو بیڑا پار ہو۔

گہ رشک بر دفتر شہ بر پا کی ما گہ خندہ زند دیوز نا پا کی ما

ایمان جو سلامت بہ لب گور برمیم احسن بہ من چستی و چالا کی ما

اللہ کی نعمتوں کی قدر شناسی ہر چھوٹی بڑی نعمتوں کی حفاظت

حضرت ﷺ کی ادنیٰ سی مفید چیز کو ضائع نہ کرتے تھے۔ ڈاک میں آئے ہوئے سفید کاغذ کے چھوٹے چھوٹے نکڑوں اور سلی کے نکڑوں کو بھی جمع کر لیتے ہیں کاغذ کے چھوٹے نکڑے تعویذات اور روزمرہ کی ضرورت کی پر چیاں لوگوں کے پاس بھیجنے میں کام آتی تھیں کچھ بڑے کاغذ ہوئے تو انہیں سی کر کاپی یادداشت وغیرہ لکھنے کی بنالی جاتی ہے۔

کل ایک ایسی ہی کاپی بنالی جس میں اوراق کچھ چھوٹے بڑے آگے پیچھے تھے اس وقت تو رکھ دیا آج فرمایا کہ بار بار قلب میں تقاضا ہوتا تھا کہ ان اوراق کو کاث کر برابر کر دوں پھر میں اسکو دفع کرتا تھا کہ فضول کام ہے لیکن یہ تقاضا بار بار ہوتا ہی رہا یہاں تک کہ انھا کراوراق کاٹ دیئے کیونکہ خوانخواہ قلب مشوش ہوتا تھا۔ پھر فرمایا کہ طبیعت کی ساخت ہی ایسی واقع ہوئی ہے کہ بے ڈھنگی چیز سے وحشت ہوتی ہے۔

ایک خواب اور تعبیر

فرمایا کہ حضرت حاجی صاحبؒ کی خدمت میں ایک صاحب نے اپنا خواب بیان کیا کہ ہمارے فلاں بزرگ کو دیکھا کہ بالکل ننگے ہیں۔ حضرتؒ نے فرمایا کہ تجدُّن الدُّنْيَا (ترک دنیا) کی طرف اشارہ ہے پھر فرمایا کہ ایسے خواب عام مجلس میں بیان نہ کرنا چاہیے معلوم نہیں کہ سننے والوں نے کیا کیا سمجھا ہوگا۔

ایک صاحب نے اپنا خواب حضرت حاجی صاحب سے بیان کیا کہ میں نے دیکھا ہے کہ

میں مسجد کے اندر پاخانہ کر رہا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ تم کوئی وظیفہ دنیاوی غرض سے مسجد میں بینچ کر پڑھتے ہو گے چنانچہ معلوم ہوا کہ واقعہ ایسا ہی تھا۔

ظالم حکام کے ساتھ عدل و اعتدال کا معاملہ

فرمایا کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو اس رنگ پر پایا ہے کہ ظالم حکام کے ساتھ بھی بے تمیزی اور تشدد سے پیش نہ آتے تھے بلکہ معمول یہ تھا کہ۔

ناکسانہ را کہ بینی اختیار
عقلاء تسلیم کروند اختیار

حضرت مولانا محمد یعقوب صاحبؒ کا کفار خصوصاً انگریزوں سے بغض معرف و مشور تھا لیکن ایک مرتبہ مدرسہ میں ایک انگریزی کلکٹر نے اپنے آنے کی اطلاع بھیجی۔ مولانا نے اسکی حیثیت کے موافق انتظام فرمایا۔ حضرت نے فرمایا کہ میں نے مولانا سے دریافت کیا کہ اگر وہ آیا تو آپ کیا کریں گے فرمایا کہ مدرسہ دکھلانے میں گے حضرت نے پوچھا کہ اگر وہ مدرسہ کے معاملے میں کوئی مشورہ دے تو آپ کیا فرمائیں گے فرمایا کہ ہم کہہ دیں گے کہ اس میں ہم خود مختار نہیں بلکہ یہاں مدار ایک مجلس کی رائے پر ہے آپ کا مشورہ ہم اپنی مجلس میں پیش کر دیں گے سب نے قبول کر لیا تو عمل کریں گے ورنہ معزور ہیں۔ پھر پوچھا کہ اگر وہ کوئی چندہ دے تو کیا کیا جاوے گا؟ فرمایا کہ قبول کریں گے پھر بھنگیوں کی تنجوا ہوں میں خرچ کر دینگے۔

ایک مرتبہ مظفر نگر کا کلکٹر تھا نہ بھون آیا تھا بلا اطلاع خانقاہ کے دروازے تک آیا جب حضرت کو اطلاع دی تو حضرت انھکر دروازہ پر تشریف لے گئے۔ کھڑے کھڑے بات کی مدرسہ کا مختصر حال پوچھا وہ بتلایا دیا حضرت نے ان سے فرمایا کہ اگر آپ بیٹھیں تو آپ کے لئے کرسی منگادوں گا مگر اس نے کہا کہ اس وقت فرصت نہیں پھر دروازہ ہی سے واپس ہو گیا۔ اور واپسی پر اپنے ساتھ کے لوگوں سے کہا کہ واقعی بزرگ آدمی ہیں مجھ پر ان کی خاص ہیبت اور رعب طاری ہو گیا۔

اسی طرح ایک مرتبہ ایک ذپی صاحب نے اطلاع بھیجی کہ ہم مدرسہ کا معائضہ کرتا چاہتے

یہ حضرت نے انگلی نشست کا انتظام کر سیوں پر مدرسے سے باہر ایک مکان میں کر دیا اور انگلی مہمانی کا بھی وہیں انتظام کیا اور خود قصبه را پور تشریف لے گئے۔ یہاں لوگوں سے فرمادیا کہ وہ آؤں تو مہمان کے اکرام کا لحاظ رکھ کر مدرسہ کا معاونہ کر دیں کوئی بات خلاف تہذیب نہ ہو۔

مگر حضرت کا دل یہ چاہتا تھا کہ وہ نہ آؤں اور دعاء بھی کی۔ خدا کی قدرت کے عجیب قصہ پیش آیا کہ وہ ڈپٹی صاحب تھا نہ بھون پہنچے اور مدرسہ تک بھی آئے دروازے پر کھڑے ہو کر کچھ سوچا اور پھر واپس چل دیئے۔

بد گوئی کرنے والوں کا اعلان

فرمایا کہ میں نے تو اپنے دوستوں سے کہہ رکھا ہے کہ کوئی شخص تمہارے سامنے کوئی ناگوار بات کہے تو اتنا کہنے پر میں کرو کہ بھائی ہمارے سامنے نہ کہو۔ یوں آپ کو اختیار ہے۔ اس سے ناگواری کا اظہار بھی ہو جاوے گا اور بات بھی نہ بڑھے گی۔ ح (۷ جمادی الاولی ۱۳۵۸ھ)

حضرت مولانا محمد یعقوب صاحبؒ اور فنِ موسیقی

ارشاد فرمایا کہ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحبؒ ابتداء میں مدت تک سرکاری مدارس کے ڈپٹی انسپکٹر ہے ہیں بہت عرصہ کے بعد علوم کا درس شروع فرمایا۔ مگر استعداد اور حافظہ ایسا تھا کہ مدت دراز تک شغل نہ رکھنے کے باوجود علوم فنون سب متحضر تھے۔ جب علوم عربیہ کا درس شروع کیا تو اسکی محققانہ شان سب علماء کے نزدیک مسلم تھی۔

اسی ڈپٹی انسپکٹر کے زمانہ میں آپ کا تقریباً جمیر شریف میں ہو گیا وہاں ایک سرکاری عہدہ دار شریف آدمی فنِ موسیقی کے ماہر تھے اور مولانا کو فن کی حیثیت سے ہر فن کو سمجھنے کا ذوق تھا انہوں نے یہ فن مولانا کو بھی سکھا دیا اور مولانا کبھی بھی اسکا شغل بھی کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ بالاخانہ پر بیٹھے ہوئے اس میں مشغول تھے یہ پہلے ایک مجدوب آکر کھڑے ہو گئے جب کچھ آواز بلند ہوئی تو کہا کہ مولوی ٹو اس کام کا نہیں ٹو تو اور کام کے لئے ہے۔ یہ سننے ہی مولانا پر ایک خاص حال طاری ہوا اور فوراً تو بہ کی اور ہمیشہ کے لئے چھوڑ دیا۔ مگر چونکہ حق تعالیٰ نے ذہن کامل عطا فرمایا تھا۔ اس

فن میں بھی پوری مہارت ہو گئی تھی۔

احقر جامع کہتا ہے کہ میرے والد و اجد کا بیان ہے کہ دیوبند میں ایک مرتبہ مولانا کے محلہ میں قوالي ہو رہی تھی مولانا اگر سے مسجد کے لئے آرہے تھے کان میں آواز پڑی تو فرمایا کہ یہ قوال چال چوک گیا ہے پھر فرمایا کہ مگر واقف ہے۔ درست کرنے کی فکر میں ہے پھر فرمایا کہ اب درست کرنا اسکے بس میں نہیں رہا۔

حضرت مولانا محمد یعقوب صاحبؒ کو امتیاز سے نفرت تھی۔ یہ مذاق تھا کہ سب میں رلے ملے رہیں۔ ایک روز فرمایا کہ کیا کہوں دو حرف علم کی وجہ سے شہرت ہو گئی ورنہ میں تو کسی اور ہی طرح زندگی گزارتا۔ (یعنی گنمائی میں)۔ حضرت مولانا نتویؒ نے ان کے متعلق فرمایا کہ ہر شخص میں کچھ نہ کچھ روگ ہوتا ہے جسکی اصلاح مجاہدات کے ذریعہ کی جاتی ہے مگر مولانا محمد یعقوب صاحبؒ خلقتاً بے روگ پیدا ہوئے ہیں مولانا کے ہم عصر لوگ کہتے تھے کہ مولانا بچپن ہی سے بالکل عفیف تھے۔ (۹ جمادی الاولی ۱۳۵۸ھ)

حضرت مولانا محمد قاسم و مولانا محمد یعقوبؒ

ریاست بھوپال میں نواب صدیق حسن خان صاحب نے ایک بڑے مدرسہ کی بنیاد ڈالی تھی اور چاہا کہ حضرت مولانا محمد قاسمؒ کو اس کا مہتمم اور مولانا محمد یعقوب صاحبؒ کو صدر مدرس بنا دیں۔ مولانا نتویؒ کی تخلوہ تین سور و پیہ اور مولانا محمد یعقوب صاحبؒ کی تخلوہ یکصد ماہوار تجویز کر کے ان سے درخواست کی گئی۔ دونوں میں سے کسی کا ارادہ یہاں جانے کا نہ ہوا۔ مولانا محمد قاسم نتویؒ نے تو یہ جواب لکھ دیا کہ میں اس وقت مطبع بجتانی میں تصحیح کی خدمت انجام دیتا ہوں جس پر مجھے دس روپیہ ماہوار تخلوہ ملتی ہے جو میری ضرورت سے زائد ہے۔ پانچ روپے میں میرا معلم و عیال کے خرچ پورا ہو جاتا ہے باقی پانچ کی فکر رہتی ہے کہ انہیں کہاں خرچ کروں۔ خدا تعالیٰ ان طالبعلیوں کا بھلا کرے کہ یہ میرے اس فکر کی کفالت کر لیتے ہیں ان پر خرچ کر کے میں سکدوش ہو جاتا ہوں۔ آپ نے تین سو تخلوہ لکھی ہے اگر میں اسکو قبول کرلوں تو دوسو پیچانوے کی

فکر میرے سر پڑے گی یہ میرے لئے بالکل ناقابل تحمل ہے۔ مولا نا محمد یعقوب صاحبؒ نے یہ سن کر فرمایا کہ بات جو لکھنے کی تھی وہ تو آپؒ نے لکھدی اب میں کیا لکھوں؟ فرمایا کہ پھر میں یہ لکھتا ہوں کہ میں اس شرط سے آتا ہوں کہ مین سو ماہوار تنخواہ ہوگی۔ اور کوئی پابندی مجھ پر عائد نہ ہوگی۔ جب چاہوں گا میں اپنے وطن آ جایا کروں گا۔ دونوں کی تحریریں پہنچیں تو ان سے وہی سمجھا گیا جو لکھنے والوں کا مقصود تھا کہ یہ آنے کے لئے تیار نہیں۔ نواب صدیق حسن خان صاحب اہل حدیث میں سے تھے مگر مدرسہ کے لئے ان بزرگوں کو باوجود اختلاف مسلک کے دعوت دینا انکی حق شناسی فراخ حوصلگی کی اور ان حضرات کی مقبولیت کی علامت ہے۔

ارشاد

فرمایا کہ پھٹے پیوند زدہ پیڑے ٹوٹے جوتے میرے نزدیک ہرگز ذلت نہیں۔ ہاں ذلت یہ ہے کہ کسی کے سامنے دست سوال دراز کرے۔ خواہ ظاہر ایا باطن کیونکہ بعض اوقات ظاہر اسوال نہیں کیا جاتا مگر دل میں سوال ہوتا ہے تو اسکا بھی اثر پڑتا ہے۔ حق تعالیٰ تو دلوں کے بھید اور اسرار پر مطلع ہیں وہ دلی سوال کا بھی وہی اثر مرتب فرمادیتے ہیں جو ظاہری سوال کا ہوتا ہے یعنی مخاطب کے نزدیک ذلت و خواری۔

۵ ربیع الثانی سے ۹ جمادی الاولی ۱۳۵۸ھ تک مجلس حکیم الامتہ کے اقتباسات اپنے حوصلہ اور فہم کے مطابق احقر نے جمع کئے تھے۔ اس زمانے میں ملک میں عنایت اللہ مشرقی کی مددانہ کتابوں کی وجہ سے بڑا انتشار پھیلا ہوا تھا اس لئے حضرت نے ارادہ فرمایا کہ انکی سب کتابیں انصاف کے ساتھ دیکھ کر ان کے بارہ میں کوئی فیصلہ کیا جائے اور مسلمانوں کو اس فتنہ سے آگاہ کیا جائے۔ یہ خدمت اس ناکارہ کے سپرد کی گئی۔ محمد اللہ ۱۸ جمادی الاولی تک ۹ دن میں اس موضوع پر تحقیق و تفییض کے بعد ایک رسالہ مرتب ہو گیا جس کا نام حضرت نے یہ تجویز فرمایا۔ الارشاد فی بعض احکام الالحاد اسی زمانہ میں محمد اللہ یہ رسالہ شائع بھی ہو گیا۔

اس چالیس روزہ حاضری میں جو ملفوظات مجلس حکیم الامتہ احقر نے ضبط کئے تھے انکا کچھ

حصہ پہلے بھی ابلاغ میں شائع ہو چکا ہے باقی یہاں سمجھا کر دیئے گئے ہیں اور ۷۵ء کے بعد ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳ کے ملفوظات جو متفرق اوقات میں لکھے گئے وہ بھی پہلے درج ہو چکے ہیں۔ چونکہ ملفوظات میں تاریخی ترتیب کی کوئی خاص حاجت نہ تھی اس لئے ابتداء اشاعت کے وقت یہ ترتیب محفوظ نہ رہی۔ تاریخی اعتبار سے اشاعت میں تقدیم تاخیر ہو گئی تاہم بہت سے موقع میں تاریخ کا اظہار کر دیا گیا ہے۔

احقر کے پاس جو ضبط شدہ ملفوظات حکیماً امتہ قدس سرہ کا مختصر ساز خیرہ مسودات کی شکل میں تھا جمِ اللہ اس کا ضروری انتخاب لے کر یہ مجموعہ آج پورا ہو گیا۔ جس سے اس مجلس مبارک کا دھندا سانقشہ کچھ سامنے آ جاتا ہے اور حقیقت تو یہ ہے کہ اس کا نقشہ کھینچنا ہمارے بس کی بات نہیں۔

ویکھا تھا بس ایک خواب سا معلوم نہیں کیا
اب تک اثر خواب ہے معلوم نہیں کیوں



اصلاح ظاہر و باطن کیائے

خطبات حکیم الامت

کا ایک عظیم انسائیکلو پیڈیا

جدید دعوات عبدیت اور دوسرے سینکڑوں موعوظ کا مجموعہ 32 جلد

| | | | | | |
|-------|------|----------------|-------|------|--------------------|
| 171/- | (17) | سنن ابراہیم | 159/- | (1) | دنیا و آخرت |
| 180/- | (18) | مفاسد گناہ | 180/- | (2) | علم و عمل |
| 180/- | (19) | آداب انسانیت | 163/- | (3) | دین و دنیا |
| 173/- | (20) | حقوق الزوجین | 177/- | (4) | حقوق و فرائض |
| 195/- | (21) | تدبیر و توکل | 177/- | (5) | مسیلا دال النبی ﷺ |
| 180/- | (22) | ذکر و فکر | 177/- | (6) | نظام شریعت |
| 171/- | (23) | راہِ نجات | 180/- | (7) | حقیقت عبادت |
| 141/- | (24) | موت و حیات | 189/- | (8) | حقیقت مال و جاہ |
| 180/- | (25) | حدود و قیود | 195/- | (9) | فضائل صبر و شکر |
| 195/- | (26) | اصلاح اعمال | 180/- | (10) | فضائل صوم و صلوٰۃ |
| 186/- | (27) | فضائل علم | 180/- | (11) | حقیقت تصوف و تقویٰ |
| 180/- | (28) | اصلاح ظاہر | 177/- | (12) | محاسن اسلام |
| 165/- | (29) | اصلاح باطن | 150/- | (13) | دعوت و تبلیغ |
| 195/- | (30) | خیر الاعمال | 150/- | (14) | جز او سزا |
| 165/- | (31) | رحمت دو عالم ﷺ | 177/- | (15) | تساییم و رضا |
| 181/- | (32) | فہرست عنوانات | 171/- | (16) | برکات رمضان |

تقریباً سولہ ہزار صفحات پر مشتمل خوبصورت 32 جلدیں - 5620/- قیمت

مکمل سیٹ خریدنے پر خصوصی رعایت دی جائے گی۔